

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْقُرْآنُ
أَشْرَفُهُ جِسْمِ كَيْسَاءِ كَوْنِي مُبَوِّدِيْنِيْنَ، أَيْ كَيْسِيْنَ سَبِّبِ اِيْتِحَامِ

اللَّهُ

تائول كى شرح

عالم فقہی

ادارہ پیغام القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (القرآن)
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔



عالمہ رفقی

ادارہ پیغام القرآن

98163

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب ----- اللہ کے ناموں کی شرح

مؤلف ----- عالم فقری

اشاعت ----- ۲۰۰۵ء

تعداد ----- ۱۱۰۰

زیر اہتمام ----- محسن فقری

منتظم ----- جاوید فقری

پروف ریڈنگ ----- حافظ محمد حبیب اللہ

کمپوزنگ ----- ورڈز میکرو لہور

پریس ----- اشتیاق احمد مشتاق پرنٹرز لہور

قیمت ----- ۱۳۰ روپے

ملنے کا پتہ

شبیر برادرز اردو بازار لہور

فہرست اللہ کے ناموں کی شرح

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
54	الْبَارِئُ	13	7	اللَّهُ	1
59	الْمُصَوِّرُ	14	16	الرَّحْمَنُ	2
65	الْغَفَّارُ	15	21	الرَّحِيمُ	3
69	الْقَهَّارُ	16	25	الْمَلِكُ	4
72	الْوَهَّابُ	17	30	الْقُدُّوسُ	5
79	الرَّزَّاقُ	18	33	السَّلَامُ	6
83	الْفَتَّاحُ	19	35	الْمُؤْمِنُ	7
85	الْعَلِيمُ	20	38	الْمُهَيِّمُ	8
91	الْقَابِضُ	21	40	الْعَزِيزُ	9
95	الْبَاسِطُ	22	44	الْجَبَّارُ	10
98	الْخَافِضُ	23	47	الْمُتَكَبِّرُ	11
103	الرَّافِعُ	24	49	الْخَالِقُ	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
188	الْكَرِيمُ	43	107	الْمُعِزُّ	25
192	الرَّقِيبُ	44	111	الْمُدِلُّ	26
196	الْمُجِيبُ	45	113	السَّمِيعُ	27
200	الْوَاسِعُ	46	116	الْبَصِيرُ	28
202	الْحَكِيمُ	47	121	الْحَكَمُ	29
208	الْوَدُودُ	48	123	الْعَدْلُ	30
213	الْمَجِيدُ	49	130	الْلَطِيفُ	31
215	الْبَاعِثُ	50	136	الْخَبِيرُ	32
218	الشَّهِيدُ	51	142	الْحَلِيمُ	33
224	الْحَقُّ	52	145	الْعَظِيمُ	34
230	الْوَكِيلُ	53	150	الْغَفُورُ	35
234	الْقَوِيُّ	54	156	الشَّكُورُ	36
237	الْمَتِينُ	55	160	الْعَلِيُّ	37
239	الْوَلِيُّ	56	168	الْكَبِيرُ	38
244	الْحَمِيدُ	57	171	الْحَفِيفُ	39
249	الْمُحْصِي	58	177	الْمُقِيتُ	40
252	الْمُبْدِي	59	179	الْحَسِيبُ	41
255	الْمُعِيدُ	60	184	الْجَلِيلُ	42

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
321	التَّوَابُ	81	258	الْمُحْيِي	61
327	الْمُنْتَقِمُ	82	260	الْمُمِيتُ	62
330	الْعَفْوُ	83	263	الْحَيُّ	63
335	الرَّءُوفُ	84	267	الْقَيُّومُ	64
339	مَالِكُ الْمَلِكِ	85	272	الْوَاحِدُ	65
345	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	86	275	الْمَاجِدُ	66
348	الْمُقْسِطُ	87	276	الْوَاحِدُ	67
354	الْجَامِعُ	88	281	الْأَحَدُ	68
358	الْغَنِيُّ	89	283	الصَّمَدُ	69
361	الْمُغْنِي	90	286	الْقَادِرُ	70
364	الْمَانِعُ	91	289	الْمُقْتَدِرُ	71
370	الضَّارُّ	92	291	الْمُقَدِّمُ	72
374	النَّافِعُ	93	293	الْمُؤَخِّرُ	73
378	النُّورُ	94	296	الْأَوَّلُ	74
383	الْهَادِي	95	299	الْآخِرُ	75
388	الْبَدِيعُ	96	301	الظَّاهِرُ	76
390	الْبَاقِي	97	304	الْبَاطِنُ	77
394	الْوَارِثُ	98	308	الْوَالِي	78
397	الرَّشِيدُ	99	311	الْمُتَعَالِي	79
400	الصَّبُورُ	100	314	الْبَرُّ	80

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
463	الْكَافِي	122	404	الْقَرِيبُ	101
469	الْغَالِبُ	123	408	رَبُّ	102
473	الْمَنَّانُ	124	414	الْمُبِينُ	103
478	الْبُرْهَانُ	125	416	الْقَدِيرُ	104
481	السَّرِيعُ	126	419	الْحَافِظُ	105
482	الْمُنْعَمُ	127	422	الْكَفِيلُ	106
487	الْشَافِي	128	423	الشَّاكِرُ	107
490	الْعَالِمُ	129	425	الْأَكْرَمُ	108
495	الشَّدِيدُ	130	427	الْأَعْلَى	109
498	الْحَنَّانُ	131	429	الْمَوْلَى	110
499	الْمُعْطَى	132	431	النَّصِيرُ	111
501	الْجَمِيلُ	133	436	الْإِلَهِ	112
502	الْفَرْدُ	134	443	الْخَلَّاقُ	113
503	الْوَتْرُ	135	446	الْقَاهِرُ	114
504	اسماء الحسنی	136	447	الْغَافِرُ	115
512	اسماء الحسنی مطابق قرآن مجید	137	451	الْفَاطِرُ	116
519	اسماء الحسنی بحوالہ آیات قرآن مجید	138	453	الْمَلِيكُ	117
525	نقشہ روایات	139	454	الْحَفِيُّ	118
534	نقشہ اعداد	140	456	الْمُحِيطُ	119
541	فہرست مطابق حروف تہجی	141	459	الْمُسْتَعَانُ	120
			462	الرَّفِيعُ	121

اللَّهُ

یا اللہ (اے اللہ) ☆ اعداد: 66 - تاثیر: معتدل

اے اللہ! تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کیلئے نہیں اور یہ صرف تیرے لئے ہی ہے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی اللہ ہو سکتا نہیں۔ تیرا نام ہی اسم اعظم ہے اور لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے اور تیری ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جسے روز ازل میں ہر روح نے مانا کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ اے اللہ! تو اس لئے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیرا طالب ہے اور تو اس کا مطلوب ہے اور کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو اس لئے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں شام و سحر سرگرداں ہے۔ اے اللہ! تو اس لئے بھی اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو ہی ہے۔ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے۔ درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ! تو اس لئے اللہ ہے کہ تجھے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور ایسا سکون پاتا ہے جو تیرے سوا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اے اللہ! جسے تو نے چاہا اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا تو اس لئے بھی اللہ ہے کہ تیرا نام لینے سے دل بیقرار قرار پاتا ہے۔ ہر دل تیرا شیدا ہے۔ ہر روح تجھ پر شیفتہ اور فریفتہ ہے۔ تیری شان اعلیٰ ہے تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بلند و بالا ہے۔ تو اس لئے بھی اللہ ہے کہ تو ہمارا معبود اور ہم تیرے بندے ہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ ہر چیز تیری تسبیح خواں ہے اور ہر چیز تیری بارگاہ ہی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔

اللہ وہ ہے جو اَحد اور واحد ہے۔ اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے۔ ہر شے کا رب اور ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں کیونکہ ارض و سماء کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تحت الثریٰ اور فوق ثریا تک کی تمام غائب حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو خاک کی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرمادیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے اور طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے اور اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ جسے وہ عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ چھینے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ محافظ بھی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ”کن“ تو پس وہ اسی وقت جس طرح چاہتا ہے ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ اس کے جلوہ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لئے میرے دوست! اسے دل و جان سے مان لے اور اس کے میخانہ میں سے توحید کا پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بے خبر اور بیگانہ ہو جا اور زندگی کا ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزار دے اور یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اور چونکہ یہ اسم اعظم ہے اس لئے اس کا ورد تمام اسرار و رموز کا خزانہ ہے۔ ہر قسم کے فیوض و برکات کا منبع ہے اس لئے جو اس اسم کا ہمیشہ ورد کرے اسے دین و دینا میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ یہ اسم جمال کا مظہر ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2360 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات حسب

ذیل ہیں جن سے لفظ اللہ کی وضاحت ہوتی ہے۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي لَا وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(پ 16 ط 14)

ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ (پ 6 نساء 164)

ترجمہ: اور بہت سے رسول ہیں جن کے قصے تم سے پہلے بیان کر دیئے ہیں اور ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کا ذکر آپ پر نہیں کیا اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (پ 9 اعراف 180)

ترجمہ: اور اچھے نام اللہ ہی کیلئے ہیں پس ان ناموں سے پکارو اور جو اس کے ناموں میں بے اعتنائی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پالیں گے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (پ 16 ط 8)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے تمام نام اچھے ہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ (پ 3 آل عمران 18)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے انصاف کے تقاضے کو قائم رکھتے ہوئے گواہی دی۔

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۗ ط

(پ 3 آل عمران 62)

ترجمہ: یہ تمام قصہ حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ ط (پ 16 ط 98)

ترجمہ: بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

(پ 18 مومنون 116)

ترجمہ: پس اللہ عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پ 26 محمد 19)

ترجمہ: پس جان لو کہ بلاشبہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ ط لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ ط (پ 11 یونس 68)

ترجمہ: انہوں نے کہا اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے مگر وہ پاک ہے وہ بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ۝ (پ 6 نساء 169)

ترجمہ: مگر ان کی راہ جہنم کی طرف ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (پ 6 مائدہ 1)

بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(پ 8 اعراف 54)

سب مخلوق اور حکم اسی کا ہے اللہ بڑی برکت والا تمام جہانوں کا رب ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَفَلَا مَرَدُّ لَهُ (پ 13 رعد 11)

ترجمہ: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب اللہ کسی قسم کا برا حال کرنا چاہے تو وہ برائی ٹل نہیں سکتی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ (پ 15 کہف 1)

ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (پ 18 نور 38)

ترجمہ: اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (پ 20 عنکبوت 5)

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا خواہش مند ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور وہی سمیع ہے علم والا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 21 لقمان 9)

ترجمہ: اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ عزیز ہے حکیم ہے۔

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝ (پ 26 محمد 35)

ترجمہ: اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذَلِكَمُ اللَّهُ فَانِي تُوْفِكُون ۝

(پ 7 انعام 95)

ترجمہ: بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور زندہ سے مردہ کر دیتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان پس تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ ضَعْدِ
فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ۝ (پ 11 یونس 32)

ترجمہ: یہ اللہ ہے جو تمہارا رب حق ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے پس تمہیں کس طرف پھیرا جا رہا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(پ 21 لقمان 27)

ترجمہ: اور اگر زمین میں موجود تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی اس کے بعد ان کے سیاہی کی صورت میں شامل ہو جائیں تو اللہ کی تعریف کے کلمات پورے نہ ہوں گے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط

(پ 24 مومن 61)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں

آرام کرو اور دن کو روشن بنایا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

(پ 24 مؤمن 64)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے جائے قیام اور آسمان کو

چھت بنایا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ

الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ (پ 28 طلاق 12)

ترجمہ: اللہ ہی نے سات آسمانوں کو بنایا ہے اور انہی کی مثل زمین بھی

بنائی ہے حکم ان کے مابین نازل ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

(پ 29 نوح 19-20)

ترجمہ: اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے بچھونے کی مانند کر دیا ہے تاکہ تم

اس کی کشادہ راہوں پر چلو۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

(پ 2 بقرہ 219)

ترجمہ: تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر

کرو۔

وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ۖ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ ۝ (پ 3 آل عمران 13)

ترجمہ: اور اللہ اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے جس کی چاہے بے شک اس

میں اہل بصیرت کیلئے عبرت ہے۔

حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ اس موجودہ حق کا نام ہے جو صفات

الہیت کا جامع، اوصاف ربوبیت سے موصوف اور وجود حقیقی سے ممتاز ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود وجود بذاتہ کا مستحق نہیں ہے اور ہر موجود نے اسی سے وجود حاصل کیا ہے۔ لہذا وہ بذاتہ ہالک ہے اور دوسری جہت سے موجود ہے۔ فَكُلُّ مَوْجُودٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر موجود خدا کی ذات کے سوا فانی ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ اسم اس معنی پر دلالت کرنے کیلئے اسمائے اعلام کا کام دے رہا ہے اور اس کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے لکھا ہے وہ محض تکلف و تعسف ہے۔

یہ نام ننانویں ناموں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثنا تمام صفات الہیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم، قدرت اور فعل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی بہ نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کیلئے حقیقہ یا مجازاً استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی موسوم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر، علیم، رحیم وغیرہ۔ انہیں دو وجوہ سے ظن ہوتا ہے کہ یہ نام اسم اعظم ہے۔

تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر رحیم، علیم، حلیم، صبور اور شکور کا اسم بولا جاسکے۔ اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو اور اللہ پر ان کا اطلاق اور وجہ سے مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شرکت نہیں پائی جاتی اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں۔ چنانچہ یوں کہیں گے کہ الصبور اور الشکور اور الجبار اور الملك، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ صبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث المعانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے اور سب کی بہ نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور

ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کیلئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں اور دوسرے اسماء کی تعریف کیلئے اس کی نسبت لازم ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ اس موجود اور حق ذات کا نام ہے جو الوہیت کی صفات کی جامع ہے۔ منفرد ہے اور وجود حقیقی سے موجود ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے اسے اسی موجود حقیقی کی ذات سے وجود عطا ہوا ہے کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی حد ذات میں معدوم ہے۔ اس کا وجود اس وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت ذات حق سے ہے اور اس کا منہ اس ذات برحق کی جانب ہے اس تشریح کے مطابق یہ آیت کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (ترجمہ: اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔) بالکل مطابق ہے اور یہ کہنا بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت اور بالذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں اور لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے جو کہ معبود بحق ہے اور لفظ الہ بمعنی معبود مطلق ہے۔ حق ہو یا باطل لفظ اللہ کے مفہوم میں تمام صفات کی جامعیت ملحوظ ہے۔ باقی اسماء صرف ایک ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسم اللہ کا اطلاق بطریق حقیقت مجاز کسی طرح بھی غیر حق پر نہیں بولا جاسکتا جس کے برعکس دوسرے اسماء کا اطلاق بطریق مجاز غیر حق پر بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس گفتگو سے واضح ہوا کہ اسم مبارک اللہ اس کے تمام اسماء سے اعظم ہے۔ دوسرے اسماء کو اسماء اللہ کہتے ہیں۔ اس کا عکس نہیں ہو سکتا باقی اسماء کے معانی بندے کیلئے بھی متصور ہو سکتے ہیں جو کہ ان معانی سے متخلق ہو۔ مگر اسم اللہ بندے کے ساتھ تعلق کیلئے ہے۔ تخلق اور موصوف ہونے کیلئے نہیں۔ اس اسم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ بندہ اس کی محبت میں سرگردان رہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی یاد میں متفرق کر دے اس کے غیر کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور نہ اس کے غیر سے کوئی امید رکھے نہ ہی غیر خدا سے ڈرے اور اپنے دیدہ شہود سے اس کے غیر کو نہ دیکھے جبکہ اس اسم کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب

اس کے سوا فانی اور ہالک اور باطل ہیں پس وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ہالک و باطل سمجھے گا۔

الرَّحْمَنُ

يَا رَحْمَنُ (اے رحمت والے) ☆ اعداد: 298 - تاثیر: جمالی

رحمن کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے۔ ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کیلئے ہے یعنی بلا مذہب کی قید، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو، نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل ہونا ہے۔ مثلاً جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب، نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے یعنی وہ سب کیلئے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمن کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ کے بعد اکثر رحمن کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رحمن بھی اسم ذاتی کا درجہ رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۗ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ (پ 15 بنی اسرائیل 110)

ترجمہ: آپ فرما دیں کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو غرضیکہ تم جس طرح بھی پکارو گے یہ سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

(پ 16 مریم 18)

ترجمہ: حضرت مریم کہنے لگیں میں تم سے رحمن کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم

متقی ہو۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۚ

(پ 16 مریم 69)

ترجمہ: پھر ہم ہر گروہ سے اس شخص کو علیحدہ کر لیں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ رحمن پر اعتراض کرنے والا تھا۔

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ (پ 16 مریم 78)

ترجمہ: کیا وہ غیب سے مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمن سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۗ (پ 16 مریم 85)

ترجمہ: جس دن اہل تقویٰ کو مہمان بنا کر رحمن کے حضور لے جائیں گے

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ

(پ 16 مریم 87)

ترجمہ: اس وقت کوئی شفاعت کا حق نہ رکھتا ہوگا سوائے اس کے کہ جنہوں نے رحمن سے وعدہ لے رکھا ہوگا۔

إِنَّ كُلًّا مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ ط

(پ 16 مریم 93)

ترجمہ: تم لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب رحمن کے بندے بن کر اس کے سامنے پیش ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۗ

(پ 16 مریم 96)

ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کئے قریب ہے کہ رحمن ان میں محبت پیدا کر دے گا۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا

(پ 19 فرقان 59)

ترجمہ: اسی نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے 6 دنوں میں بنایا پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا وہ رحمن ہے اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے رہنمائی حاصل کر لیں۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (پ 16 ط 5)

رحمن عرش پر جلوہ افروز ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (پ 16 ط 108)

ترجمہ: اس دن سب لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے کوئی اس سے روگردانی نہ کر سکے گا تمام آوازیں رحمن کیلئے پست ہو جائیں گی۔ پس تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے گا۔

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ط بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ (پ 17 انبیاء 42)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ رحمن کے عذاب سے رات اور دن تمہاری کون نگہداشت کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھرتے ہیں۔

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ط وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (پ 17 انبیاء 112)

ترجمہ: آپ نے فرمایا اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور جو باتیں تم بتاتے ہو اس پر ہمارے رب رحمن کی مدد کی ضرورت ہے۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (پ 19 نمل 30)

ترجمہ: بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام

سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔

حَمَّ ۞ تَنْزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ (پ 24 حم سجدہ 1-2)

ترجمہ: حم یہ کلام رحمن اور رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۞ (پ 26 ق 33)

ترجمہ: جس نے بن دیکھے رحمن کی خشیت رکھی اور اللہ کی طرف متوجہ

رہنے والا دل لے کر آیا

الرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۞ (پ 27 رحمن 1-3)

ترجمہ: رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا اسی نے انسان کو

پیدا کیا۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۞ (پ 29 ملک 3)

ترجمہ: تمہیں رحمن کی تخلیق میں تضاد نظر نہیں آئے گا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَ يَقْبِضْنَ ۞ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا

الرَّحْمَنُ ۞ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ (پ 29 ملک 19)

ترجمہ: بھلا تمہارا کون ایسا لشکر ہے جو رحمن کے سوا تمہاری مدد کر سکے

بلاشبہ اہل کفر دھوکے میں ہیں۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۞ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ (پ 30 نبا، 38)

ترجمہ: جس دن جبرائیل اور تمام فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے

کوئی رحمن کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا اور جو صحیح بات کہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ رحمن رحمت سے مشتق ہے مگر

الرحمن بہ نسبت الرحیم کے خاص ہے اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کیلئے استعمال نہیں کیا

جاتا اور رحیم کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے

قریب ہے اور علم کا کام دے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے مشتق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۗ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (یعنی کہہ دو اے محمد ﷺ) کہ خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو (پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسماء میں ترادف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو۔ جو بندوں کی مقدورات سے بالکل بعید ہو اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوم ان کو ایمان اور اسباب سعادت کی طرف ہدایت کر کے۔ سوم آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہارم ان کو اپنے دیدار سے بہرہ ور کر کے۔

اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غافل بندوں پر رحم کر کے ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقار کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور جو برائی دنیا میں واقع ہو اس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور بھر اس کے ازالہ میں کوتاہی نہ کرے۔ محض اس عاصی کے حال پر ترس کھا کر کہ بیچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ ہو جائے اور اس کے قرب سے محروم نہ رہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر کیا ہے کہ رحمن اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں مگر رحمن میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رحمت کو شامل اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ رحمت کا معنی ہے محتاجوں تک

خیر و بھلائی کا پہنچانا اور ان کیلئے خیر کا ارادہ کرنا حق تعالیٰ کی رحمت عام ہے جو دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور ہر قسم کی ضرورتوں و حاجتوں کو شامل ہے اور ہر اسم کی جو دو عنایت کی خصوصیات اور فضیلتوں کو شامل ہے۔ اس کی عنایت بندے کے شامل حال بغیر کسی غرض و عوض کے ہوتی ہے۔ ان دو اسموں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ جب وہ پہچان لیتا ہے کہ منعم حقیقی اور مطلق ولی نعمت وہی ہے تو پھر بندے کو چاہئے کہ اسی پر توکل کرے اور اپنے سب کام اسی کے سپرد کرے اور کلیتہً اس کی جناب رحمت کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے غیر سے حقیقتاً مدد طلب نہ کرے اور اس کے غیر کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ ان معنی کے مطابق تو ان دو اسموں سے یہ تعلق ہے اور ان دو اسموں سے خود متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ بندگان خدا پر رحمت کرے سب کو نظر رحمت سے دیکھے۔ برائی کے دور کرنے میں کوشش کرے۔ محتاجوں کی حاجت حتی الامکان پوری کرے۔ یہ سب کچھ بطریق مہربانی اور ارادہ خیر و بھلائی کرے کسی غرض اور عوض کو ذہن میں نہ رکھے۔ اگرچہ واقع میں حقیقتاً انسان کی رحمت دوسرے پر کسی غرض اور عوض کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

الْحَمِيمُ

يَا رَحِيمُ (اے رحم کر نیوالے) ☆ اعداد: 258 - تاثیر: جمالی

رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، ناتوانی، در ماندگی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے اور جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کی نظر التفات کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو تو اسے درست کر دیتا ہے۔ دراصل صفت رحیم، رحمن ہی کی ایک مخصوص صورت ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جبکہ اس سے

رحم مانگا جاتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ (پ 5 نساء 64)

ترجمہ: پھر جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں پس

اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کیلئے استغفار کریں تو اللہ توبہ قبول

کرنے والا رحم والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ (پ 26 حجرات 12)

ترجمہ: بے شک اللہ توبہ ہے رحیم ہے۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝ (پ 27 طور 28)

ترجمہ: بے شک اس سے قبل ہم اسی کو پکارتے تھے بلاشبہ وہ احسان

کرنے والا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

(پ 1 بقرہ 143)

ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے بے شک اللہ

لوگوں پر رؤوف رحم کرنے والا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (پ 5 نساء 29)

ترجمہ: اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا

ہے۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (پ 15 بنی اسرائیل 66)

ترجمہ: تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لئے کشتیوں کو چلاتا

ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرتا ہے۔

98163

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ (پ 22 احزاب 43)

ترجمہ: وہی ہے جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلوٰۃ بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور میں لے آئے اور اللہ مومنوں کیلئے بڑا ہی رحیم ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَهَوَّ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

(پ 19 شعراء 9-68-104-122-140-159-175-217)

ترجمہ: اور بلاشبہ آپ کا رب غلبے والا رحم فرمانے والا ہے۔

بِنَصْرِ اللَّهِ ۗ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

(پ 21 روم 5)

ترجمہ: وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہی غلبے والا رحم والا ہے۔

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۗ (پ 22 یسین 5)

ترجمہ: یہ قرآن عزت والے رحم والے کا نازل کردہ ہے۔

إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (پ 25 دخان 42)

ترجمہ: سوائے اس کے کہ جن پر اللہ رحم فرمائے بلاشبہ وہ غلبے والا رحم والا ہے۔

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝

(پ 12 ہود 90)

ترجمہ: اور اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی کے حضور توبہ کرو بے شک

میرا رب رحیم ہے اور محبت کرنے والا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝ (پ 22 سبأ 2)

ترجمہ: جو کچھ زمین کے اندر پایا جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے اسے وہ جانتا ہے اور وہی رحیم ہے غفور ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (پ 21 احزاب 5)

ترجمہ: اور اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (پ 24 تم السجدہ 32)

ترجمہ: یہ بخشنے والے کی طرف سے مہربانی ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 28 مجادلہ 12)

ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو پس اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اللہ کی رحمت تامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا تامہ ہونا تو اس حیثیت سے ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے اور اس کا عامہ ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے اور دنیا و آخرت میں عام ہے اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ غرض کہ وہ رحیم مطلق و برحق ہے۔

رحمت کیلئے ایک ایسی پرورد رقت لازم ہے جو رحیم کو محسوس ہو اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس (تاثر و انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ امر رحمت کے معنی کیلئے نقصان نہیں بلکہ کمال ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے اور جب کسی محتاج کی حاجت کو بکمال پورا کر دیا جائے تو محتاج کو راحم کے درد دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا درد دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے اور یہ ضعف محتاج کی دعا میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا جبکہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

کمال اس لئے ہے کہ جو رحیم رقت اور درد دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کیلئے سعی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظر مرحوم کی طرف مرحوم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود رقت کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔

اسم رحیم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ حسب وسعت بھوکے کا پیٹ بھرے۔ اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے اور اس کی محتاجی دور کرے۔ خواہ اپنے مال سے یا اپنے رسوخ و وجاہت کے ذریعے سے۔ یا اس کیلئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہار ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹائے کہ گویا اس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہے۔

اَلْمَلِكُ

يَا مَالِكُ (اے بادشاہت والے)

اعداد: 90 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ملک ہے مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں۔ اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے۔ یعنی وہ ایسا بادشاہ ہے کہ دونوں عالم کی ملکیت اس کے احاطہ قدرت و تصرف میں ہے۔ بادشاہ حقیقی وہی ہے تمام اشیاء پر غالب ہے ہر چیز میں اسی کا تصرف کارفرما ہے۔ اشیاء کو وجود میں لانے اور وجود سے

عدم کی طرف لے جانے زندہ کرنے مارنے تکلیف دفع کرنے اور عطا کرنے کی قدرت بھی اسی کو ہے۔ اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے بے نیاز ہے اس کے سوا ہر موجود چیز اپنی ذات و صفات میں وجود بقاء، افعال و آثار میں اس کی محتاج ہے تو جو چیز بھی اس کے ماسوا ہے وہ اس کی مملوک اور تابع فرمان ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اپنی تقدیر و تدبیر میں یگانہ ہے۔ اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے ارادے سے کوئی سرکشی نہیں کر سکتا۔ پس وہی ذات بادشاہ اور حاکم علی الاطلاق ہے پھر ملک مالک کی نسبت زیادہ خاص اور زیادہ بلیغ ہے ہر ملک مالک ہوتا ہے مگر ہر مالک ملک نہیں ہوتا۔

اسماء الحسنیٰ غزالی میں ہے کہ مَلِک وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں موجود سے مستغنیٰ ہے۔ اور ہر موجود اس کا محتاج ہے بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں، غرض کسی بات میں اس سے مستغنیٰ نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنیٰ ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمَلِکِ تُؤْتِی الْمَلِکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِکَ
مِمَّنْ تَشَاءُ (پ 3 آل عمران 26)

ترجمہ: اس طرح کہیں کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک چھین لے۔

وَ لِلّٰهِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝
(پ 4 آل عمران 189)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کیلئے اور اللہ ہر چیز پر قادر

ہے۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

ص (پ 9 اعراف 158)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 7 مانده 120)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان پر بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

(پ 18 فرقان 2)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر چیز کی تخلیق اس نے کی ہے پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(پ 23 یسین 83)

ترجمہ: پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔

يَوْمَ هُمْ بَرْزَوْنَنَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (پ 24 مؤمن 16)

ترجمہ: جس دن وہ اللہ کے سامنے آجائیں گے تو ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی آج کس کی بادشاہی ہے صرف اللہ کی جو واحد اور

قہار ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

(پ 27 حدید 5)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ ہی کی ہے اور تمام امور کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 28 جمعہ 1)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے جو بادشاہ ہے قدوس ہے عزیز ہے حکیم ہے۔

بندہ ملک مطلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے۔ اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے تو خدا کا ضرور ہمیشہ کیلئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز اس کی محتاج بھی نہیں ہے بلکہ اکثر موجودات اس سے مستغنی ہیں لیکن جس صورت میں کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنی ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت سے ملک کہلا سکتا ہے۔

الغرض بندوں میں سے ملک وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو اور وہ بعینہم اپنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں۔

سچ پوچھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل اور قالب ہیں اور فوج اس کی شہوت، غضب اور خواہشات اور رعیت اس کی زبان، آنکھیں، ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں تو وہ روئے زمین کا

بادشاہ ہے اور یہ رتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پائے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں۔ اس شاہی سلسلے میں انبیاء کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں۔

ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جا ملتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ملک برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کیلئے بڑا عطیہ ہے۔

جب بندے نے یہ جان لیا کہ علی الاطلاق وہی بادشاہ ہے بندہ تو اس کی درگاہ اور اس کے کوچے کا ایک گدا ہے عزت کی طلب اسی کے آستانہ خدمت و طاعت سے کرتا ہے بندہ جب یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے اسی کا محتاج اسی کے تابع اور اسی کے زیر حکم ہے تو بندے کو لازم ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرے اور لوگوں سے بالکل یہ بے نیاز ہو جائے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہ کرے۔ مخلوقات میں سے کسی سے کوئی ڈر اور امید وابستہ نہ کرے پھر بندے کا اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس دل اور جسم کے ملک میں حکمرانی کرے۔ اس میں منشاء خداوندی کے مطابق تصرف کرے اور ہر چیز کا مالک بنے اپنے اعضا اور قوتوں کو خدائے تعالیٰ کی اطاعت اور حکم شرع کے تابع کرے یہاں تک کہ اپنے وجود کے جہاں کا بادشاہ بن جائے طالبان حق اور اس راستے پر چلنے والوں میں تصرف کرے۔ کسی بزرگ سے لوگوں نے وصیت کی درخواست کی تو اس نے فرمایا دنیا و آخرت کا بادشاہ بن یعنی اپنی ہر دنیوی حاجت اور خواہش کو اپنے اندر سے الگ کر دے کیونکہ بادشاہی اور حکمرانی کیلئے آزادی اور بے نیازی ضروری ہے۔

الْقُدُّوسُ

يَا قُدُّوسُ (اے منزہ و پاک) ☆ اعداد: 170 - تاثیر: جمالی

قدوس کا لفظ قدس سے بنا ہے اس کا مطلب پاکیزگی ہے۔ اس لئے قدوس سے یہ مراد ہے کہ وہ اس سے بدرجہا بالا و برتر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی کمی یا نقص ہو بلکہ وہ پاکیزہ ترین ہستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص اور آفت سے پاک اور منزہ ہے۔

منزہ سے یہ مراد ہے کہ جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ ان سے بالکل پاک ہے۔ اس لئے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔

اس کے بارے میں ایک اور قول ہے کہ قدوس سے مراد وہ ذات ہے جو نقص و عیب کے ہر نشان اور حدوث و امکان کے ہر شائبے سے انتہائی پاک و منزہ ہے بلکہ ہر ایسے وصف سے بھی منزہ اور پاک جو حسن و خیال اور وہم میں آسکتی ہے یا جس وصف کا عقل احاطہ کر سکتی ہے جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے ہر وہ شے جو تیرا دل محسوس کرے یا ہر وہ صورت جو دل یا خیال میں ابھرے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ قدوس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف کمال سے پاک ہے جنہیں اکثر لوگ اوصاف کمال سمجھتے ہیں۔ مثلاً ان کا علم، ان کی قدرت، ان کے سمع و بصر (سننا، دیکھنا) ان کا کلام، ان کا ارادہ، سو اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کمال سے پاک ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ان کے اوصاف نقص سے پاک ہے بلکہ ہر وہ صفت جس کا تصور مخلوق کیلئے کیا جاسکتا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، یونہی اس کے مشابہ و مماثل سے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(پ 28 حشر 23)

ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے
قدوس ہے سلامتی دینے والا ہے امان بخشنے والا ہے نگہبانی کرنے والا
ہے۔ عزیز ہے جبار ہے کبریائی والا ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک
ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ:

لِيَسْبِحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 28 جمعہ 1)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے جو بادشاہ
ہے قدوس ہے عزیز ہے حکیم ہے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
صفت قدوسیت کا مالک ہے۔

اس اسم مبارک سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ اس جناب اقدس تک وصول ممکن
نہیں ہے مگر عالم حس سے عروج اور لذائذ جسمانی سے خروج اور لوح دل سے غیر
کے نقوش کی صفائی کے بعد اسی طرح جو کچھ ماسوائے حق ہے اس سے باطن کو مکمل
طور پر پاک اور منزہ کر لینے کے بعد ہی اس کی ذات کا وصال ممکن ہے۔ امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندے کا مقدس ہونا و منزہ ہونا یہ ہے کہ بندہ اپنے علم کو
خیال میں لانے والی چیزوں و محسوسات اور وہم میں آنے والی چیزوں اور اپنے تمام
ارادوں کو بشری خطوط و لذائذ سے جو شہوت و غضب سے تعلق رکھتی ہیں بالکل پاک
کرے تاکہ باقی نہ رہے اس کیلئے کوئی لذت اور حصہ مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس میں

ذات حق کی ملاقات کے سوا کسی چیز کا شوق نہ رہے اور اس کے قرب کے سوا کسی چیز سے خوشی نہ ہو۔ (شرح مشکوٰۃ)

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ بندے کا اس اسم سے یہ حصہ کہ اپنے ارادہ اور علم کو منزہ کرے۔ علم کو مختیلات، محسوسات، موہمات سے اور تمام ادراکات سے جن میں چوپائے شریک ہیں پاک کرے بلکہ اس کی جولانی نظر اور انتہائے علم، ان ازل امور کیلئے ہو جو نہ قریب ہیں کہ حس کے ساتھ محسوس ہوں۔ نہ بعید ہیں کہ حس سے غائب ہوں بلکہ وہ فی نفسہ محسوسات اور مختیلات سے پاک ہو جاتا ہے اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حس و تخیل کا آلہ مفقود بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کلیہ والہیہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو ازلی و ابدی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں جو سدا متغیر و مستحیل ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے ارادہ کو کون انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے جو شہوت اور غضب کی مقتضیات اور خوراک، جماع، لباس، نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حسن اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطمع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کی دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کے بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور گھر والے کو چھوڑ کر خالی گھر پر کبھی راضی نہ ہو۔

الغرض حسی و خیالی ادراکات میں تو چوپائے بھی اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس رتبہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے، جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات میں بھی چوپائے مقابلہ کرتے ہیں لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صاحب ارادہ کی عظمت اس کی مراد کی عظمت کے موافق

ہے۔

چنانچہ جس شخص کا منتہائے ہمت وہی ہے جو پیٹ میں ٹھوس لیا تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے اور جس شخص کا منتہائے ہمت خدا کے سوا کوئی نہ ہو تو اس کا درجہ بھی حسب ہمت ہے جس شخص کا علم محسوسات و تخیلات کے درجہ سے ترقی کر گیا اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا۔

السَّلَامُ

يَا سَلَامُ (اے سلامتی والے) ☆ اعداد: 131 - تاثیر: جمالی

السلام کا معنی سلامتی ہے یہاں بمعنی سالم اور محفوظ ہے یعنی وہ ذات کہ اس کی ذات اور صفتیں ہر قسم کے عیب و نقصان سے سالم اور محفوظ ہوں اور اس کے افعال میں کسی قسم کا شر نہ ہو یعنی ایسا شر جس کے ضمن میں کوئی خیر یا حکمت نہ پائی جاتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال بالذات خیر ہی خیر ہیں ان میں کوئی شر نہیں۔

ایک اور قول کے مطابق سلام وہ ہے جس کی ذات عیب سے اور صفات نقص سے اور افعال شر سے محفوظ ہے اور جب ایسا ہے تو جو کسی بھی سلامتی موجود ہے وہ اس کے ساتھ منسوب یا اس سے صادر شدہ ہے اور تمام اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدائے تعالیٰ کے افعال شر سے محفوظ ہیں یعنی اس شر مطلق سے لذات مراد ہو اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کا موجود نہیں ہے۔

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ

دَعُوهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ (11 یونس 10)

ترجمہ: وہاں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور ان کی دعا ہوگی کہ

سلامتی ہو اور آخر ان کی یہ التجا ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ (پ 13 ابراہیم 23)

ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور صالح عمل کئے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس میں ان کیلئے عافیت کے ساتھ سلامتی ہے۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (پ 14 حجر 46)

ترجمہ: انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (پ 23 یسین 58)

ترجمہ: رحمت والے رب کی طرف سے انہیں سلام یعنی سلامتی کہا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً چار چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت درپیش رہتی ہے یعنی ایمان سلامت رہے۔ اس دنیا سے جب جائے تو ایمان کی حالت میں جائے۔ جان سلامت رہے۔ مال سلامت رہے اور مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے پکارنے سے سلامتی قائم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم سلامتی

کیلئے بہت مجرب ہے۔

جس بندہ کا دل بدظنی، کینہ، حسد اور ارادہ شر سے محفوظ رہے اور اس کے اعضا معصیات و منہیات سے سلامت رہیں اور اس کے صفات کجی اور برگشتگی سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملے گا اور یہ وہ بندہ ہے جو السلام کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السلام حقیقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی۔

صفات کی کجی سے ہماری یہ مراد تھی کہ عقل غضب و شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو کیونکہ حق تو یہ تھا کہ اس کے برعکس ہوتا یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے۔ جب حالت اس کے برعکس ہوئی تو کجی و برگشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ رعیت بن جائے اور مالک غلام ہو جائے تو سلامتی کیسی؟

سلام سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے لوگ سلامت ہوں اور جو شخص خود اپنے آپ سے سلامت نہیں ہے وہ اس خطاب کا کیونکر مستحق ہو سکتا ہے؟

الْمُؤْمِنُ

يَا مُؤْمِنُ (اے امن دینے والے)

اعداد: 136 - تاثیر: جمالی

ہر قسم کا امن و امان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے اسے مؤمن کہا جاتا ہے۔

مؤمن سے مراد وہ ذات ہے جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی

راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے منسوب کیا جائے۔
 امن، خوف ہی کے مقام میں متصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا
 نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے اور مؤمن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان
 تصور میں آ سکتا ہے وہ اسی سے مستفاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے۔
 پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مؤمن امن سے بنا ہے یعنی مؤمن وہ ہے جو امن
 عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بیت اللہ کو باعث امن بنا دیا اس لئے وہ
 مؤمن ہے ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط (پ 1 بقرہ 125)

ترجمہ: اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کیلئے مرکز اور امن والا بنا دیا۔
 ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا
 لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ط فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ءَ إِنَّ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
 لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ (پ 7 انعام 81-82)

ترجمہ: اور میں کیوں خوف کھاؤں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ
 اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جبکہ اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
 ان دونوں فریقین میں سے امن کا مستحق کون ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔ جو
 لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا وہی لوگ
 امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط (پ 18 نور 55)

ترجمہ: اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے بندے کو امن عطا کرنے کیلئے اعضاء حواس و غذائیں، دعائیں،

مکانات، قلعے، ہتھیار و لشکر، معاون و مددگار دنیا میں عطا فرمائے کہ بندہ ان کے ذریعے دنیوی آفات سے امن میں رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو آخرت کی آفات سے کلمہ توحید کے ساتھ بچانے والا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو شخص میرے اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے امن میں رہے گا بلکہ یہ کلمہ دنیوی اور آخرت کی سزا سے امن میں رہنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ امن کے یہ اسباب تو جانداروں کیلئے ہیں۔ غیر جانداروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسے اسباب سے مربوط کر دیا جو اسے ہلاکت و فنا آفات و حوادث کے مقامات اور ہلاکت اور فساد کے امور سے امن میں رکھتے ہیں۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں میں کسی کو جناب حق کی ذات کے سوا کہیں بھی امن حاصل نہیں ہوتا تو کامل طور پر مؤمن یعنی امن عطا کرنے والا وہی ہے اسی طرح یہ بات بھی بندے کو امن عطا کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان مؤمنین کو اپنے دین کی سچائی پر واضح دلیلیں سکھلا دیں اور ایمان کی حفاظت کیلئے اسے یقین کے انوار عطا فرمائے۔ پھر اسے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کیلئے اور ان سے حفاظت کیلئے اپنی تائید اور توفیق عطا فرمائی۔ مؤمن کا معنی مصدق کا بھی کیا گیا ہے یعنی اپنے کلام سے اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے والا۔ اسی طرح معجزات عطا کر کے اپنے نبیوں کی تائید فرمانے والا مؤمن کے موجودات کو وجود میں لا کر اور کائنات کو ظاہر کر کے اپنی تصدیق کرنے والے کے بھی کئے گئے ہیں۔ لفظ مؤمن کی یہ تحقیق جان لینے کے بعد بندے کو چاہئے کہ وہ اس چیز کا یقین رکھے کہ شرف نفس اور مکر شیطان سے اللہ تعالیٰ شانہ ہی مجھے امن میں رکھنے والا ہے تو بندے کو چاہئے کہ اس کی جناب میں التجا کرے اور تمام آفات اور ظاہری و باطنی ڈرانے والی چیزوں سے اسی سے امن طلب کرے پھر اس اسم کے ساتھ بندے کے متخلق اور متصف ہونے کا یہ معنی ہے کہ اپنے شر سے مخلوق کو بچائے اور ان کیلئے خوف و ہلاکت کی چیزوں سے دفع کرنے کا سبب بنے یا در ہے کہ

دین و دنیا میں اس نام کا مستحق ترین وہ ہے جو مخلوق کیلئے اللہ کے عذاب سے امن کا سبب بنے اور وہ اس طرح کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ انہیں حق و ارشاد کے راستے پر ڈالے جو کہ نجات کا راستہ ہے اور یہ اصل میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن اور پیشہ ہے اور ان انبیاء اکرام میں سب سے بزرگ ترین ہستی سید الانبیاء حبیب کبریا علیہم الصلوٰۃ والسلام جمعین اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے متعین اور پیروکار علمائے دین ہیں۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لئے بھی وہ مؤمن کہلاتا ہے مگر جب اس لفظ کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ایمان لانے والے کے ہوں گے۔

الْمُهَيَّمِنُ

يَا مُهَيَّمِنُ (اے نگہبان) ☆ اعداد: 145 - تاثیر: جمالی

اس کا مطلب اصل میں اپنی رحمت میں چھپانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی روزی کی نگہبانی کرتا ہے، دوسروں کے خوف سے ہم کو اپنی رحمت میں چھپا کر مامون کرتا ہے پھر کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے خوف کو دور کرتا ہے۔ اس لئے وہ ذات اپنے بندوں کیلئے مہیمن ہے۔

لغت میں اس کا معنی گواہ اور نگہبان آتا ہے اور اس ذات کیلئے جو دوسرے کو ہر خوف و خطر سے بے خوف کر دے یہی معنی لفظ رقیب کا ہے مگر رقیب میں حفاظت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ رقیب سے ہی لفظ مراقبہ بنا ہے جس کا معنی ہے اپنے دل کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیضان کا منتظر رہنا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اس لفظ کا معنی ہے وہ ذات

جو مخلوق پر اس کے اعمال اس کے رزق اور اس کی اجل پر ہر وقت نگران و نگہبان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم اپنے غلبے اور اپنی حفاظت سے ہر چیز پر حاوی و نگہبان ہے اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کی حقیقت سے واقف اور آگاہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی غالب ہے اور اس کا بھی محافظ و نگران۔ یہی معنی لفظ مہیمن کا ہے۔ یہ تمام معانی مکمل اور مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی میں نہیں پائے جاتے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

(پ 28 حشر 23)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلامی دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عزیز، جبار ہے، کبریائی والا ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

بندے کو چاہئے جب اس نے خدائے تعالیٰ کو پہچان لیا کہ وہ ہر معاملے میں مہیمن و رقیب ہے اور میرے ظاہری اور باطنی جملہ حالات کا نگہبان اور ان سے واقف و آگاہ ہے تو اپنے تمام حالات میں اس معنی کو پیش نظر رکھے اور ہر ناشائستہ حرکت کرنے میں اس سے شرم کرے۔ یاد رہے کہ اس گروہ کی زبان میں اپنے حالات کی طرف اس طرح دھیان رکھنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔

اس اسم کے ساتھ بندے سے متخلق و متصف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کا محافظ و نگران بنے۔ اپنے باطنی اسرار اور دل کی کیفیات سے مطلع رہے۔ قلبی حالات اور اوصاف کے درست اور ٹھیک رکھنے میں گویا مہیمن اور آگاہ بنا رہے اور جب کوئی شخص بندے کے حالات کو درست و نیکی کی جانب لگانے اور انہیں برائی سے محفوظ رکھنے میں ان کی پوری طرح حفاظت کرے گا تو بندے میں اس قسم کا معنی مکمل طور پر جلوہ گر ہو جائے گا۔

الْعَزِيزُ

يَا عَزِيزُ (اے غلبے والے) ☆ اعداد: 94 - خاصیت: جلالی
 سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لئے
 العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ
 ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور
 ارفع ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو اور اس کا
 ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جاسکے اور نہ ہاتھوں سے
 چھوئی جاسکے۔ اس لئے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں
 میں ہے جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبہ میں محبت
 ہے جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔

امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عزیز کے معنی وہ عالی قدر شے جس کی مثل شاذ و نادر
 مل سکتی ہو جس کی از حد حاجت ہو اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو کسی شے میں
 جب تک یہ تینوں معانی جمع نہ ہوں اس پر اسم عزیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی
 اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ملتی ہے لیکن چونکہ نہ ان کی شان بڑی ہے اور نہ ان
 سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عزیز نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی
 ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔ فائدہ بھی ان سے بہت ہے اور ان کی نظیر بھی کوئی
 نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا حصول چنداں دشوار نہیں ہے اس لئے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا۔
 مثلاً سورج اور زمین جن کی کوئی نظیر نہیں ہے اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع
 بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جاسکتا
 کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الغرض عزیز ہونے کیلئے ان تینوں

اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے۔

ان تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز کی قلت و جود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ اسی ذات خدا ہی کی ہے مثلاً سورج اگرچہ وجود میں ایک ہی ہے لیکن امکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے۔ عزیز کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو۔ یہاں تک کہ اپنے وجود و بقاء اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا تعالیٰ میں ہے اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتا لگانے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔

اب عزیز کے بارے میں آیات قرآن ملاحظہ فرمائیے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^ع

(پ 19 شعراء 68-104-122-140-159-175-217)

ترجمہ: اور بلاشبہ آپ کا رب غلبے والا رحم فرمانے والا ہے۔

بِنَصْرِ اللَّهِ^ط يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ^ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^{لا}

(پ 21 روم 5)

ترجمہ: وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرما دیتا ہے اور وہی غلبے والا رحم فرمانے

والا ہے۔

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ^{لا} (پ 22 یسین 5)

ترجمہ: یہ قرآن عزت والے رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا^ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ^ط

(پ 23 یسین 38)

ترجمہ: اور سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ یہ غلبے والے علم والے کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 23 زمر 1)
ترجمہ: یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو عزیز ہے حکیم ہے۔

الَّذِينَ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (پ 25 دخان 42)
ترجمہ: سوائے اس کے کہ جن پر اللہ رحم فرمادے بلاشبہ وہ عزیز ہے رحیم ہے۔

لِيَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 28 جمعہ 1)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز تسبیح کرنے میں مصروف ہے وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے حکیم ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (پ 29 ملک 2)

ترجمہ: اسی نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور وہ غلبے والا بخشنے والا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرمایا ہے کہ عزیز بمعنی غالب، قوی اور بے مثل آتا ہے اور وہ ذات جس تک پہنچنا آسان نہ ہو اسے عزیز کہتے ہیں۔ یہ صفات تمام و کمال صورت میں صرف پروردگار تعالیٰ شانہ کیلئے ہی ثابت ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فیض سے کسی کو اپنی عزت سے حصہ عطا کرے تو یہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

اور مؤمنین کیلئے ہی ہے۔ جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ عزت والا وہی ہے تو وہ اسی سے عزت چاہتا ہے اور حقیقی عزت بندے کو اس وقت ملتی ہے جبکہ وہ اس کی طاعت اور خدمت کر کے اس سے عزت چاہتا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کئی طرف بھی عزت و بزرگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا مگر اسے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہو اور عزیز بنایا ہو۔

عزیزی و خواری تو بخشی و بس
عزیز تو خواری نہ بیند ز کس

تو ہی عزت و ذلت بخشی والا ہے اور بس۔ جسے تو نے عزت دے دی وہ کسی سے ذلت و خواری نہ دیکھے گا۔ بندے کا اس صفت سے موصوف ہونا اس طرح ہے کہ بندہ اپنے نفس و خواہش پر غالب ہو اس کی قوت اور اس کا حملہ نفس اور شیطان پر سخت ہو اور اپنی عزت و آبرو طمع اور سوال کے ذریعے اہل دنیا کے دروازوں پر نہ گرائے اور نہ اس طرح ذلت کے گڑھے میں گرے اپنی محتاجی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ نیز علم و عمل میں اس قدر بلند ہو جائے کہ دوسرے اس کی مثل نہ بن سکیں اور دوسروں کو اس کے مرتبے تک پہنچنا مشکل ہو جائے جیسا کسی شے کی حقیقت کو پانا مشکل ہوتا ہے۔

بندوں میں سے عزیز وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور سعادت ابدی کیلئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء سلوٰۃ اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشارک وہ لوگ ہیں جو ان کے رب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین اور انبیاء علیہم السلام کے وارث المائے کرام۔

الْجَبَّارُ

يَا جَبَّارُ (اے جبروت والے) ☆ اعداد: 206 - خاصیت: جلالی

اللہ جبار ہے یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے اور اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مارے اور ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو کیونکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے۔ اس لئے اللہ کو جبار کہا جاتا ہے کیونکہ ہر کسی کیلئے اس کی اتباع ضروری ہے اور اس کا حکم ہر ایک پر زبردستی سے جاری ہے۔ قرآن مجید میں سخت گیر لوگوں کیلئے استعمال ہوا ہے۔

وَتِلْكَ عَادٌ قَفَلًا جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (پ 12 ہود 59)

ترجمہ: اور یہی وہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر منکر کے حکم کی پیروی کی۔

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (پ 13 ابراہیم 15)

ترجمہ: اور رسولوں نے فتح کیلئے دعا کی تو ہر سرکش ضدی نامراد ہو کے رہ گیا۔

ان آیات میں جبار کا لفظ سخت لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ جو لوگوں پر جبر کرے مگر اللہ کی صفت بھی جبار ہے اس کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

(پ 28 حشر 23)

ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے،
قدوس ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا
ہے، عزیز ہے، جبار ہے، کبریائی والا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک
ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جبار وہ ذات ہے جس کا حکم ہر ایک پر جاری ہو سکے
اور اس کے حکم میں کسی اور کا دخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی اسے رد کر سکے اور کسی کا حکم اس پر
جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہ ہو بلکہ اس کے سامنے
ہر شے مجبور ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبار مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا
دست نگر ہے۔

بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ جبار کا لفظی مطلب ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا اور
باندھنا اور کسی کا حال درست اور ٹھیک کرنا اور زور و غلبہ سے کسی کو کام پر لگانا۔ یہ لفظ
بلندی اور اونچائی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں نخلتہ جبار۔ یعنی ایسی اونچی
کھجور جس کی بلندی تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ لفظ جبار میں مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی
بہت ہی درستی فرمانے والا اور بہت ہی بلند و بالا یہ معنی مکمل طور پر ذات پاک خدائے
قدوس کیلئے ہے اور حقیقت و کمال کے اعتبار سے اسی میں منحصر ہے کیونکہ ہر قسم کی
شکستگی کو جوڑنے والا وہی ہے۔ صلاح و درستی کرنے والا بھی وہی ہے اہل زمانہ کے
خراب حالات کو بہتر کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح تمام موجودات اس کی
مشیت کے غلبہ و فرمان کے نیچے ہیں۔ کسی کو بھی اس کے خلاف کرنے کی مجال نہیں۔
چاہئے کہ بندہ ہمیشہ ذات جبار جل شانہ کے حضور شکستہ دل اور نیاز مند رہے اور اس
کی جناب میں اس بات کا ملتجی رہے کہ اس کی ہر طرح کی شکستگی میں بہتری اور اچھائی
رہے اور اس کا حال صلاح و بہتری کی طرف رخ کرے اور اس کے تشریحی و ارادی
امرواحکام میں بجا آوری کرے اور ان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور اپنی قوت و

طاقت سے اظہار بیزاری کرے۔ اپنی تدبیر و اختیار کو ترک کر دے تاکہ عبادت اور عبودیت کی صفت سے موصوف ہو جائے۔ اس اسم سے بندے کے موصوف ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے نقائص نفس کی شکستگی کو کمال کی تحصیل اور فضائل کی تکمیل سے جوڑے اور پر کرے اور مقام اصلاح میں بیٹھ کر وہ دلوں کے حالات کے صحن کو ہر قسم کے فساد سے پاک کر دے اور اپنے نفس سرکش پر مسلط اور غالب ہو جائے اور اسے ہمیشہ تقویٰ اختیار کرنے اور طاعات کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتا رہے۔ اسی طرح مخلوق خدا کی ہر طرح کی کمی پوری کرے۔ ان کے حالات کی اصلاح کرے شکستہ دلوں کا دستگیر بنے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے امور شریعت کے جاری کرنے میں غالب ہو۔ اس سارے میں کوشش سے کام لے اور ہمت بلند رکھے۔

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ بندوں میں سے جبار وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ حتیٰ کہ لوگوں کو اپنی ہیبت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی زیارت کرے وہ اس کے دیدار میں ایسا محو ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور کوئی شخص اس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس وصف سے خاص سید البشر ﷺ بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ”لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَتْهُ إِلَّا تَبَائِي وَأَنَا سَيِّدٌ وَلِدَادِمٌ وَلَا فَخْرٌ“ (یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے تابع ہوئے بغیر چارہ نہ ہوتا)۔ اور میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور میرے لئے یہ بات باعث فخر نہیں۔“

الْمُتَكَبِّرُ

يَا مُتَكَبِّرُ (اے بڑائی والے) ☆ اعداد: 662 - خاصیت: جلالی
 کبر یعنی عظمت اور برتری صرف پروردگار کی ذات کو زیب دیتی ہے کیونکہ وہ
 حقیقت میں بڑا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بڑا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
 اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی متکبر ہے کیونکہ فی الواقع بڑائی اسی کیلئے ہے اور
 کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے اسی ذات کو بڑا
 ماننا چاہئے۔

متکبر وہ ہے جو اپنے مقابلہ میں سب کو حقیر سمجھتا ہو اور بزرگی و عظمت کا حقدار
 صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔
 اگر یہ بات صحیح ہو تو وہ تکبر حق اور اس کا فاعل متکبر برحق ہوگا اور یہ بات علی الاطلاق
 خاص خدا کیلئے متصور ہے۔

اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس
 کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص
 خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر
 باطل ہے۔

تکبر و استکبار کا معنی ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنا اور سرکشی دکھلانا۔ لفظ کبریا کا معنی
 ہے بزرگی اور بڑائی۔ یہاں اسم متکبر سے بڑائی اور بزرگی میں مبالغہ اور کمال مراد ہے
 کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اس طرح کی بڑائی و بزرگی کی مستحق نہیں کبر علی
 الاطلاق وہی ہے بندہ جب حق تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بلندی شان کو پہچان لیتا
 ہے تو اسے چاہئے کہ دل کو اس کی کبریائی میں مستغرق رکھے۔ تواضع و تذلل کا طریقہ

اپنائے۔ اس کی بندگی میں اپنی گردن نرم رکھے۔ اس کے اوامر و احکام سے سرتابی نہ کرے۔ اس اسم سے بندے کے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو جو کہ اس کی جناب قدس کے وصول اور وصول کے اسباب کے علاوہ ہیں جیسے دنیا کی خواہشات بلکہ آخرت کی لذیذ چیزیں، ان سب کو چھوٹی اور حقیر جانے اور دنیا و اہل دنیا اور دنیا کی زینت و زیبائش کی چیزوں کی طرف نہ جھکے بلکہ انسانیت کی بلندی شان اور دین کے مرتبے کی رفعت کا لحاظ کرتے ہوئے دنیا کی بے حقیقت اور پست چیزوں پر قدم نہ رکھے۔ اپنی ذات کو عظیم جانتے ہوئے اپنے نفس کو اپنی عظمت و تکبر میں مبتلا نہ کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

(پ 28 حشر 23)

ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلام ہے، امان دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، غالب ہے جبار ہے، کبریائی والا ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

امام بونی کا قول ہے کہ متکبر کا مطلب اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر دیکھنا ہے اور اپنی ہی ذات کیلئے کبریائی کو مخصوص کرنا ہے اور غیر کی طرف ایسے دیکھے جیسے بادشاہ غلاموں کو دیکھتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے سوا جو کوئی اپنے لئے کبریائی کا خیال کرے وہ جاہل و گمراہ ہے کیونکہ متکبر مطلق صرف پروردگار ہے۔ (شمس المعارف) معلوم ہوا کہ اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اس صفت یعنی یا متکبر سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بنا لے گا۔

الْخَالِقُ

يَا خَالِقُ (اے پیدا کرنے والے) ☆ اعداد: 731- تاثیر: جمالی
 اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اس
 کی ذات تھی تو اس نے زمین و آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، گویا کہ کائنات کی
 ہر چیز کی تخلیق کی۔ اس لئے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا
 ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی
 چیزوں کو مزید بناتے اور سنوارتے ہیں۔ اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے۔ عدم سے
 (یعنی جب کچھ بھی نہ ہو تو اصل چیز) پیدا کرنا صرف خدا ہی کا اختیار ہے۔ اس لئے
 صحیح معنوں میں ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(پ 1 بقرہ 29)

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لئے سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین
 میں ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں سات آسمانوں میں استوار
 کر دیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پ 8 اعراف 54)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن
 میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ گر ہو گیا۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ (پ 14 حجر 86)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب وہی ہے جو خالق ہے علیم ہے۔
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِي فَلَكٍ
 يَسْبَحُونَ (پ 17 انبیاء 33)

ترجمہ: اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا
 کیا ہے۔ یہ تمام اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ه (پ 18 مؤمنون 14)

ترجمہ: پس اللہ بڑی برکت والا ہے جو بہترین خالقوں میں سے ہے۔
 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

(پ 18 نور 45)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
 قادر ہے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ج وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (پ 21 روم 54)

ترجمہ: جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی علیم قدرت والا ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
 مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ه (پ 23 یسین 81)

ترجمہ: کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے
 کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے ہاں اور وہی خالق علم والا ہے۔

اتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ه (پ 23 الصف 125)

ترجمہ: کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے
 ہو۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ه (پ 24 زمر 62)

ترجمہ: اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا مختار ہے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِجْنِي مِّنْهُ
 (پ 24 مؤمن 62)

ترجمہ: وہی اللہ تمہارا رب ہے وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اس کے سوا کوئی
 معبود نہیں پھر تم کہاں سرگرداں پھرتے ہو۔

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
 الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ (پ 25 زخرف 9)

ترجمہ: اور اگر وہ آپ سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا
 ہے تو ضرور کہیں گے کہ ان کو عزت والے علم والے نے تخلیق کیا ہے۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا
 تَرَكِبُونَ ۝ (پ 25 زخرف 12)

ترجمہ: اور اس نے ہر طرح کی مخلوق کے جوڑے پیدا کئے اور تمہارے
 لئے کشتیوں اور چوپایوں کو سواریاں بنایا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ (پ 29 ملک 2)

ترجمہ: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم
 میں سے کس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور وہ غلبے والا بخشنے والا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے کسی چیز
 کے خاکے اور ڈھانچے کا اندازہ کرنا خلق ہے اور برء کا معنی ایجاد کرنا اور پیدا کرنا
 ہے۔ تصور کا معنی صورت بنانا اور کسی شے کو شکل اور ہیئت عطا کرنا ہے۔ ہر چیز جو عدم
 سے وجود میں آتی ہے اولاً اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ کیا جائے۔ اس کے
 بعد وہ پیدا کرنے کی محتاج ہے۔ اس کے بعد اس امر کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے کوئی
 صورت عطا کی جائے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک عمارت ہو۔ پہلے اس کے خاکے

کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وجود میں آتی ہے۔ پھر ایک صورت اختیار کرتی ہے۔ اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کسی چیز کو پیدا کرنے میں یہ تینوں حالتیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ مگر ایک کا رتبہ دوسرے سے مقدم ہے یعنی پہلے شے کا اندازہ پھر اسے پیدا کرنا اور پھر صورت عطا کرنا۔ جو کچھ عالم علوی اور سفلی میں عرش سے زمین کے نیچے تک ہے پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا۔ ملک و ملکوت میں اس کا ظہور ہو چکا ہے یا ہوگا۔ سب اللہ تعالیٰ کی خلق اس کی تقدیر اس کی ایجاد اور اس کی تصویر کشی ہے۔ سب چیزوں کا پیدا فرمانے والا وہی تعالیٰ شانہ ہے جس نے محکم ترتیب بہترین صورت پر حکمتوں و مصلحتوں سے لبریز کر کے اشیاء کو پیدا کیا اور ہر چیز کو مناسب ترتیب کے مطابق پیدا فرمایا چنانچہ فرمایا (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) بہت برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کر نیوالا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جس چیز پر بھی نگاہ ڈالے اس سے اس کے پیدا کرنے والے کی یاد دل میں لائے اور جس صورت کو بھی دیکھے اس سے تصویر بنانے والے کا مشاہدہ کرے اور ہمیشہ بیدار چوکس اور عبرت و نصیحت کی آنکھ سے اشیاء کو دیکھے۔ ان صفات سے بندے کے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندے میں یہ صفات بطور مجاز پائی جاتی ہیں کیونکہ حقیقتاً تمام اشیاء کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ انسان کو قصد و افعال میں اعضاء کو حرکت میں لانے کی قوت دی گئی ہے۔ جن سے وہ کمالات و طاعات کا کسب و اکتساب کرتا ہے۔ نیز اپنی ذات میں جسمانی و روحانی چیزوں کی صورتوں کو حاصل کرتا اور حضور و توجہ قلبی سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اس کی حکمتوں اور اس کے اسرار و رموز کے جھونکوں سے سرشار ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا ان اسماء سے موصوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عبادت کی ذمہ داریوں سے فراغت پائے تو اپنی معیشت اور روزی کیلئے بھی کچھ نہ کچھ کسب و کار کرے خصوصاً ایسا کام جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے تاکہ اس کا

فیض تا دیر لوگوں کو پہنچتا رہے۔

شمس المعارف میں لکھا ہے کہ خالق نام ہے اس صانع کا جو ہمیشہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ خلق کے معنی ابداً کے اور ابداً بغیر مثال اور نمونہ پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ عالم ملک و ملکوت ہی اختراع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عالم اسرار اور علوی ہی عالم رفق ہے اور عالم غیب و سفلی عالم فق ہے اور یہ سب اسماء اسرار الہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **الْاَلٰهَ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (الاعراف: ۵۴)** خبردار خلق اور امر اسی کیلئے یہ اسم بہت بڑا ذکر ہے۔ اس کا ذکر مخلوقات کے اصول مبادی میں غور کر کے مقام کشف حاصل کرتا ہے اور ترقی کرتے ہوئے اس کے قلب میں سب حالات آجاتے ہیں۔ اس کے بعد ترتیب، روحانیات اور ان کی غایت ترتیب کا راز ظاہر ہوتا ہے اور یہ ذاکر زمین و آسمان کی ہر چیز معلوم کر لیتا ہے۔ اور وہ مراتب عالی پاتا ہے جو نفس کیلئے مراتب ثابت ہیں۔ نفس کے اندر اور قلب کے مطابق یہ دنیا صورت معلوم ہے اور علم الہی و علویات اپنے وجود کے موافق موجود ہیں اور ان کا وجود ہی حصول کا سبب ہے۔ اللہ کے ملنے سے یہ سب مل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پیدا کر کے ان کو نورانی حجاب اور حالات کرامات سے نوازا ہے اور ساتوں زمینوں کو پیدا کر کے اپنی نعمتوں کا خزانہ بنایا۔ جس طرح علویات کے چار مراکز ہیں اس طرح سفلیات بھی چار ہیں۔ علویات کا پہلا مرکز عقل ہے جو مدارک عقول ہے۔ دوسرا مرکز روح جو مدارک نفوس ہے۔ تیسرا مرکز قلب جو مدارک قلوب ہے۔ چوتھا مرکز کرسی ہے جو وسیع ہے۔ اسی طرح زمینوں میں اپنے خزانے اور جہنم کے طبقات اور اپنی رحمت کے ظلمانی حجاب رکھے ہیں۔ نیز ہر زمین کو گنہگاروں کیلئے ایک طرح کے عذاب کا حامل بنایا ہے۔

الْبَارِيُّ

يَا بَارِيُّ (اے وجود میں لانے والے)

عدد: 213 - تاثیر: جلالی

باری کا لفظ عربی زبان کے لفظ بَر سے بنا ہے جس کا مطلب کسی چیز کو وجود میں لے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بنانے کا منصوبہ بناتا ہے اس کے بعد اسے اپنے منصوبے کے مطابق کتم عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ باری کہلاتا ہے۔ بَر کا اصل مطلب جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا بھی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو وجود میں لاتے وقت اپنی طاقت سے چیز کو بنا ڈالتا ہے اس لئے وہ باری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(پ 28 حشر 24)

ترجمہ: وہی اللہ سب کا خالق ہے ہر چیز کو ایجاد کر کے اسے صورت دینے والا ہے۔ اچھے نام سب اسی کے ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔

خدا کے پیدا کردہ مختلف عناصر کائنات میں بعض کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص توازن یا تناسب کے ساتھ اس طرح ملانا کہ اس سے ایک نئی چیز وجود میں آجائے۔ قدرت کے اس ”کُنْ فَيَكُونُ“ والے عمل میں ایک مرحلہ باری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب مادی مخلوق کو بنایا تو اس کیلئے مادہ بھی خود ہی بنایا اور جب

غیر مادی مخلوق کو بنایا تو اس کیلئے ارواح بھی خود ہی بنائیں۔ اس لئے انسان کا اپنا وجود اور اس کے ارد گرد کائنات کی بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت باری ہی کی مظہر ہے۔ اس لئے بعض اہل علم نے تخلیق ارواح کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو باری کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے اظہار میں تمام طاقت کا مالک خود ہی ہے۔

اسماء الحسنیٰ غزالی میں لکھا ہے کہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی اور اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع کرتا ہے اس کا باری ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ مخترعات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیت دیتا ہے، مصور ہے۔

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو تو پہلا کام انجینئر کا ہوگا جو اس عمارت کی نوعیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس پر اینٹ، پتھر، چونہ، لکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد معمار کا کام شروع ہوتا ہے جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندر اندر پوری عمارت بنا کر کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنّاع یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار قصر اور شاہی ایوان بن جاتی ہے۔

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو آراستہ کرتا ہے یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی باری اور وہی مصور ہے۔

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کیلئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا جاسکے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا کیونکہ

صرف مٹی ایک خشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے اور صرف پانی ایک تر اور سیال شے ہے جو قائم پکڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمہ کیلئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضرورتی تھا کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار معین ہو کیونکہ اگر تھوڑی سی مقدار ہو تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو جو کیڑے مکوڑے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا کیونکہ اتنے بڑے قدر اور جسامت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق ہے اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے۔ محض ایجاد اور چیز ہے اور ایجاد بوفق تقدیر اور چیز۔

الْخَالِقُ اور الْبَارِئُ میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مگر بجز بعید، جس کی توجیہ یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کیلئے علم اور قدرت پیدا کی ہے اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدرات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے جیسے آسمان، ستارے، زمین، حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کہلاتے ہیں۔ جیسے صناعات، سیاسات، عبادات، اور مجاہدات۔ چنانچہ بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے مجاہدہ میں اور اپنی مخلوق کی سیاست میں ایسے مدارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا امتیاز حاصل کر لے جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو اور ساتھ ہی

وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب دینے پر قادر بھی ہو تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائے گا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے تو وہ مدح و ستائش کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح ریاضات، مجاہدات، سیاسیات اور صناعات میں جو نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، صورت اور ترتیبات ملحوظ ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضع ان صورتوں کا مخترع اور خالق ہے حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجازاً اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

شمس المعارف میں ہے کہ اسم باری اسم خالق ایک ہی ذات کے نام ہیں جس نے مٹی سے کچھ پیدا کیا جس پر یہ آیت دلیل ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ**، تراب کو اہل عرب ثری البریہ کہتے ہیں۔ ثری کے معنی مٹی اور بریہ کے معنی مخلوق۔ لیکن ان اسماء میں تھوڑا سا فرق ہے یہ اسمائے مترادفہ بھی نہیں ہیں جب کہ **فَرَايَا لِسَانِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا** یاد رہے ایجاد اور ابداع کا لفظ ذوات مکنونات کو قدم سے وجود میں لانے پر کہا جاتا ہے اور اسم خالق ہر مخلوق پر شامل و حاوی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کر کے اسے علم اول میں رکھا۔ پھر دنیا کو لطیف خاکہ میں رکھ کر عالم ظہور میں منتقل کیا۔ یہ تینوں باطنی پیدائش میں عالم ترکیب میں ہیں پھر ان کے اجسام پیدا کئے۔ اجسام کو قوالب میں ڈھالا اور پیدا کر کے ان پر مہر لگا دی کہ ایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں اور دوزخی ہی اصحاب شمال ہیں حالانکہ شکل حرکت اور سکون سبھی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بتائن دراصل علویات میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو نفس قالب نورانی میں صاف اور شفاف نکلا وہ مطمئنہ کہلایا جو قالب ظلمت میں سرکش ہوا وہ امارہ کہلایا اور جو قالب نورانی میں جلوہ ریز ہوا وہ

لوامہ کہلایا۔

بعض لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہوات میں بندروں اور سوروں کی طرح ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مسخ کر دیئے ہیں جن سے مہر کرنا مراد ہے جیسا اس آیت میں ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۖ وَرَعَاهُمْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ سَمِعُوا قَوْلَ رَبِّهِمْ وَلَقِيَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْهُمْ ۚ قَالَ أَتَىٰ لِي الْيَوْمَ الْحُجَّةُ ۚ قَالَ نَحْنُ نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي هُوَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ

کُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ لَئِيْلَ مَا تُحْكَمُ ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي خَيْرٍ ۚ لَقَدْ وَضَعْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي خَيْرٍ ۚ لَقَدْ وَضَعْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي خَيْرٍ ۚ لَقَدْ وَضَعْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ

جیسا فرمایا ہے:

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَظَاهَرَهُ ثَمَّةً فَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذِهِمْ ۚ هُمْ يَصْنَعُونَ الْفِتْنَةَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۚ

پیدائش اور یہی اسم باری کے معنی ہیں اور اسی باعث نفوس کی بابت فرمایا ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ط

اہل سعادت کی ارواح کی سربسط میں اہل شقاوت کی ارواح سربض میں پیدا کی گئی ہیں۔ اہل سعادت کے دل قالب ایمان ہیں اور اہل شقاوت کے دل کفر کے سانچے میں ڈھالے گئے ہیں۔ اہل سعادت کے اجسام خدمت کیلئے اور اہل کفر کے اجسام شقاوت کیلئے ہیں۔ جو شخص اہل سعادت کے موافق رہا وہ علیین ہوگا اور جس شخص نے شقاوت پر سبقت کی وہ اسفل السافلین میں رہ کر غضب الہی میں داخل رہے گا۔ اہل سعادت کیلئے ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اور اہل غضب کیلئے فرمایا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا قوت بشری میں قوت ترکیب جسمانی و ترکیب روحانی دونوں ہیں۔ ذاتی سعادت و شقاوت وغیرہ سے ہر انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ یہی توفیق دیتا

ہے۔

الْمُصَوِّرُ

يَا مُصَوِّرُ (اے صورت بنانے والے)

اعداد: 336 -- تاثیر: جلالی

المصور کا مطلب بنیادی طور پر صورت بنانے والا ہے چونکہ اس نے تمام موجودات کی تصویریں بنائی ہیں۔ ہر چیز کو خاص صورت علیحدہ و شناخت اور حقیقت عطا کی ہے اور اسے ایک خاص ساخت دی ہے۔ اس لحاظ سے وہ مصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان بنائے ہیں اور ہر انسان کے چہرے کے نقش و نگار ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ انہیں تمیز اور شناخت کیلئے جداگانہ صورت اور شخصیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی مصور لایزال کا کمال ہے۔

قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 3 آل عمران 6)

ترجمہ: وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بنا دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب حکمت والا ہے۔

شرح اسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ اللہ المصور وہ ہے کہ جو اپنی مرضی اور مشیت کے ساتھ جس طرح کی بھی چاہتا ہے صورت سازی فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں ”يُصَوِّرُ“ تصویر بنانے کے کام کیلئے ہے اور صورت وہ ہے جس سے کسی چیز کے عین کا نقش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوسری اشیاء سے الگ ہوتی ہے اور پھر یہ دو طرح پر ہے۔ ایک محسوس

جسے خاص و عام بلکہ حیوان بھی پہچان سکتے ہیں اور دوسرے معقول جسے صرف خواص ہی پہچان سکتے ہیں۔ جیسے وہ صورت جس سے انسان مخصوص ہے، یعنی عقل اور رو یہ اور وہ معانی جن سے ایک شے دوسری سے مخصوص ہوتی ہے اور امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے انسان کی صورت بنانے کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ دونوں صورتیں مراد ہوتی ہیں۔

ایسے ہی حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس حدیث میں بقول امام راغب وہ صورت مراد ہے جس سے انسان مخصوص ہے یعنی وہ ہیئت جس کا ادراک آنکھ اور عقل سے ہوتا ہے اور جس سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے اور صورت کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی صورت ہے بلکہ علی سبیل الملک ہے۔ یعنی اس کی ملک ہونے کے لحاظ ہے۔

اسماء الحسنیٰ امام غزالی میں لکھا ہے کہ اسم مصور خدا پر اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے اور یہ اوصاف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے جو تمام عالم صورت کو پہلے بالا جمال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی اور ہوا وغیرہ ہیں۔ اس کے اجزاء ایسی محکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تغیر آجائے تو نظام میں خلل آجائے۔ اس لئے جو جزو اوپر رہنا چاہئے وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے وہ نامناسب ہے وہ زیرین سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ معمار دیواروں کی بناد میں پتھر اور ان کے بالائی حصے پر لکڑی رکھتا ہے۔ نہ اتفاقاً بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے

ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے تو عمارت ضرور منہدم ہو جاتی ہے اور ہیئت ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرہ ارض و کرہ ماو غیرہ کا نیچے ہونا اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں۔

اگر تھوڑے سے اجزائے عالم کا ذکر اور ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں تو ایک دفتر ہو جائے گا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مصور کے معنی سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصوری اجزائے عالم میں سے ہر جزو میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ چیونٹی اور کیڑے میں بلکہ چیونٹی اور کیڑے کے ہر عضو میں موجود ہے۔ ہر ایک جاندار کا ایک چھوٹا سا عضو آنکھ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں، کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آنکھ کے طبقات ان کی ہیئت، شکل، مقدار، رنگ اور ان کی وجہ حکمت سے واقف نہیں وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور نہ ان کے مصور سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ ان کے ہر جزو کی صورت کا ہے۔

اسم مصور کے بارے میں شمس المعارف میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا مصور وہی ہوتا ہے جو اس کی تصویر کھینچے اور غیر سے اس کو تمیز دے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مصور ہے۔ خلق کے معنی ایجاد اور تصویر کے معنی تشکیل اور اختصاص نوعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ“ اس سے قدرت کا اظہار اول ہے۔ جو عالم رقیق ہے۔ اور فرمایا ”ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ“ عطف مہلت پر ہے کیونکہ یوم ایجاد یوم ابراز کے درمیان جو وقت گزر اس کا اندازہ بجز اللہ کے کسی اور کو نہیں۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ

اس سے مراد ایجاد قدرت ہے۔ ”فَسَوَّأَكَ“ سے مراد باطن ہے۔ جو محل تسویہ و

تبدیل ہے۔ یوم ثانی یوم ثالث میں طور ثالث ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

”فِي آتِي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ط“

اسی سے مصورات کا راز واضح ہے۔ ارواح حق کی اشکال ہیں۔ اور شکلیں ہی روح کی صورت ہے اور روح دراصل اللہ کا حکم ہے۔ تعمیل حکم ہی زندگی کا راز ہے اور سرمایا ہے۔

صورتوں کی اقسام: صورتیں دو قسم کی ہیں: ایک تو ظاہری ہیں دوسری باطنی۔ ظاہری وہ جس سے شکل کا اظہار ہوا اور باطنی وہ جو بصیرت کی آنکھ سے ادراک کی گئی۔

عالم اسماء افلاک وجود اور صورت باطنی دراصل فطرت سے عبارت ہے اور فطرت اسماء و افعال کے درمیان برزخیں ہیں۔ حقائق اور افعال کا احاطہ وجود سے ظاہر ہوا ہے اور وہ دائمی شہور میں ہے۔ جو مبداء اول کا کشف کرنے والا ہے اور منتہی مالی ہے۔ یہی روح کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ موجودات کو اپنے اسماء اور افعال سے متفرق طور پر پیدا کیا ہے اور اجمالی و تفصیلی طور سے فطرت زوجیت کے ساتھ یوم ازل میں ودیعت کیا اسی لئے سب اس کی طرف متوجہ اور اس کی معرفت کے مشتاق ہیں۔ اس کے احکامات وہ بجالاتے ہیں جس پر ملکوت کے اسرار منکشف ہوتے ہیں اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا:

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ

تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي“

جسم میں روح باقی رہتی ہے: اس آیت میں تین معنی ہیں۔ ایک تو جسم میں روح باقی رکھنا، دوسرے معنی صور پھونکنے پر آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا ظہور

اور تیسرے معنی عالم جسمی اور معنوی میں مردوں کا زندہ ہوہنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ان ہی تین باتوں پر محمول تھا۔ ”فَخَذَارْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ“ یہ حکم اسمائے ذات و اسمائے صفات اور اسمائے معانی کی وضاحت کر رہا ہے

کہ ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دے۔

پہاڑوں سے رواج و اصول مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن ایک حصہ جبل الذر پر رکھا اور دوسرے حصہ جبل فطرت پر یوم تصویری میں اور تیسرا حصہ یوم برزخ پر اور چوتھا جبل یوم البعث پر ”يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا وَاَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فطرت کا راز مشاہدہ کیا تو تمام عالم کو انہیں طور سے مرکب پایا۔ اور ان ہی اسماء کی برکت سے دنیا کو قائم دیکھا اور ان کو حق الیقین حاصل ہوا۔ بعد اللہ تعالیٰ کے ملکوت کے عجائب دیکھے جب کہ ارشاد ہے ”وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“۔ انسانی اور فطری صورت ہی حقائق شہود اور اسرار وجود ہیں۔ اسمائے ذات کے کمال معارف کا مقام حضرت ابراہیم کو حاصل تھا۔

کچھ ستارے روشن اور بعض روشن نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن پر اسمائے الہی نے تجلی کی ہے روشن ستاروں کی طرح ہیں مگر ان میں بھی مختلف درجے ہیں۔ کوئی ستارہ زیادہ روشن ہے جس سے لوگ راستہ پاتے ہیں اور کوئی چھوٹا اور کم روشنی والا ہے۔ یہی فرق لوگوں کے درجات میں ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے پہلے گروہ کے چہرے مثل آفتاب روشن ہوں گے، ان کے چہرے کا نور حسب اعمال اور ایمان ہوگا۔“

صورت کی تجلی: صورتوں کی تجلی دارین میں باقی اور دونوں جہان میں قائم رہتی ہے۔ اسی باعث فطرت نے حقائق اسماء کو اجمال اور تفصیل سے انسان میں ودیعت کیا ہے۔ تم جنت کو نہیں دیکھتے کہ وہ بھی اسم خالق کو ظاہر کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں کی انتہاء نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جنت ایک بازار ہے جس میں حسین و جمیل صورتیں ہیں جو شخص ان میں سے جو صورت پسند کرے وہ اس کو مل جاتی ہے اور چونکہ فطرت الہی قوالب اسمائے میں ودیعت ہے اسی لئے بقال لازم ہوئی ہے۔

نشاة عالم میں چار پیدائش ہیں۔ پہلی نشاة ازل ہے اور یہی باطنہ العمی ہے،

دوسری نشاۃ ابد ہے جو باطن فطرت البتہ نشاۃ جوئی سے متصل ہے۔ اس کا تذکرہ آیت میں ہے ”أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا“ (مریم: ۶۷) یہی عالم صغیر ہے جسے انسان کہتے ہیں جس کیلئے کائنات پیدا کی گئی ہے۔ اور یہی حق معلوم کا نتیجہ ہے۔ اور یہی روح عالم متحرک ہیں۔ ہر فرقہ اپنے حال کے نقش خوب جانتا ہے۔ یہ اشارہ ہے مؤمنوں کیلئے خواہش اور کافر کیلئے بدبختی اور دوزخ کا نشاۃ ابد حقیقتہ الہیہ ہے۔ اور یہی اس کا فرمان ہے ”لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكَورًا“ تیسری نشاۃ سرمدیہ اور وہی حقیقت فی الذر ہے جو اس فرمان میں ہے ”أَلَسْتُ بِبَلَى“ چوتھی نشاۃ کا یہ فرمان ہے ”نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ“ اور ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ“

اسم مصور سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی صورت بہ ترتیب حاصل ہوتی کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر رہے۔ پھر تمام پر تفصیلی غور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے۔ ان کے انواع، عدد، ترکیب اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور معانی شریفہ کو معلوم کرے جن سے اس کے ادراکات اور ارادے وابستہ ہیں اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور بھر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں منقش ہو جائے۔

یہ حال تو صور جسمانیہ کی معرفت کا تھا اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے۔ جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے۔ ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر قلوب بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تصرف کرتے ہیں اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تصرف کرتے ہیں۔

غرض کہ اس اسم سے بندے کا یہ حصہ ہے کہ وہ صور علمیہ کا جو صور وجودیہ کے مطابق ہوں اکتساب کرے کیونکہ علم اس صورت میں منقش فی النفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو اور صور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے ایمان میں موجود ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو ایمان میں موجود ہوں وہ انسان کے دل میں صور علمیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں اور اس طرح بندہ خدا کے اسماء میں سے اسم مصور کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ مصور ہے۔ اگرچہ بطور مجاز ہو کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و اختراع سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

الْغَفَّارُ

يَا غَفَّارُ (اے گناہ معاف کرنے والے)

اعداد: 1281 -- تاثیر: جمالی

غفار کا مطلب سب سے زیادہ بخشنے اور مغفرت کرنے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفار ہے چونکہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے اور بڑی سے بڑی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لئے اسے غفار کہا جاتا ہے۔ غَفَّارُ کا لفظ عربی لفظ غفر سے بنا ہے جس کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اس لئے بھی اسے غفار کہا جاتا ہے۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (پ 23 ص 66)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ ان کا رب ہے غلبے والا ہے بخشنے والا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (پ 23 زمر 5)

ترجمہ: اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر مسلط کرتا ہے اور دن کو رات پر مسلط کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت تک گردش کر رہے ہیں۔ خبردار وہی غلبے والا بخشنے والا ہے۔

وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (پ 24 مؤمن 42)

ترجمہ: اور میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں جو عزت والا ہے بخشنے والا ہے۔

ان تینوں آیات میں غفار پہلے لفظ عزیز استعمال ہوا جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے کے ساتھ غلبے والا بھی ہے۔ اس لئے اس سے ڈرنا چاہئے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہئے اس کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۗ (پ 29 نوح 10)

ترجمہ: بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔

اسماء الحسنیٰ غزالی میں ہے کہ غفار وہ ذات ہے جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے اور برائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر اور آخرت میں بخش کر رفت و گزشت کر دیتی ہے۔

غفر کے معنی ستر۔ اللہ کا پہلا ستر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے کہ اس کے

بدن کے بدنما اور گھناؤنے حصے پر جو آنکھوں کو برے معلوم ہوتے ہیں اس کے باطن میں چھپا دیئے۔ جو اس کے جمال ظاہری کے رنگ و روغن میں پنہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بدصورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کون سا حصہ دکھایا ہے اور کون سا چھپایا ہے۔

دوسرا ستر یہ کہ اس کے برے خیالوں، مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا ہے تاکہ کوئی شخص ان شرمناک بھیدوں سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ، خیانت اور بدظنی کا پتا لگ جاتا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے بلکہ اس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔

تیسرا ستر یہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ سرعام رسوا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا تو اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں۔

شیخ عبدالحق دہلوی نے فرمایا ہے کہ مغفرت اور غفران کا معنی ہے بخش دینا۔ خداوند تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لفظ غفار میں یہ معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے لفظ غفور میں اس سے بھی زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے جیسا کہ نیچے شرح میں آ رہا ہے غفر کا معنی چھپانے کا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں گناہوں کو چھپاتا۔ نیز قبیح چیزوں کو چھپاتا اور جمیل چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ بھی قبیح اشیاء میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت سے چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت پردہ پوشی میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کے ظاہری بدن پر جو چیزیں قبیح دکھائی دیتی ہیں اسی

طرح جو چیزیں اس کے شکم میں ہوتی ہیں یعنی آلائشیں وغیرہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہری جمال و حسن عطا کر کے نگاہوں سے قبیح چیزوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ برے برے خیالات و قبیح ارادے جو اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ مخلوق کے علم سے پوشیدہ رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے باطنی حالات و ارادوں سے مطلع نہ ہو۔ نعوذ باللہ اگر جو کچھ آدمی کے دل میں وسوسے و خطرات اور قبیح ارادے موجود ہوتے ہیں مخلوق پر ظاہر ہو جاتے تو مخلوق میں اس کا جو سب سے زیادہ دوست ہو وہ اسے سب سے زیادہ دشمن اور بدتر محسوس ہوتا اور سب لوگ اس کی دشمنی اور ہلاکت میں کوشش کرتے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق غفار اور ستار کا معنی ایک ہی بن جاتا ہے لیکن حدیث کی اس روایت میں لفظ ستار مذکور نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں اسموں کے معنوں میں یہاں فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اسم ستار بھی مذکور ہوتا تو غفار کے معنی یہ ہوتے وہ ذات جو گناہوں کو بخشنے والی ہے اور ستار کے معنی یہ کئے جاتے ہیں عیبوں کو چھپانے والا جیسا کہ بعض دعاؤں میں آیا ہے یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب۔ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ غفار الذنوب ہے تو اس کی مغفرت اور رحمت سے ناامید نہیں ہوتا اور رد کے ہاتھ مجرم کے سینے پر نہیں مارتا اور جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے تو اس نعمت کے شکرانے سے کسی وقت بھی غافل و فارغ نہیں ہوتا لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت پر بھروسہ کر کے مغرور نہ ہو جائے اور توبہ و انابت سے غفلت نہ کرے اور اس میں تاخیر کو جائز نہ رکھے کیونکہ عرفانی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

الغرض اللہ غفار ہے یعنی اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ غفار کا مطلب ڈھانپنا اور چھپانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے ان کی نافرمانیاں، خطائیں اور لغزشیں غرضیکہ ہر قسم کی کوتاہی اور بے ادبی کو دیکھ کر فوراً انہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دے دیتا ہے مگر جب انسان کو اپنے

گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور میں آ کر معافی طلب کرتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ غفار ہے۔ لہذا غفار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی خوبیوں کو تو ظاہر فرمائے مگر برائیوں پر پردہ ڈال دے اور آخرت میں اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ کی یہ صفت بہت وسعت والی ہے۔ اس لئے جو شخص اس صفت کو کثرت سے پڑھے گا وہ اللہ کا شیدائی بن جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا احساس اٹھتا ہے۔ اس لئے یہ اسم پڑھنے والا ہمیشہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔

الْقَهَّارُ

يَا قَهَّارُ (زبردست) ☆ اعداد: 306 - تاثیر: جلالی

یہ لفظ قہر سے بنا ہے قہر کا معنی ہے غلبہ کرنا اور کسی پر تسلط ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قاہر و غالب ہے کہ جابروں اور متکبروں کی پشتیں توڑنے والا اور انہیں خوار و ہلاک کرنے والا ہے۔ تمام مخلوقات اس کے حملہ قہر کے آگے مقہور مغلوب اور عاجز و خوار ہے اور اس کے قبضہ قدرت و عظمت کے سامنے حیران اور اس کی وادی قہر و جلال میں سرگرداں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کے بارے مندرجہ ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

يُصَاحِبِي السَّجْنَءِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 12 یوسف 39)

ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک خدا بہتر ہے جو واحد قہار ہے۔

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 13 رد 16)

ترجمہ: فرمادیتے اور ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد قہار ہے۔

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ (پ 13 ابراہیم 48)

ترجمہ: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیئے جائیں

گے اور ایک اللہ کے سامنے آ جائیں گے جو سب پر غالب ہے۔

سُبْحٰنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 23 زمر 4)

ترجمہ: وہ پاک ہے وہ اللہ واحد ہے قہار ہے۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (پ 24 مؤمن 16)

ترجمہ: آج کس کی حکومت ہے صرف اللہ کی جو واحد ہے قہار ہے۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (پ 23 ص 65)

ترجمہ: اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد قہار ہے۔

جو شخص اس کی قہاریت کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں اور اس

کے اچانک قہر سے ترساں و لرزاں رہتا ہے اور انتہائی خوف و ڈر کے تحت اس کی

جناب لطف و کرم میں ملتجی رہتا ہے۔ اس کے بندوں میں سے قہار کا وصف اس میں

پیدا ہوتا ہے جو اپنے باطنی غلبہ حال اور حملہ عزت و بزرگی سے دین کے دشمنوں یعنی

جنوں، انسانوں اور شیاطین پر غالب آتا ہے۔ اپنے وقت و حال کے دروازے ان

سے بند رکھتا ہے تاکہ وہ راہِ حق سے ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور طریقت و سلوک میں

سالک کے چلنے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ جاننا چاہئے کہ انسان کا بدترین دشمن اس کا

نفس ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان چھپا بیٹھا ہے۔ بندے کا یہ نفس

قلب کی نورانیت کے غلبے سے ہی حق کے تابع اور حالت اطمینان سے بہرہ ور ہو سکتا

ہے اور اسی صورت میں یہ نفس طاعت و بندگی میں آرام پذیر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح

یہ کامل شخص مخلوق کو زد و کوب، زجر و ڈانٹ، قتل و غارت، حدود شرع کے ترک پر ان

سے سختی سے پیش آتا ہے اور نفس کو بھی آداب و سنن کے ترک پر اور لایعنی دے ہو وہ امور میں مشغول و مصروف ہونے پر اس کی سرزنش کرتا ہے۔ قاہر مردوں کے گروہ میں سے وہ مرد بھی ہے کہ جو شخص بھی اس کے مقابلے اور مزاحمت کی جرأت کرتا ہے مغلوب و مقہور ہو جاتا ہے۔ صاحب فتوحات مکیہ قرآن مجید کی ہر آیت کو کسی نہ کسی ولی کی طرف منسوب کرتے اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب حال یہ آیت ہے ”هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ وہ ذات غالب ہے اپنے بندوں پر۔

بندوں میں سے قہار وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو مورد قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے تو شیطان بھی دب جاتا ہے کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو۔ وہ اس پھڈے میں نہیں پھنستا۔ اسی طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے۔ جب آدمی اپنے نفس کی خواہشات پر قابض ہو جاتا ہے وہ تمام لوگوں کو قابو کر لیتا ہے پس اس پر کسی کا داؤ نہیں چل سکتا کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہوگا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں اور یہ گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات کو مار لیتا ہے وہ موت کے بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہی ہیں اپنے اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔

أَلَوْهَابُ

يَا وَهَّابُ (بہت کچھ دینے والا) ☆ اعداد: 14 - تاثیر: جمالی

وہاب کا مطلب بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بہت کچھ دے دیتا ہے اس لئے وہاب اس کی صفت ہے۔ وہاب کا لفظ ہبہ سے ہے جس کے معنی کوئی چیز بخشنا یا عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر الہبہ اور دائم العطا ہے جس کی بخشش کی کوئی حد نہیں اور جس کا فیض کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ حقیقی ہبہ وہ عطیہ ہے جو غرض و عوض سے خالی و پاک ہو کیونکہ غرض و عوض کے تحت کوئی چیز عطا کرنے والا حقیقت میں بخشنے اور عطا کرنے والا نہیں بلکہ وہ تو کوئی چیز بیچنے والا ہے یعنی اپنی غرض کے عوض جب کوئی چیز دی تو فی الواقع وہ عطیہ اور ہبہ نہیں ہے پس وہاب کا معنی بہت ہی سخاوت کرنے اور عطا کرنے والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ اور قوم نے اپنے ملک کی حدود سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام کا عطیہ دیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (پ 13 ابراہیم 39)

ترجمہ: تمام حمد و ثنا اللہ ہی کیلئے ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اس آیت میں اولاد کا عطیہ ملنے کیلئے بھی ہبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کئے گئے تو اس

وقت بھی ہبہ ہی کا لفظ استعمال ہوا۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ط نِعَمَ الْعَبْدِ ط إِنَّهُ أَوَّابٌ ط (پ 23 ص 30)
ترجمہ: اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا۔ کیسی شان والا بندہ تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں بھی ہبہ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

سورت انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس میں بھی ہبہ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ”وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى“ ہم نے اسے یحییٰ عطا فرمایا۔

سورت ص میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دوسری مرتبہ اولاد اور مال عطا کیا تو اس وقت بھی ہبہ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (پ 23 ص 43)

ترجمہ: اور ہم نے انہیں ان کا اہل و عیال دے دیا اور ان کے ساتھ ان کی مثل رحمت سے بھی عطا کیا۔ یہ اہل عقل کیلئے باعث نصیحت ہے۔
ملک حاصل کرنے کیلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی تو ہبہ ہی کے الفاظ میں یوں دعا کی:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (پ 23 ص 35)

ترجمہ: انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت ہبہ کر جو میرے بعد میں کسی اور کو نہ ملے۔ بے شک تو ہی وہاب یعنی عطا فرمانے والا ہے۔

نبوت اور حکم کیلئے بھی ہبہ ربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُرْسَلِينَ (پ 19 شعراء، 21)

ترجمہ: پس جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا پس میرے رب
نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔

اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی وہاب ہے کہ وہ اپنی رحمت کے خزانوں سے
بھی عطا فرماتا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (پ 3 آل عمران، 8)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو کسی
اور طرف نہ پھیر اور ہمارے لئے رحمت کا نزول فرما، بے شک تو وہاب
ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (پ 23 ص 9)

ترجمہ: کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو
غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔

ان تمام آیات سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے ہاں سے عطا
کرنے کے سلسلے میں وہاب ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاب کے بارے لکھتے
ہوئے یوں بیان کیا ہے کہ بندہ جب اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہاب مطلق اس کی
بلند ذات ہے تو پھر وہ سب کچھ اسی سے چاہتا اور اسی سے ہر قسم کا طمع وابستہ کرتا
ہے۔ ہر قسم کی امید بھی اسی سے رکھتا ہے۔ اس کے سوا باقی سب سے طمع کاٹ لیتا
ہے۔ غیر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ غیر سے ہر قسم کی توقع بھی ختم کر لیتا ہے اور اپنی ہر

خواہش چاہے کتنی بھی دشوار بلکہ ناممکن محسوس ہو اس کے طلب کرنے میں نہیں شرماتا۔ بندہ عاجز مسکین کی دعا اپنی ابتدائی پیاس کی حالت میں جبکہ وہ نادانی اور ناعاقبت اندیشی سے ملی ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی کہ ”رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي“ اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔“ اگرچہ یہ دعا اپنے عموم و اطلاق کے اعتبار سے محال دکھائی دیتی ہے لیکن حال کی خصوصیت اور استعداد کے ملاحظہ کرنے کی صورت میں ایک قسم کی تاویل کے طور پر ان شاء تعالیٰ قبول ہونے کے لائق ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے خرچ کرے۔ اگرچہ اپنی جان ہی کیوں نہ ہو اور راہ حق میں خرچ کرنے میں کسی قسم کے دنیوی حصے، آخرت کے ثواب اور اچھی شہرت خیال میں لانے کے بغیر ہونی چاہئے اگرچہ ہبہ اور جود کی حقیقت آدم زاد سے ممکن نہیں کیونکہ بندہ جو فعل بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا کرنا چھوڑنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نگاہ میں جب تک کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی اس کام کے کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہبہ اور عطا میں سب سے اکمل حضور سید البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک ہے جنہوں نے باذن خدا عطا کرنے اور انعام فرمانے میں انتہا کر دی۔ اس میں غرض و عوض کا شائبہ تک نہ تھا بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ و تقدس کے حکم کی بجا آوری کے تحت آپ کا جود و عطا تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء مرسلین صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم اجمعین کی حالت ہوتی تھی۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے صفت و ہاب پر روشنی ڈالی ہے جو حسب ذیل ہے:

ہبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش۔ جب اس قسم کی بخششیں بکثرت ہوں تو ان کے فاعل کو جَوَادٌ اور وَهَّابٌ کہتے ہیں اور حقیقی جود و عطا اور ہبہ صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ اور بلا کسی فوری

یا بدیر اصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بدیر حاصل ہونے والی ہو اور وہ غرض یا محض مدح و ستائش ہو یا باہمی دوستی، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو تو وہ اپنی عطا کا عوض پارہا ہے۔ وہاب یا جواد کے لقب کا حقدار نہیں کیونکہ عوض ہمیشہ عین ہی نہیں ہوتا بلکہ جو امر کہ ابھی حاصل نہیں اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو، وہ عوض ہے۔ پس جس شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو یا اس کی تعریف کی جائے یا اس لئے کہ اس کی بہ نسبت بدگوئی نہ کی جائے تو وہ شخص گویا ایک قسم کا لین دین کر رہا ہے۔ حقیقی جواد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدے حاصل ہوں بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے مخلص نیت کرتا ہے اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے۔

بندہ سے جو دو بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام کے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا لیکن جو شخص اپنا تمام مال حتیٰ کہ اپنی جان بھی خاص اللہ کیلئے دے ڈالے نہ بہشتی نعمتوں کے حصول کیلئے۔ نہ عذاب دوزخ کے خوف سے اور کسی فوراً یا بدیر حاصل ہونے والے مطلب کے لیے جو بشری مطلب میں سے ہو البتہ یہ شخص ایک طرح سے وہاب اور جواد کے خطابات کا مستحق ہے اس سے کم رتبہ وہ شخص ہے جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں اور اس سے نیچے اس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکر خیر کی خاطر سخاوت کرے۔

جو شخص اپنے جو دو عطا کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں جن کے نزدیک صرف مادی چیزیں عوض ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا تمام مملوکہ مال بلا کسی عاجل و آجل غرض کے خالصتاً لوجہ اللہ دے ڈالتا ہے اس کو

کیوں جو اد نہیں کہا جاتا حالانکہ وہ کوئی حظ نہیں پاتا؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اس کا حصہ خاص خدا کی ذات، اس کی رضا اور اس کا دیدار اور اس کا وصال ہے اور یہ حصہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعال اختیار یہ کی بدولت حاصل کرتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناچیز ہیں۔

یہ جو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کیلئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جمہور کے نزدیک حظ (غرض) سے مراد لوگوں کے مشہورہ اغراض ہیں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا۔

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کیلئے کرتا ہے بلکہ اس انعام و اکرام کیلئے کرتا ہے جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اس کی ذات کیلئے نہیں کرتا بلکہ اس خدمت گزاری کی خاطر کرتا ہے جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے مگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے تو خاص اسی کی ذات کیلئے کرتا ہے۔ کسی غرض کیلئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو بلکہ اگر بالکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ ہوتا ہو تو بھی اس کے مصالح میں برابر مدد دیتا رہے گا۔

جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مدعا نہیں ہے بلکہ اصلی مدعا اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی جستجو میں ہے تو سونا اس کا مطلب لذتہ نہیں ہے بلکہ اس لئے مطلوب

ہے کہ اس کے ذریعہ سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذات نہیں ہیں بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے آرام اور دفع تکلیف کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذات ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے بلکہ باپ کو بیٹے کی سلامتی مہم کی خاطر مطلوب ہے کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علامت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا جیسے کہ اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام بھی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں۔

اگر اس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے، لیکن جس کا اصلی مطلوب و محبوب خاص خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں بلکہ خدا کے دیدار اس کے قرب اور ملاء اعلیٰ کی مرافقت سے سرور رہنا اس کی غرض ہے اس کی نسبت جو کہا جائے گا کہ وہ خدا کی عبادت خدا ہی کیلئے کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مدعا کا طالب نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مدعا خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور مشاہدہ اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اس کی مقصود ہو۔ لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی جیسے کوئی مزدور اجرت کی طمع

پر کام کرتا ہے۔ اکثر لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنی سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ مشاہدہ ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض و مدعا کہا جاسکتا ہے تو اغراض و مقاصد سے بری ہونا محال ہے اور اگر غرض و مقصد سے وہ معنی مراد ہو جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرض نہیں ہے اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں عدم حصول سے بہتر ہو تو اس کو غرض میں شمار کیا جائے گا۔

الرِّزَاقُ

يَا رِزَّاقُ (اے رزق دینے والے)

اعداد: 308 --- تاثیر: جمالی

الرزاق سے مراد روزی دینے والا ہے۔ رزق ہر مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے کیونکہ زندگی کیلئے خوراک کا مہیا ہونا لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کیلئے رزق پیدا فرمایا ہے اور پھر اسے پہنچانے کے ذرائع بھی بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (پ 27 الذاریات 58)

ترجمہ: بے شک اللہ ہی رازق ہے وہ طاقت والا قدرت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ رزاق ہونے کے ساتھ بہتر طریقے سے رزق دینے والا بھی ہے اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(پ 7 مائدہ 114)

ترجمہ: اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لئے اور ہم سے پہلے اور بعد میں آنے والوں کیلئے خوشی کا سبب بن جائے جو تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (پ 17 حج 58)

ترجمہ: اور بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(پ 18 مؤمنون 72)

ترجمہ: کیا آپ ان سے کچھ صلے کا سوال کرتے ہیں پس آپ کیلئے آپ کے رب کا دینا ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رازق ہے۔

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا
انْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ (پ 22 سبأ 39)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ بے شک بندوں کے رزق میں کشادگی اور تنگی کا انحصار میرے رب کی چاہت پر مبنی ہے اور جس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ بہتر رزق دینے والوں سے ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝

(پ 28 جمعہ 11)

اور جب بعض نے تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو خطبے میں رہنے دیا آپ انہیں فرما دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس شغلے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔

امام غزالی نے فرمایا ہے کہ رزاق سے مراد وہ ذات ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس کا رزق بھی پیدا کیا ہے اور رزق پہنچانے کے ذرائع بھی پیدا کئے ہیں۔ رزق کی دو اقسام ہیں ایک رزق جسم کا مثلاً اناج، میوہ جات وغیرہ، دوسرا رزق روح کا اور وہ علوم و معارف ہیں۔ دوسری قسم کا رزق پہلی قسم سے بدرجہا بہتر ہے کیونکہ پہلی قسم جسم فانی کو تقویت دیتی ہے اور چند روزہ زندگی میں اسے راحت پہنچاتی ہے اور دوسری قسم کا رزق ابد الابد کی زندگی کا زاد راہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں رزق محسوس اور رزق معقول۔ رزق محسوس تو وہ رزق ہے جو ہر چیز کے بدن کو پہنچتا ہے اور رزق معقول روحوں کا رزق ہے پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ رزق ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ ضامن بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے رزق کی ضمانت اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہ رزق و ضمانت تمام جانداروں کو شامل ہے کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا: زمین میں کوئی چلنے والی شے نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رزق کی ایک قسم وہ ہے جسے رزق موعود کہتے ہیں یعنی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں سے کر رکھا ہے جو انہیں بغیر تھکاوٹ اور مشقت کے اس جگہ سے ملتا ہے جہاں سے کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے

وعدہ کر رکھا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے ”مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اس کیلئے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک رزق رزق مقسوم ہے جو کہ قسمت میں کر دیا گیا ہے۔ وہ بہر حال پہنچ کر رہتا ہے چاہے رزق مضمون ہو یا رزق موعود (جس کا وعدہ کیا گیا ہے) اور جب بندہ جان لیتا ہے کہ رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اپنے رزق کی توقع اللہ تعالیٰ سے ہی رکھتا ہے غیر سے توقع نہیں رکھتا نہ ہی اپنا کام کسی اور کے حوالے کرتا ہے بلکہ وہ اسی پر توکل و بھروسہ کرتا ہے اور جب جان لیتا ہے کہ روزی مقدر ہو چکی ہے تو روزی کی فکر میں دل تنگ نہیں ہوتا۔ نہ ہی مخلوق سے کوئی گلہ شکایت کرتا ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو لوگوں کے بدنوں کی روزی کا خزانہ بناتا اور زبان کو دلوں کی روزی کا خزانہ بناتا ہے۔ ایسا شخص خدائے تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان جسمانی و روحانی روزیوں کے پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم و ہدایت دینے اور دعائے خیر کرنے میں لوگوں پر سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ اس اسم کے ساتھ متخلق ہونے کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور جن کی پرورش اس کے ذمے ہے روزی کی وسعت اور کشادگی کرتا ہے۔ ان کیلئے خرچ میں تنگی نہیں کرتا مہمان کے آنے پر ترش رو نہیں ہوتا کیونکہ مہمان تو تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی روزی کھاتا ہے۔

الْفَتْحُ

يَافِتَّا حُ (اے کھولنے والے) ☆ اعداد: 289 - جمالی

الفتح سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی مہربانی سے ہر بندش کھل جاتی ہے جس کی رہنمائی سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے کبھی تو ممالک کو دشمنوں کے ہاتھ سے آزاد فرماتا ہے اور کبھی عارفوں کے دلوں سے پردے ہٹا کر زمین و آسمان اور غیب کی کنجیاں ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتح ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت، آفت اور وبا دور ہو جاتی ہے اور اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے اور تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں غرضیکہ وہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت و رافت کا باب کھولنے والا ہے۔ پہلے اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کیلئے رشد و ہدایت کے دروازے کھولے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے اس لئے اسے الفتح کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں الفتح کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ: رَبَّنَا افْتَحْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ (پ 9 اعراف 89)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے

ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر (حق) کو کھولنے والا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(پ 9 اعراف 96)

ترجمہ: اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کے کئے پر پکڑ لیا۔

فَاتْفَحْ بَنِيَّ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

(پ 19 شعراء 118)

ترجمہ: پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے مجھے اور میرے ساتھ مؤمنین کو نجات دے۔

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○

(پ 21 سجدہ 29)

فرما دیجئے کہ فیصلہ کے دن اہل کفر کا ایمان لے آنا ان کیلئے سود مند نہ ہوگا اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَاتْحُ الْعَلِيمُ ○

(پ 22 سبأ 26)

ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرما دے گا اور وہ فاتح ہے علیم ہے۔

مختصر یہ کہ اسم فاتح جامع اسم ہے جو خیرات کے تمام دروازوں اور ہر قسم کی برکتوں کو کھولنے والا ہے۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ وہی ذات فاتح ہے یعنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے والی ہے تو اسے چاہئے کہ فاتح اور کشادگی کی امید لئے ہوئے اس کے دروازہ کرم پر بیٹھ جائے اس کے افضال کے حصول کے انتظار میں بغیر کسی تھکاوٹ و جلد بازی کے رہے اور اس کے حکم کے تحت سکون و تسلیم سے اپنے شب و روز بسر کرے۔

امام قشیری نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا۔

بندے کو محنت کر کے ایسا ہو جانا چاہئے کہ اس کی زبان سے خدا سے متعلق مشکل مسائل حل ہوں اور دین و دنیا کے جو مسائل دوسروں کیلئے مشکل ہوں اللہ کی مدد سے اس کیلئے آسان ہو جائیں تاکہ اسم فتاح کا فیض اسے بھی حاصل ہو۔

الْعَلِيمُ

يَا عَلِيمُ (اے علم والے) ☆ اعداد: 150 - تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی ازل تا ابد ہر چیز اس کے احاطہ میں ہے گویا کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی ابتداء اور انتہاء کو جانتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ علیم ہے۔

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے علیم ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و جلیل چیز کا علم اول سے آخر تک رکھتا ہو اور یہ علم وضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصور میں نہیں آسکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ تمام معلومات اس کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوں۔

ایک اور قول کے مطابق یہ عالم کا مبالغہ ہے یعنی بہت ہی علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ تمام ظاہر و پوشیدہ اور دل کے خیالات اور خطروں اور جو کچھ کہ ابھی دل میں نہیں گزرا سب کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم تمام اشیاء کے ظاہر و باطن کی کلیات و جزیات اور ان کے حقائق کو محیط ہے اس کی معلومات غیر متناہی ہیں اور جب بندے نے یہ جان

لیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کے جملہ اسرار و رموز سے واقف ہے تو بندے کو چاہئے کہ ہر ایسے کام و خیال سے جو نہیں چاہئے پاک رکھے اور خالق کے علم کا ملاحظہ مخلوق کے علم سے پہلے کرے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ (پ 2 بقرہ 231)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(پ 3 بقرہ 282)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو یہ سب کچھ تمہیں اللہ سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (پ 4 آل عمران 92)

ترجمہ: تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اس کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو جو چیز تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اسے بخوبی جانتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ۙ بِذَاتِ الصُّدُورِ (پ 4 آل عمران 119)

ترجمہ: بے شک اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۙ بِذَاتِ الصُّدُورِ (پ 4 آل عمران 154)

ترجمہ: اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (پ 5 نساء 32)

ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (پ 5 نساء 127)

ترجمہ: تو بے شک اللہ سے اچھی طرح جانتا ہے۔

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ط (پ 9 اعراف 89)

ترجمہ: ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔

يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ؕ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(پ 11 ہود 5)

ترجمہ: وہ اس وقت بھی ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط
وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (پ 13 رعد 8)

ترجمہ: ہر مادہ کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے اور جو پیٹ میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ (پ 13 رعد 42)

ترجمہ: اور بے شک ان سے پہلے لوگ بھی فریب کاری کر چکے ہیں مگر تمام تدابیر تو اللہ ہی کی ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کرتا ہے اور کافر اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت کا گھر کس کیلئے ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

(پ 14 حجر 24)

ترجمہ: اور ہمیں اس بات کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا بھی علم ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ^ط وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (پ 22 سبأ 2)

ترجمہ: جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس طرف چڑھتا ہے اسے وہ جانتا ہے اور وہی رحیم ہے بخشنے والا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ^ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ^ه (پ 22 احزاب 40)

ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِبْلَغُكَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ^ه (پ 26 احقاف 23)

ترجمہ: حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک عذاب کے نازل ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کیلئے آیا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہلوں کی قوم ہو۔

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (پ 14 نحل 28)

ترجمہ: کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^ط إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (پ 18 فرقان 6)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے آسمانوں و زمین کے اہرار کا علم رکھنے والے نے نازل فرمایا ہے بے شک وہ غفور ہے رحیم ہے۔

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ^ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ^ه

(پ 28 ممتحنہ 10)

ترجمہ: یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم ہے حکیم ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(پ 23 یسین 38)

ترجمہ: اور سورج اپنے محور پر گردش میں محو ہے یہ غلبے والے علیم کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔

علیم وہ ذات مطلقہ کہ جس نے اپنی صفت کمال سے ظاہر و باطن اور اول و آخر ہر چیز کا کامل احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا احصار نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کیلئے مقدر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کیلئے ملکوت انوار کو پیدا کر کے ان چیزوں کو پیدا کیا جن کو اپنے اسماء سے مستفیہ کیا ہے جو ملکوت میں قائم اور ایک دوسرے اسم کے مقابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عرش کے نور سے پیدا کیا اور عرش کو اسماء ذات کے اسرار سے پیدا کیا ہے اور ملائکہ حروف کو انوار کرسی سے پیدا کیا۔ جو اسمائے صفات قائم اور عوالم کرسی میں ثابت ہیں اور عالم شہادت کے فرشتوں کو لوح سے پیدا کیا جو اسمائے افعال سے ثابت ہیں۔ ملائکہ ملک تصریف سے ملائکہ جبروت، تدبیر سے ملائکہ ملکوت، تدبیر اجازت سے ثابت قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ عالموں کا اختلاف مختلف علوم کے ذریعہ ظاہر کرے تاکہ اس کا علم و حکمت، قدرت اس کے ارادہ سے ظاہر ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے معانی اس کے جسم میں رکھے اور اس کے عضو میں ایک اسم مقرر کیا اور تمام اسماء آدم کو بتائے جب کہ فرمایا ہے ”وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ اور ان کی بیوی حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور اپنے انوار علوی سے مدد دی اور ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اسمائے صفات، اسمائے افعال کی ان پر تجلی کی جس سے وہ مکمل ہوئے۔ ارشاد ہے

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ پھر ان کو عقل مرحمت فرمائی اور اعتقاد دے کر انسان بنایا۔ عالم ابدی یعنی عرش رحمانی سے رزق مقادیر اتصال تدابیر واضح ہے۔ اللہ کی طرف جانے کے بہت راستے ہیں اور ارواح لطیف مصیبت و نعمت کو محسوس کرتی ہیں۔

حضرت امام غزالیؒ کا کہنا ہے کہ بندہ کا اسمِ علیم سے جو حصہ ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے لیکن بندے کا علم تین باتوں میں اصل علم سے کم درجہ رکھتا ہے۔
(1) ایک تو یہ کہ بندہ معلومات کو کتنی ہی زیادہ ہوں مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان معلومات کے ساتھ ان کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں۔

(2) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگرچہ خوب روشن ہو مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد وضوع اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو بلکہ اس کا مشاہدہ ایسا ہوگا جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو اور پھر درجات مشاہدہ میں جو فرق ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے اور طلوع فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور سورج نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے۔

(3) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء کے علم سے حاصل نہیں ہے بلکہ اشیاء اس کے علم سے مستفاد ہیں اور بندہ کو جو اشیاء کا علم ہے وہ اشیاء کے تابع اور اشیاء ہی سے حاصل ہے۔

اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے اور واضح کا علم شطرنج کے وجود سے مقدم ہے اور سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے اور واضح کا علم شطرنج کے وجود سے مقدم ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم موخر ہے۔ اسی طرح اشیاء کے

متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب سے مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے۔

علم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریف علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے بلکہ تمام اشیاء کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے یا اس امر کی معرفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اس کے قرب کا حصول آسان ہو جاتا ہے جو معرفت اس سے خارج ہو اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے۔

بندے کا حصہ اس اسم سے یہ ہے کہ دینی علوم کی تحصیل و تکمیل کرے۔ ان حقائق و معارف کو حاصل کرے جو اس کے نفس کی تکمیل اور اسے عبادت پر آمادہ کرنے والے ہوں اور اس کے ظاہری و باطنی حال کی درستی کا سبب ہوں کیونکہ علم نافع ایسے ہی علم سے عبارت ہے اور رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی ندا و دعا میں مشغول و مصروف رہے۔

الْقَابِضُ

يَا قَابِضُ (اے قبض کرنے والے)

اعداد: 903 تاثیر: جلالی

قبض کا مطلب گھٹانا ہے۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام قابض ہے جس سے مراد کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر تنگ کر دینا یا روک دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کوئی چیز دے کر واپس لے لینے پر قادر ہے، اس لئے اسے قابض

کے نام سے پکارا گیا ہے۔

رزق انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اسے بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے اور جب چاہتا اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اپنی صفت قابض کا اظہار فرماتا ہے۔

رزق کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح بھی قبض ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی وہ قابض ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کے عطا کرنے کو بھی روک دیتا ہے جس کا شمار قبض میں ہوتا ہے ایسے ہی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش رک جاتی ہے وہ بھی قبض کے معنوں میں آتی ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمتوں، نوازشوں اور عنایات کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا کرنے میں اس کی صفت قابض کا اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (پ 2 بقرہ 245)

ترجمہ: اور اللہ تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق بند کر لے جس سے چاہے نعمتیں چھین لے۔ اس قبض کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی نعمت پر شکر نہیں کرتا تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے کیونکہ بندوں کے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر روزی کم کر دی جاتی ہے۔ قبض کی دوسری وجہ آزمائش ہے کہ آزمائش کے طور پر بندوں کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے کہ کیا اس تنگی کے حال میں بھی میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں، کیا مجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیا ان کی زبان پر کوئی شکوہ تو نہیں آتا۔ اگر وہ پھر بھی یعنی تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دامن پکڑے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی صفت قبض انسان ہی کی بہتری کیلئے ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ قُلْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(پ 24 زمر 67)

ترجمہ: اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح کہ قدر کرنے کا حق ہے اور قیامت کے روز تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے بالاتر اور پاک ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی بنا پر وہ موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کرتا ہے۔ زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے اور اغنیاء سے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ محتاج لوگوں کیلئے رزق وافر کر دیتا ہے اور اغنیاء کیلئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ فقیروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آ جاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے اور اپنی بے نیازی بزرگی اور جلال کا پورا پورا احساس دلا کر ضیق میں ڈال دیتا ہے اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیضان سے ان پر بسط کی حالت طاری کر دیتا ہے۔

صاحب شمس المعارف نے کہا ہے کہ قابض وہ خدا ہے جو ارواح کو اجسام سے قبض کرتا اور نَفخہ دوم کے دن ان کو پھر جسم میں داخل کرے گا اور وہی ہر چیز کا موجد و خالق ہے۔ اسکی وحدانیت بلا مثال اشیاء کی موجد ہے۔ تمام اشیاء اسی نے ظاہر کی اور اسی کی طرف واپس ہوں گی۔ عود اور ابداء اسی کی جانب سے ہے۔ اول و آخر اور ظاہر و باطن اسی کے نام ہیں۔ وہی فعل، فاعل، مفعول اور وہی قابل و مقبل ہے اور وہی سب ناموں والا ہے۔ واحد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ سے عمران بن حصین نے ابتداء آسمان و زمین کا

سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ وہی سب سے اول ہے اور آخر ہے۔ اس سے پہلے اور آخر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا ہے پھر لوح پیدا کر کے قلم سے فرمایا لکھ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہو نیوالا ہے۔ سب لکھ تب اس نے لکھا پھر عرش پیدا کیا۔ بعد میں ذوات موجودات کو حاضر کر کے علم سے ان کا احاطہ اور گنتی شمار کی۔ پھر مشیت تدبیر حکمت سے فطرت پر پیدا کیا، پھر عقلوں کو توحید سے مالا مال کیا، پھر ارواح کو نشاۃ احکام دیئے، پھر سینوں کو ارواح کے مرکز اور حیات کا مستقر بنایا، پھر ملکوت اجلی سے اور حروف کو انوار صفات سے مزین کر کے لوح محفوظ میں رکھا جس میں ذکر الہی تحریر ہے

”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ ط“

پھر عالم ملکوت پیدا کر کے متعدد عالموں کے اسماء اور ارتقاء کے درجات مرتب کئے اور اپنے حکم سے کائنات ظاہر فرمائی۔ امر الہی سے تمام عالم قائم ہیں اس امر سے اور امر پیدا ہوئے۔ پہلا امر ایجاد اول سے اخذ موثیق کے دن دونوں قبضوں اور ارواح اور سب عقول پر ہوا۔ یہ امر میثاق کے دن تھا۔ روزے امر سے عرش قائم ہوا تاکہ تمام اہل اسلام وزمین کو استقلال حاصل ہو۔ تیسرے کرسی قائم ہوئی ہے جو تمام موجودات کائنات کی صورتوں کی حامل ہے۔ چوتھا امر حکم امر قائم ہے تاکہ ظہور کیلئے راز تصریف کو ان کے واسطے جاری کرے جو کہ اس میں ودیعت کے ہیں۔ پانچویں امر سے ظہور کیلئے روح قائم ہے۔ چھٹے امر سے اہل اسماء کی عقل ہے۔ ساتویں سے صورتیں قائم ہیں۔ آٹھویں امر سے آسمان وزمین قائم ہیں۔ نویں امر سے ایجاد کے اعلام قائم ہیں۔ دسویں امر سے نفع صور اور محشر کا قیام ہے۔ گیارہویں امر سے اہل جنت، دوزخ میں تصریف ہے۔ بارہویں امر سے خلود ہے جہاں مسلمان فرحت و مسرور رہیں گے۔

الْبَاسِطُ

يَا بَاسِطُ (اے کشادہ کرنے والے)

عدد: 72 تاثیر: جمالی

باسط کا لفظ بسط سے بنا ہے اس کے معانی کشادہ کرنا، وسیع کرنا، اضافہ کرنا، کشائش کرنا، عطا کرنا، خوشحال کر دینا، خوشی عطا کرنا اور زندگی بخش دینا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے اس لحاظ سے وہ اپنی صفت باسط کا اظہار فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی نعمتوں کو کشادہ کر دے اور جس پر چاہے اپنی نعمتوں کو تنگ کر دے۔ وہی ذات ہے جو قبض کو بسط میں بدلتی ہے جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کشادگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اسے رزق کی فراوانی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط (پ 13 رد 26)

ترجمہ: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (پ 15 بنی اسرائیل 30)

ترجمہ: بے شک آپ کا رب جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے،

دیکھ رہا ہے۔

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۚ (پ 20 قصص 82)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو کل تک اس کا مرتبہ حاصل کرنے کے خواہش مند
تھے صبح کو کہنے لگے ہائے افسوس ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس
کیلئے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا
چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (پ 21 عنکبوت 62)

ترجمہ: اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے
اور جس کا چاہتا کم کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا
ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (پ 21 روم 37)

ترجمہ: کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ جس کی روزی میں چاہے
اضافہ فرمادے اور جس کی چاہے تنگ کر دے۔ بے شک اس میں ایمان
لانے والی قوم کیلئے نشانیاں ہیں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ۚ (پ 22 سبأ 36)

ترجمہ: فرمادے کہ میرا رب جس کیلئے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے
اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور لوگوں کی اکثریت لاعلم ہے۔
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا

أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(پ 22 سہا 39)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ بے شک لوگوں کے رزق میں کشادگی اور تنگی کا انحصار میرے رب کی چاہت پر مبنی ہے اور جس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (پ 25 شوریٰ 12)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔

حضرت امام بونی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ اسم باسط ارواح کو اشباح میں رجعت کرتا ہے جو ذات پاک پروردگار ہے۔ اس کا ظاہر ظہور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون سے قبض کراتا ہے اور حرکت سے بسط کراتا ہے۔ اسی کو قبض عموم کہا جاتا ہے۔ ایجاد اول میں جس کے معنی یہ ہیں جس دن کافروں کے دلوں کو اس نے حقائق ایمان کے حاصل کرنے سے قبض کر لئے اور اصحاب یمین کے دل انوار ایمان و سلام کے حصول کیلئے کھول دیئے اور جمادات کو جاوید رہنے سے روکا اور رات کو زیادہ پڑھنے سے روکا اور دن کو ظہور حرکات کیلئے کھولا اور باطن کو عالم امر و ہیبت میں روکا اور خلق پر رحمت کے دروازے کھول دیئے۔ تقرب الہی حاصل کرنے کیلئے شہوتوں سے اپنے نفس کو جسم کو حرام، زبان کو کلام سے نظر کو محرکات اور کان کو غیبت سے، ہاتھ کو حرام اور دل کو گناہوں سے، عقل کو خواہش سے، روح کو کرامات دکھانے سے، سر کو کشف اسراری الہی سے، باز رکھ کر اسم باسط کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ باب انوار تم پر کھول دے گا اور

تمہارے حواسِ خمسہ نور فراست سے معمور ہوں گے۔ اور حقائقِ ملکوت معلوم ہوں گے۔ اور حقائقِ علویات و سفلیات کا تم مشاہدہ کرو گے اور تمہیں تصرف بھی نصیب ہوگا۔

الْخَافِضُ

يَا خَافِضُ (اے پست کرنے والے)

عدد: 1481 — تاثیر: جلالی

اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں میں سے جسے چاہئے پستی کی طرف لے جائے اور اسے دوسروں کی نظروں میں گرا دے۔ خافض چونکہ بلندی کی ضد ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلندی سے گرا دیتا ہے۔ دشمن کو ناکام کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ خافض ہے۔

اس لفظ کا ایک مطلب زیروزبر کرنے والا بھی ہے اور اپنی اس صفت کا اظہار عنایت کے روز یوں فرمائے گا کہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر و الحاد اور تکبر کے باعث غریبوں اور ناتوانوں میں معزز اور جابر بنے ہوئے تھے انہیں پست سے پست اور ذلیل سے ذلیل کر دے گا غرضیکہ اللہ متکبر لوگوں کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ انہیں پست نہیں بلکہ انہیں سر بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سر بلند رکھے گا۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر اسے پست کرتا ہے اس کے اچھے حالات بد حال میں بدل جاتے ہیں۔ اس کی خوشحالی غربت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے اور اس کی نافرمانی

والا راستہ چھوڑ کر اس کی اطاعت والے راستے پر آجائے جو نہی کوئی پستی میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کر کے اس کی اطاعت اور عبادت والی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اس پر نرمی کر کے اسے پستی سے نکال دیتا ہے ایسا کرنا بھی اس کی صفت خافض میں شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو سزا کے طور پر دنیا کی نظروں میں پست اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس کا ایسا کرنا اس کی صفت خافض کا اظہار ہے۔ اس لئے عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے توبہ کی جائے اور اللہ کی عبادت والی راہ اختیار کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۗ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (پ ۹ اعراف 175-176)

ترجمہ: ان پر اس شخص کی خبر بیان کر دیں جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں سے ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی بنا پر بلند کر دیتے مگر وہ پستی کی طرف جھک گیا اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگا تو اس کی مثال کتے کی مانند ہے اگر اس پر حملہ کیا جائے تو وہ بھونکتا ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ بھونکتا ہے۔ یہ اس قوم کی مانند ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو آپ انہیں یہ قصہ سنائیں تاکہ وہ تفکر کرنے لگیں۔

قرآن مجید کی ان آیات میں بلعم بن باعوراء کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی صفت خافض کی بنا پر پست کر دیا اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ تفاسیر میں اس کا قصہ یوں منقول ہے۔

بلعم بن باعورا اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دو اتیں بارہ ہزار تھیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ”قوم جبارین“ سے جہاد کرنے کیلئے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورا کی قوم اس کے پاس گھبراتی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لئے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلائی کیسے؟ اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا۔ یہاں تک کہ بلعم بن باعورا پر حرص

اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کیلئے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔ یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس! اے بلعم بن باعورا! تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم بن باعورا! تیرا برا ہو۔ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورا واپس نہیں لوٹا۔ یہاں تک کہ ”حسان“ نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس قوم کیلئے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم! تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا اے میری قوم! میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس! میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرنے کا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باعورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں

بھیجا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا۔ اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی! یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون (پلیگ) کی وباء پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70 ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن باعورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔

(تفسیر ابن کثیر)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو پست کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ خافض مراد وہ موجود برحق ہے جو کفار کو بدبختی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر اور اپنی ہمت کو ان خواہشات نفسانی پر جن میں چوپائے بھی اس کے شریک ہیں مائل رکھتا ہے تو اس کو وہ اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔

اس اسم سے بندے کا یہ حصہ ہے کہ غلط بات کہنے والے کا ساتھ نہ دے بلکہ باطل کو پست کرنے کی کوشش کرے اور خدا کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے۔

الترافع

يَا رَافِعُ (اے درجے بلند کرنے والے)

عدد: 351 تاثیر: جمالی

الرافع کا لفظ رفع سے بنا ہے جس کا مطلب بلند کرنا، اونچا کرنا، رفعت بخشنا ہے۔ شان و شوکت اور رعب و دبدبے میں اضافہ کرنا، درجات اور مراتب کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر لوگوں کے درجات اور مراتب میں اضافہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے رفعت، بلندی، برتری اور عزت سے نواز دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت و شرف اور شان و شوکت اور برتری عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر رفعت کا لفظ بیان ہوا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط (پ 3 بقرہ 253)

ترجمہ: یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(پ 6 نساء 158)

ترجمہ: بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلند کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

(پ 7 انعام 83)

ترجمہ: ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ^ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

(پ 13 یوسف 76)

ترجمہ: ہم جن کے درجات بلند کرنا چاہیں بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ^ط (پ 13 رعد 2)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر قائم کیا ہے جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (پ 16 مریم 57)

ترجمہ: اور ہم نے انہیں اعلیٰ مقام کی طرف بلند کیا۔

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا^ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (پ 25 زخرف 32)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے درجات ایک دوسرے پر بلند کر دیئے تاکہ ان میں سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بڑی خوب ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ^{لا} (پ 27 رحمن 7)

ترجمہ: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ^{لا} وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (پ 28 مجادلہ 11)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کی بلندی فرمادے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَالۡی السَّمَاۤءِ کَیۡفَ رُفِعَتْ قَفۡةً (پ 30 غاشیہ 18)

ترجمہ: اور آسمان کا ملاحظہ نہیں کرتے اسے کیسے رفعت دی گئی ہے۔

وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ (پ 30 الم نشرح 4)

ترجمہ: اور ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دین و دنیا میں بلند درجات سے نواز دیتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس لئے اسے الرفع کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اسی کی شان ہے کہ اپنی مطیع و فرمانبردار مخلوق کی ذرا سی اطاعت پر خوش ہو کر اسے رفعت بخشتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبادت کرنے والے اور اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور سر بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لئے اگر تو اللہ کی راہ میں سر بلند ہونا چاہتا ہے تو اس کے ذکر کو اپنے سینے میں ڈال لے اور ہر دم کے ساتھ اسے پکارتا رہ پھر دیکھ کہ وہ تجھے کیسے سر بلند کرتا ہے۔

حضرت امام غزالی کا قول ہے کہ رافع سے مراد وہ ذات برحق ہے جو مومنوں کو کامیابی دے کر بلند کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص محسوسات اور متخیلات سے اپنا مشاہدہ اور بری خواہشات سے اپنی سوچ کو جدا کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کے مقام تک ترقی عطا فرماتا ہے۔

رافع رفع سے بنا ہے بمعنی اوپر اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بد بختی کی طرف لاتا ہے اور مومنوں کو نیک بختی کی طرف بلند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے نزدیک کر کے بلندی عطا کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنے سے دور کر کے پستی

میں ڈالتا ہے۔ نیز جسے چاہتا ہے اسے اس کی طبیعت کی سب سے رومی حالت میں نیچے ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی محبت کی بلند ترین فضاؤں میں اٹھالے جاتا ہے۔ یوں یہ جسے چاہتا ہے دوزخ کے بالکل نچلے طبقات میں نیچے ڈال دیتا ہے جسے چاہتا ہے جنت نعیم میں بلندیوں پر فائز کرتا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ ہی بلندی اور پستی عطا کرنے والا ہے تو بندہ کو چاہئے کہ اسی کے پاس پناہ لے کہ کہیں بد بخت لوگوں کا ساتھی بن کر پستی میں نہ گر جائے۔ یہ بات بھی اسے کرنا چاہیے کہ نیک بختوں کا ہم نشین بن کر درجات کی بلندی حاصل کرے۔ دونوں جہان میں اسی حالت کا طلب گار رہے۔

اس اسم سے متعلق ہونے کی شکل یہ ہے کہ بندہ باطل کو پست کرے حق کو بلند کرے دین کے دشمنوں کو زیر کرے ان سے دشمنی رکھے حق کے دوستوں کو بلند کرے اور ان سے دوستی رکھے کیونکہ بندے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کیلئے محبت کرے اور اسی کیلئے دشمنی رکھے جیسا کہ فرمایا (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ) اسی طرح اپنے نفس کے مرتبے کو جو کہ تمام دشمنوں سے سے بڑھ کر بندے کا دشمن ہے، نیچے کرے۔ دل اور روح کے مقام کو بلند کرے۔ اسی طرح مشائخ اہل یقین اور اپنے دینی بھائیوں کے مرتبے بلند و بالا دیکھے۔ اپنے مقام کو ان سب سے نیچے جانے بلکہ اپنے آپ کو نہ ہی دیکھے اور اگر دیکھے تو ناقص و کمینہ دیکھے۔

الْمُعِزُّ

يَا مُعِزُّ (اے عزت دینے والے)

عدد: 117 --- تاثیر: جمالی

الْمُعِزُّ کا لفظ عزت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بزرگی اور عزت و جاہ والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور صاحب عزت و جاہ نہیں۔ وہ اس قدر معزز ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی اس صفت میں یکتا اور نایاب ہے۔ وہ اپنی اس صفت کی بنا پر جسے چاہتا ہے شان و شوکت اور عزت سے نواز دیتا ہے اس لئے المعزز پروردگار کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ سب پر غالب اور فائق ہے جس کی بنا پر وہی وقار اور آبرو بخشتا ہے اور لوگوں کو بزرگی عطا فرماتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی اس صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ عزت کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ:

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ (پ 3 آل عمران 26)

ترجمہ: اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے۔

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط اَيْتَعُونَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ط (پ 5 نساء 139)

ترجمہ: جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں کیا وہ اس طرح رب کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں تو بے شک سب عزت اللہ ہی کیلئے ہے۔

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ط هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ 11 یونس 65)

ترجمہ: بے شک تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے وہ سمیع ہے علیم ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ط إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط (پ 22 فاطر 10)

ترجمہ: جو کوئی عزت چاہتا ہو تو ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے
پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل کو بلند کیا جاتا ہے۔

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ع

(پ 28 منافقون 8)

ترجمہ: اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کیلئے ہے مگر
منافقوں کو معلوم نہیں ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی عزت اسی ذات کے ہاتھ میں ہے اور جسے
چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے۔ اہل دنیا کا دستور ہے کہ جس سے کوئی راضی ہو وہ
اسے عزت دیتا ہے جتنا کوئی بڑے اختیارات کا مالک ہو۔ وہ اسے اسی مناسبت سے
باعزت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہو تو وہ اسے کوئی انعام و
اکرام دے کر باعزت کرے گا اور زیادہ خوشی ہو تو اسے کوئی منصب عطا کر دے گا۔
غرضیکہ ہر لحاظ سے اسے نوازنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز
ہو جائے۔ دوسروں سے ممتاز ہونا ہی دراصل عزت پانا ہے مگر یہ دنیا کی عزت بھی اس
کی عطا کے بغیر نہیں ملتی کیونکہ درحقیقت اللہ ہی کسی کے دل میں یہ بات اٹھاتا ہے تو
پھر ہی دوسرے عزت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل عزت عطا کرنے والا
اللہ ہی ہے اور اس کا اپنے بندوں کو معزز کرنا دراصل اس سے دوستی لگانا ہے کیونکہ
اصل عزت اس کی دوستی ہے اور جسے اس کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے وہی
سب سے معزز ہوتا ہے۔ اس لئے عزت پانے کا راز اس اسم کے ورد میں ہے جو
اسے معزز کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کیلئے معزز کر دیتا ہے۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا الْمُعِزُّ اعزاز سے بنا ہے اعزاز بمعنی

کسی کو عزت دینا مثل ازلال سے بنا ہے بمعنی ذلیل و خوار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دنیا میں توفیق طاعت و ہدایت دے کر اور معصیت و ضلالت کے راستے سے بچا کر عزت عطا کرتا ہے اور عقبیٰ میں بلندی مرتبہ، جنت کی نعمتوں اور اپنی ذات پاک کے دیدار سے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اسے مذکورہ صفات کے خلاف صفتوں میں مبتلا کر کے ذلت میں ڈالتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔

یاد رہے کہ دائمی عزت اور حقیقی بادشاہت، حاجت کی ذلت نفس کی اسیری غلبہ شہوت یا جہالت کے عیب سے نجات پانے میں ہے۔ پس وہ شخص جس کے دل سے حجاب اٹھائے گئے حضرت عزت باری تعالیٰ کے مشاہدہ جمال سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ملک قناعت اور مخلوق سے بے نیازی کی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ نیز اس کے نفس پر غالب آنے میں اسے قوت دے کر اور اس کی تائید کر کے اس کی مدد فرماتا ہے تو حقیقت یہ ہوئی کہ اس نے عزت دی تو ایسے ہی شخص کو عزت دی اور اسے ہی دین و دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ اس کے برعکس جس شخص کیلئے مخلوق کی طرف اس کی چشم حاجت کو دراز کر دیا۔ اہل حاجت کو اس پر حاوی کر دیا۔ حرص کو اس پر مسلط کر دیا تو وہ قناعت سے محروم ہو گیا اور نفس و استدراج کے مکر و فریب کے دھوکے میں پڑ گیا اور جہالت کی تاریکی میں ہی پھنس کر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے حقیقی ملک چھین لیا۔

واضح ہو کہ امام غزالی نے جس اعزاز و ازلال کا ذکر کیا ہے وہ اعزاز و ازلال حقیقی روحانی ہے۔ وہ اعزاز و ازلال جو حسی و جسمانی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کا کرشمہ ہے جیسا کہ قوت، کمال، جاہ و جلال اور مال و اسباب شرف نسب لوگوں کا کسی کیلئے مدد و نصرت کیلئے مددگار و پیروکار بننا۔ اسی طرح ان کمالات کی ضو

اگر کسی پر ظاہر ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کا ظہور ہے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جس کا دین میں نفع یا نقصان ظاہر ہوتا ہے اور جن کا اثر اہل دین میں باقی رہتا ہے بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ عزت و ذلت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو وہ دنیا و آخرت کی عزت اس سے چاہتا اور اس کی درگاہ سے ذلت و خواری سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی جان لیتا ہے کہ عزت، فرمانبرداری میں ہے اور خواری نافرمانی و معصیت میں ذلت ہے۔ لہذا بندے کو چاہئے کہ حرص و طمع اور شہوت نفس میں گر کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کرے۔

حکایت: منقول ہے کہ دو بچے کھیل رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں خشک روٹی تھی دوسرے کے ہاتھ میں اچھی اور تر روٹی۔ خشک روٹی والے بچے نے دوسرے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی اچھی روٹی میں سے دے۔ اس نے کہا آ اور میرا کتابن تاکہ میں تجھے یہ روٹی دوں۔ وہ بچہ راضی ہو گیا۔ دوسرے بچے نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے کھینچا۔

حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ (جو ایک کامل بزرگ گزرے ہیں) نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اگر یہ بچہ اپنی خشک روٹی پر قناعت کرتا تو اپنے دوست کا کتابن کر ذلیل و خوار نہ ہوتا۔

بنان خشک قناعت کنیم و جامہ دلق کہ بار محنت خود بہ زبار منت خلق ہم خشک روٹی اور پھٹے ہوئے کپڑے پر قناعت کریں گے کیونکہ اپنی محنت کا بوجھ اٹھانا مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان بندوں کو عزیز جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت اور مخالفت نفس و ہوا سے عزت عطا فرمائی اور انہیں خوار جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفر و ضلالت کیسینی دنیا سے میل ملاپ موافقت نفس اور جہالت و نفسانی شہوات کے گڑھے میں ڈال دیا۔

الْمَلِكُ

يَا مُدِيلُ (اے ذلت دینے والے)

عدد: 770 -- تاثیر: جلالی

مذل کے معنی ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اختیار رکھتا ہے کہ جسے چاہے دنیا میں غلط روش اختیار کرنے پر ذلیل و خوار کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ذلیل کرتا ہے وہ دنیا میں پست حال اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان پر ایسی غربت طاری ہوتی ہے کہ اس سے ان کا نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے اور ان پر اپنی صفت مذل کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت مذل کے باعث مغرور، متکبر اور گھمنڈ میں مبتلا لوگوں کو ذلت میں گرائے رکھتا ہے جو قوم یا شخص اس کی اطاعت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے اور جن پر اللہ کی صفت مذل کا اظہار ہو جائے تو انہیں عزت ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ 3 ال عمران 26)

ترجمہ: اس طرح کہیں کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک چھین لے تو جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے

شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذلت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ ذلت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مثبت اور دوسری منفی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اپنی مہربانی فرماتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح کیلئے ظاہری طور پر اس پر غربت طاری کر دیتا ہے۔ آزمائش کے طور پر بعض نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لوگ اس بنا پر اسے ذلیل تصور کرنے لگتے ہیں۔ آخر کچھ عرصے کے بعد وہ دور ختم ہو جائے گا اور جب اسے مکمل طور پر روحانیت حاصل ہو جاتی ہے تو سب لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ذلت کا مثبت انداز ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور ایسی ذلت منفی ہوتی ہے۔ یہ ذلت دراصل سزا ہوتی ہے ایسے ہی آخرت میں کافروں کیلئے جو سزائیں مقرر ہیں ان سے مراد ان کی ذلت ہے۔ القصہ عزت کو ذلت میں بدلنا اور ذلت کو عزت میں بدلنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس بنا پر اس کی یہ صفت نڈل ہے۔

اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاجی کی ذلت اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیب سے نجات حاصل ہو۔ پس اس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا اور اس کو قناعت کی توفیق بخشی یہاں تک کہ وہ اس کی بدولت مخلوق سے بے پروا ہو گیا اور اس کو قوت و طاقت بخشی یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آ گیا۔ تو اس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی اور پھر آخرت میں بھی تقرب کی عزت بخشے گا اور فرمائے گا: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ (یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا)۔

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے حتیٰ کہ اس کا محتاج بن جاتا ہے اور اس پر اس

قدرِ حرص غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں پڑا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس طرح چاہے کرے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔

السَّمِيعُ

يَا سَمِيعُ (اے سننے والے) ☆ عدد: 180 - تاثیر: جمالی

السَّمِيعُ کا لفظ سمع سے بنا ہے جس کے معانی سننا ہے۔ اس لحاظ سے سمیع سے مراد بہت سننے والا ہے۔ سننے کا وصف اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی ڈالا ہے۔ انسان اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا اس لحاظ سے انسان سے مختلف ہے کیونکہ وہ سننے کیلئے کانوں کا محتاج نہیں اس کی قوت سمع بغیر کانوں کے ہے۔ انسان کی قوت سمع موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی اس قوت کا تعلق زندگی سے وابستہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی قوت سمع ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسے فنا نہیں بلکہ اسے بقا ہے۔ بندے کو جو قوت سمع دی گئی ہے وہ صرف قریب سے سن سکتا ہے بہت دور سے سننے پر وہ قادر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ بلند آواز کو سن سکتا ہے اور آہستہ آواز کو نہیں سن سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح قریب سے سنتا ہے اسی طرح دور سے بھی سنتا ہے جس طرح وہ بلند آواز کو بھی سنتا ہے اسی طرح وہ ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ انسان کے دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے بندہ سننے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہونے کی وجہ سے کسی کا محتاج نہیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ 1 بقرہ 127)

ترجمہ: اے ہمارے رب اسے قبول کر بے شک تو سننے والا علم والا ہے۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ 1 بقرہ 137)

ترجمہ: پس اے محبوب اللہ تمہارے لئے کافی ہے اور وہ سننے والا علم والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (پ 2 بقرہ 181)

ترجمہ: بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (پ 2 بقرہ 227)

ترجمہ: تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (پ 3 آل عمران 38)

ترجمہ: جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنے ہاں سے صالح اولاد عطا کر بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ (پ 4 آل عمران 121)

ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب جب تم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرنے لگے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (پ 6 نساء 148)

ترجمہ: اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ 6 مائدہ 76)

ترجمہ: اور اللہ وہ ہے جو سننے والا جاننے والا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ

اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (پ 17 حج 61)

ترجمہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو دن میں شامل کرتا ہے اور دن کے کچھ حصے کو رات میں شامل کرتا ہے اور بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۙ
بَصِيرٌ ۙ (پ 17 ج 75)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام رساں چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۙ بَصِيرٌ
(پ 21 لقمان 28)

ترجمہ: تمہارا پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا نفس واحد کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ سمیع وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی نہیں رہتی۔ خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے۔ دعا کرنے والوں کی دعائیں سن کر قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اس کے دوسرے افعال بلا اعضا کے اور کلام بے زبان کے ہیں اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد سے پاک ہے۔

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو مسموعات کے تازہ وقوع کے وقت عارض ہو سکتے ہیں اور تم نے اس کو اس امر سے منزہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سنتا ہو تو تم آپ سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی کیا ہے؟ ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری ماہیت اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے

خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو اور ذرا غور و فکر سے کام لو۔
 بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے وہ ناقص ہے کیونکہ وہ
 تمام مسموعات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو
 اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے اور وہ
 ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز دھیمی ہو تو وہ ادراک کر
 نہیں سکتا۔ اگر دور ہو تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو تو شنوائی کا پردہ بھی پھٹ
 جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے۔

شنوائی سے بندہ کا دینی حصہ دو امر ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے
 کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو برے کلام اور بے ہودہ گوئی سے محفوظ
 رکھے۔

دوئم یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو
 اس نے نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل
 کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں اپنی شنوائی استعمال نہ کرے۔

الْبَصِيرُ

يَا بَصِيرُ (اے دیکھنے والے) ☆ عدد: 302 - تاثیر: جمالی

بصیر کا لفظ بصر سے بنا ہے اور بصر سے مراد دیکھنے کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ
 اپنی اس صفت کی بنا پر ہر شے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے خواہ وہ شے دور ہے یا نزدیک،
 چھوٹی ہے یا بڑی۔ اللہ کی قوت بصارت سے باہر نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے
 لے کر تحت الثریٰ تک ہر وقت دیکھ رہا ہے غرضیکہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور چھپی چیز
 کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ اسی کی عطا

کردہ ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں اس کی قوت بصارت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور وہ لامحدود ہے۔ اللہ اپنی قوت بصارت میں اتنا قوی ہے کہ اگر کوئی چار دیواری کے اندر چھپ کر عمل کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ سے کون و مکاں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ^م بِمَا يَعْمَلُونَ^ع (پ 1 بقرہ 96)

ترجمہ: اور جس طرح کے عمل یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (پ 2 بقرہ 233)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^ط

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا^م بَصِيرًا^ع (پ 5 نساء 134)

ترجمہ: اور جو دنیا کا انعام چاہے تو یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ سنے والا دیکھنے والا ہے۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئًا^ط وَاحِدَةً^ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ^م بَصِيرٌ

(21 لقمان 28)

ترجمہ: تمہارا پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا نفس واحد کی طرح ہے۔ بے شک سنے والا دیکھنے والا ہے۔

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ^ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ 24 مومن 56)

ترجمہ: پس اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک وہی سنے والا دیکھنے والا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْبَيْتِ^ط إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ 15 بنی اسرائیل 1)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہلے گیا جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۚ بَصِيرًا (پ 15 بنی اسرائیل 17)

ترجمہ: اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ ۚ بَصِيرٌ (پ 22 فاطر 31)

ترجمہ: اور جس کتاب کا نزول ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف کیا ہے وہ حق ہے۔ وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی مصدق ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ ۚ بَصِيرٌ (پ 25 شوریٰ 27)

ترجمہ: اور اللہ اگر اپنے تمام بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں نازیبا حرکات کرتے لیکن وہ اپنے مقرر شدہ اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۚ بِالْعِبَادِ ۚ (پ 3 آل عمران 15)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (پ 12 ہود 112)

ترجمہ: پس آپ اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے قائم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور نافرمانی نہ کرو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے۔

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ بصیر وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی پتلی، ڈھیلے اور پوٹے وغیرہ سے پاک ہے اور اس معنی سے بری ہے کہ اس کی ذات میں اشیاء کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھ میں منطبع ہوتے ہیں کیونکہ یہ امور ان تاثرات و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تجدد و حدوث کے مقتضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشیاء کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں اور یہ بینائی اس بینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے جو آنکھوں کو حاصل ہے اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے۔

وصف بصر میں حس کی حیثیت سے جو حصہ بندہ کو حاصل ہے وہ ظاہر ہے لیکن وہ ضعیف و قاصر ہے کیونکہ اس کی طاقت دور تک کام نہیں کرتی اور نہ اشیاء میں جاتی ہے بلکہ صرف ظاہری اشیاء کو محسوس کرتی ہے چھپی ڈھکی باتوں سے قاصر ہے۔

دینی حصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یقین رکھے کہ اس کو بینائی اس لئے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب ملکوت اور آسمانوں پر نظر کرے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو۔

کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ جیسا ہوگا؟ فرمایا ہاں جس شخص کی نظر عبرت کیلئے ہو اور خاموشی غور و فکر کیلئے اور کلام خدا کے ذکر کیلئے! وہ مجھ جیسا ہے۔

دوم یاد رکھے کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے۔ لہذا اس کی نظر سے بے پروائی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتا۔ وہ گویا خدا کی نظر سے بے پروائی کر رہا ہے۔

اس صفت پر ایمان لانے کا ایک ثمرہ مراقبہ ہے۔ پس جو شخص جانتا ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر کسی گناہ کے قریب جاتا ہے وہ کیسا دلیر اور گستاخ ہے! اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا تو وہ کتنا بڑا کافر ہے!!!

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر کیا ہے کہ سمیع اور بصیر کی صفات سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، منکشف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیلئے یہ انکشاف مکمل اور تمام ہوتا ہے اسے اس کیلئے کسی آلے اور قوت حاسہ کی کوئی محتاجی نہیں۔ وہ سنتا ہے مگر کان سے نہیں وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں۔ اس طرح کا سننا اور دیکھنا بڑا اکمل و جامع ہوتا ہے کیونکہ اعضاء و آلات پر تغیر، حادثات و آفات کا اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے دور و نزدیک سب برابر ہیں۔ اس کی یہ بھی شان ہے کہ ایک چیز کا سننا اور دیکھنا اسے دوسری چیز کے سننے اور دیکھنے سے مزاحم نہیں۔ ان دو صفتوں کے اثبات کے مقام میں تشبیہ سے بچنا ضروری ہے اور جبکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی صفات سے منزہ ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے بھی پاک و منزہ ہے۔ قرآن مجید ان دونوں صفتوں کو ثابت کرتا ہے۔ ان دونوں صفتوں کی علم سے تاویل کرنا (یعنی یہ کہنا کہ سمیع و بصیر سے مراد اس کا علم ہے) اس کی یہ تاویل خلاف ظاہر ہے اور جب بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چنانچہ وہ جو کچھ کہتا ہے ادب و احترام سے کہتا ہے۔ غیبت، بہتان، گپ شپ، مدح نفس اور لعن طعن سے پرہیز کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا اور نہیں سنتا مگر خدا کا کلام اور خدا کی پیروی کرنے والوں کا کلام۔ چنانچہ وہ اسی چیز سے راضی ہوتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ وہ نظر کو بھی حرام سے بچاتا

ہے اسی طرح آنکھ کو دنیا کی چمک دمک اور آرائش و زیبائش کے دیکھنے سے بھی بچاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات اور اس کی عجیب عجیب مخلوقات کو دیکھتا اور عبرت حاصل کرتا ہے پھر اس کے نتیجے وہ دائمی مراقبہ دل کی کیفیت کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اور محاسبے کی شکل میں ہر وقت اپنے نفس کا مطالعہ کرتا رہتا ہے

حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بصیر وہ ذات اعلیٰ ہے جس سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ آنکھ اور پلک وغیرہ سے منزہ و مقدس ہے۔ جیسے انسان کی آنکھ میں صورتیں ہوتی ہیں وہ اس سے مقدس ہے کہ ذات میں بھی کوئی چیز سمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ قاصر ہے۔ پوشیدہ اسرار کا مشاہدہ نہیں کر سکتی اور ارواح و ضمائر اور خطروں کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ انسانی آنکھ میں بینائی صرف دو باتوں کیلئے ہے ایک تو یہ کہ عجائب الہی کا مشاہدہ کرے۔ دوسرے یہ جانے کہ آئینہ دار اصل اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو اپنی حرکات و سکنات پر حیرت نہ ہو اور یہ خیال بھی نہ کرے کہ اسماء میں دلالت کی طرف سے کوئی تغائر ہے بلکہ اعتقاد رکھے کہ سب کچھ معلومات کی جانب سے ہے کیونکہ صفات الہی مخالف نہیں ہیں اور اللہ ہی واحد احد فرد و صمد ہے۔

الْحَكْمُ

يَا حَكْمُ (اے حکم والے) ☆ اعداد: 68 - تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کی صفت حکم کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ یعنی وہ حاکم مطلق ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو بلاچون و چرا تسلیم کرنا پڑے اور ہر کسی پر ہر حال میں ہر وقت لاگو ہو۔ کوئی بھی اس سے مبرا نہ ہو۔ جب چاہے اور جو چاہے حکم دے اور کسی کو بھی اس میں تامل نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ ہمارا

حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

(پ 3 آل عمران 23)

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا۔
انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا کہ اس سے ان کے درمیان فیصلہ
ہو جائے مگر ان میں سے ایک فریق معترض ہو کر اس سے پھر جاتا۔

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

(پ 8 اعراف 87)

ترجمہ: اللہ کے رسول شعیب نے کہا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر
ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا
پس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے
اور وہ سب حاکموں سے بہتر ہے۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ۚ (پ 11 یونس 109)

ترجمہ: آپ کو جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کریں اور صبر کئے رہو حتیٰ کہ
اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حاکم بننے کا اختیار دیا ہے یہ حقیقی نہیں بلکہ اس حکم
الحاکمین کے حکم کے ماتحت ہے۔ اس لئے دنیاوی حاکموں کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ
اللہ کی قائم کردہ حدوں کے اندر رہ کر حکم چلائیں۔ اگر کوئی حاکم ان حدوں سے تجاوز
کرے تو اس کیلئے اس فعل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لئے دنیا میں حاکم بن کر یہ

کوشش کرنی چاہئے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے چونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر مشیت کا فیصلہ زبردستی جاری کرتا ہے جس سے اسے فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کا حکم خوشی کے ساتھ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور کرم سے نواز دے گا اور ایسے شخص کی زندگی سکون اور خوشی میں گزرے گی۔

الْعَدْلُ

يَا عَدْلُ (اے انصاف کرنے والے)

اعداد: 104 --- خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے کیونکہ اس کا ہر کام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے کسی بھی حکم میں نا انصافی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اس کے احکام اور افعال ظلم سے منزہ ہیں۔ اس لئے اللہ کی جانب ظلم یا زیادتی کی نسبت کرنا کفر ہے۔

ایک اور قول کے مطابق عدل کا معنی لغت میں انصاف اور انصاف کرنے والا ہے۔ عدل ظلم اور جور کی ضد ہے پھر یہ لفظ استقامت و اعتدال اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جور و ظلم سے منزہ ہے کیونکہ ظلم دراصل غیر کی ملک میں دخل دینے کا نام ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ملک سے باہر نہیں بلکہ سارا عالم اس کی ملک ہے۔ خداوند تعالیٰ کے تمام افعال مستقیم و معتدل اور لاتعداد حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُتُبُوهُ ط

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (پ 3 بقرہ 282)

ترجمہ: اے ایمان والو جب تم کسی کو مقررہ مدت تک رقم دو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (پ 5 نساء 58)

ترجمہ: بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانتیں ان کو دے دو جن کی ہیں اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ

(پ 7 مائدہ 106)

ترجمہ: اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو وصیت کے وقت تمہاری آپس کی گواہی اس طرح ہو کہ تم میں سے دو عادل مرد ہوں یا دوسرے دو غیروں میں سے ہوں۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پ 8 انعام 115)

ترجمہ: اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور عدل میں مکمل ہے۔ اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (پ 14 نحل 76)

ترجمہ: کیا یہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہو اور وہ صراطِ مستقیم پر چل رہا ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(پ 14 نحل 90)

ترجمہ: بے شک اللہ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے منع فرماتا ہے تمہیں وعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (پ 26 حجرات 9)

ترجمہ: پھر اگر وہ واپس لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے مطابق صلح کرو اور دو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

عدل کے معنی عادل اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو، جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حتی المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا (جو بالائے آسمان سے لے کر زیر زمین تک تعلق رکھتے ہیں) علم حاصل کرے۔ حتی کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مکر اور چال بازی غور و فکر کے کسی قسم کی کجی اور قصور نہ پائے گا تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دے گی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دے گا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جسمانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے کو اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالی حوصلہ) ہے اور اس نے ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عادل ہے۔

چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین، پانی، ہوا، آسمان اور ستارے ہیں۔
خدا نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے۔

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا
مقام بنایا ہے اور ہوا پر آسمان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو سارا
نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کیلئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح
اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے
ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضاء سے مرکب
ہے جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خدا نے
ہڈی، گوشت اور چمڑے سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے اور
گوشت کو ان کا غلام بنایا ہے۔ اور چمڑے کو گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب
العکس ہو جائے اور اندر کی چیز باہر رکھی جائے تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ
نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک اور کان پیدا کئے ہیں تو
وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں
عادل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کیلئے بدن میں تمام مقامات کی بہ
نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ اگر اس کو گدی پر یا پاؤں پر، ہاتھ پر یا کھوپڑی پر بنایا
ہوتا تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا وہ مخفی نہیں اور اسی طرح اس نے ہاتھوں کو
کندھوں سے معلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کونھوں میں یا گھٹنوں پر لگا دیتا تو
اس سے جو خلل آتا وہ محتاج دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس سر میں جمع کئے
ہیں کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان
کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے
متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ بالا جمال اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اس

نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اسی جگہ کیلئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے دائیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ ناک کو چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایک رخسار میں بنایا ہوتا تو اس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آ جاتی اور تجھے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگ جاتا۔

واضح ہو کہ سورج کو جو خدا نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغوبات نہیں ہے بلکہ اس نے بجا کیا ہے اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے مقاصد حاصل ہونے کیلئے مناسب ہے۔ مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو کیونکہ تم میں عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات ہیچ ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

ترجمہ: عنقریب ہم ان کو اپنے نشان زمانے میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔

یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ

ترجمہ: اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں

تاکہ وہ ارباب یقین میں شامل ہو جائے۔

اور اس شخص کیلئے آسمانوں کے دروازے کیونکر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندوں میں غرق کر رکھا ہو۔ اور حرص و ہوانے اپنا غلام بنا لیا ہو۔

الغرض یہ بیان اس اکیلے اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کیلئے ایک اشارہ تھا۔ اس کی پوری پوری شرح کیلئے کئی بڑے دفتر درکار ہوں گے اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح کیونکہ تمام اسما افعال سے مشتق ہیں۔ جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیاء کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہیں اور جو شخص ان کا مجمل یا مفصل علم نہیں رکھتا۔ پس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کا مفصل علم تو حاصل ہو نہیں سکتا کیونکہ اسکی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالا جمال علم، سو وہ مقدور بھر حاصل ہو سکتا ہے اور اسی پیمانہ پر بندہ کو اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اتنی معرفت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس

عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں۔ اپنی صفات کو اعتدال پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل دین کے ارشاد کا پابند بنائے اور اگر اس نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرتکب ہوگا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا اور اس کی تفصیل تمام حدود شرع کی رعایت ہے اور ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے۔

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایذا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع رسانی ہے لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں، کتابوں اور اموال سے بھرا ہوا خزانہ کھولے اور اموال تو غنی لوگوں کو دے ڈالے، اسلحہ اہل علم کے حوالہ

کرے اور ان کو قلعوں کی کنجیاں دے دے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کر دے تو اس نے نفع تو پہنچایا لیکن اس نے ظلم بھی کیا اور عدل سے کنارشی کی کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا اور اگر مریض کو دوائیں پلانے، کچھنے لگانے اور فصد کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا اور مجرموں کو مارنے، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائے گا کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے۔

دین کی جہت سے اس وصف کے مشاہدہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں اور ایسی ہی ہیں جیسی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر مریض کو کچھنے نہ لگوائے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے جو کچھنوں کی رُو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے۔

زمانہ کو برا بھلا نہ کہنا چاہئے اور نہ اشیاء کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہئے جیسے عام لوگوں کی عادت ہے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب سے اپنے مُسببات کے ساتھ مرتب ہیں اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے۔

اس صفت سے متعلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں عدل کا نظام کرے خصوصاً رعیت میں پورے انصاف سے کام لے۔ بندے کی حکومت کے نیچے اس کا اپنا وجود بھی ہے اور شہوت و غضب بھی تو چاہئے کہ عقل کی سیاست و تدبیر کے تحت اپنی ان قوتوں کو درست اور دین کی قید کے دائرے میں رکھے۔ اسی طرح یہ بھی

چاہئے کہ اس صفت کی روشنی میں میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرتے ہوئے
استقامت کے راستے پر چلے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل میں صادق ہونے کی بنا پر انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ
جب تجھ پر عدل و انصاف کی ذمہ داری سونپی جائے تو تو بھی عدل و انصاف کر، جس
میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم سے عدل و انصاف پر پورا اترنا
مشکل ہے پس یہ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے اول ہے تو بندوں کو چاہئے کہ
اس کے احکام اور فیصلوں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کریں بلکہ ہر بندے کو یہ یقین رکھنا
چاہئے کہ اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ عین انصاف پر مبنی
ہے لہذا اس پر اعتماد اور کامل توکل کرنے سے اللہ کی مدد آپ کا ساتھ دے گی۔

اللطيفُ

يَا لَطِيفُ (اے لطف و کرم کرنے والے)

اعداد: 129 --- تاثیر: جمالی

اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ ان سے نرمی سے
پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ اس نے حکیموں کو حکمت سے علماء کو علم
سے نوازا۔ سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے
سرفراز فرمایا، اہل تقویٰ کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا یعنی جو جس کے قابل
تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لَطِيفُ کا مطلب اتنی باریک
چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جاسکے لیکن پکڑی نہ جاسکے۔ اس معنوں کے لحاظ سے بھی
اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول

کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے۔ اس کی نہ حد ہے نہ انتہا اور نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

(پ 7 انعام 103)

ترجمہ: نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں مگر وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے وہ لطیف ہے خبیر ہے۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

(پ 13 یوسف 100)

ترجمہ: بے شک میرا رب جس کیلئے چاہے اچھی چارہ جوئی کرتا ہے بے شک وہ علیم ہے حکیم ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ (پ 17 حج 63)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا خبر والا ہے۔

يُنسَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (پ 21 لقمان 16)

ترجمہ: اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی باریک ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں پوشیدہ ہو تو اللہ اسے سامنے لے آئے گا بے شک اللہ لطیف ہے باخبر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝ (پ 22 احزاب 34)

ترجمہ: بے شک اللہ لطیف ہے باخبر ہے۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

(پ 25 شوریٰ 19)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے جسے چاہتا ہے رزق

دیتا ہے وہی عزت والا غلبے والا ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ (پ 29 ملک 14)

ترجمہ: کیا وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی لطیف ہے خبیر ہے۔

اس اسم کی مستحق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کیلئے متصور ہے۔

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر مخفی بات اس کے علم میں ویسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شمار میں نہیں آ سکتی کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہ سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو اور اس میں مہربانی کے نکتے سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسویں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے۔

خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا

دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے بلکہ وہ انڈے کو توڑ کر چوزہ نکالتا ہے اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے وقت دانت نہیں بناتا کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چپانے کیلئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈاڑھیں ہیں جو طعام کو پینے کیلئے ہیں اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام ہے طعام کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کے کام پر مامور کرتا ہے۔

ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلا مشقت ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کو کاٹا کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے گوندھا اور کسی نے پکایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتام کو پہنچی۔

الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو اد ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی مصور ہے اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہے عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی۔ لطیف ہے اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسماء کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے۔

ایک لطف یہ ہے کہ تھوڑی سی بہت یعنی دنیوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان

کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے کیونکہ اس عمر کو ابد کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیپ سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی امانت کا حامل اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا۔

یہ لفظ لطف سے بنا ہے جس کا معنی ہے نرمی اور کام و کردار میں نازک مزاجی دکھلانا اور کسی سے نیکی کرنا۔ بندے پر خدا کا لطف یہ ہے کہ وہ اسے طاعات کی توفیق دیتا اور معصیت سے بچاتا ہے۔ بندوں پر اس کے لطف و کرم میں یہ بات بھی ہے کہ وہ بندے کو کفایت و ضرورت سے بڑھ کر عطا کرتا اور اس کی طاقت سے کم اسے تکلیف دیتا ہے اور عمر کی مختصر سی مدت میں معمولی سی سعی و کوشش سے اسے سعادت ابدی سے ہمکنار کرتا ہے بلکہ ایک ساعت کے اندر اسے سعادت ابدی سے بہرہ ور فرما دیتا ہے جیسا کہ ایک شخص ایمان لایا اور ایمان لاتے ہی دنیا سے رحلت کر گیا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف و نرمی کے تحت بندے کیلئے مشقت، مجاہدہ، محنت و ریاضت میں آسانی مہیا کر دیتا ہے اور اگر چاہے تو بغیر ریاضت و مجاہدہ کی زحمت کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور اپنے قرب اور اپنی درگاہ میں قبول ہونے کے ساتھ مخصوص و مشرف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کی باریکیوں کا علم رکھتا ہے اور مخفی امور سے پوری طرح واقف ہوتا ہے جملہ امور کو پورے رفق و نرمی سے اپنے اپنے بہتر مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ دونوں امور یعنی باریکیوں اور مخفی امور کا خدائے تعالیٰ کا احاطہ کرنا اور افعال میں رفق و نرمی کو بروئے کار لانا، احاطہ حصر و بیان سے باہر ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مثالوں کے ضمن میں اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کی نرمی بچے کے ساتھ شکم مادر سے لے کر آخر عمر تک ساتھ رہتی ہے پھر وہ شکم میں بچے کو غذا پہنچاتا ہے۔ اسی طرح شیر خواری کی حالت میں بھی اسے دودھ کی غذا مہیا فرماتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے خون و گوبر کے درمیان سے صاف اور میٹھا دودھ نکالتا ہے اور پتھروں کے درمیان سے نفیس قسم کے موتی پیدا فرماتا ہے۔ شہد کی مکھی سے بہترین شہد پیدا کرتا ہے۔ کیڑوں سے ریشم پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح لمبے لمبے اور عجیب سیپ پیدا کرتا ہے جس سے قیمتی موتی برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے لطف و کرم کی عجیب تر کیفیت یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر معرفت کی امانت رکھتا اور حامل امانت بناتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے مشاہدے کراتا اور بندے کو اپنی ذات و صفات کا عارف بنا دیتا ہے۔ یہ سب اس کے لطف و کرم کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کی اور اتنی مثالیں ہیں جو حد و شمار میں نہیں آسکتیں۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے دلوں کے پوشیدہ تمام اسرار و رموز جاننے والا ہے اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کو بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے ظاہر و باطن کو شیطانی مکر و فریب ظلم کرنے اور برے اخلاق سے محفوظ رکھے اس کی نعمت کا شکر ادا کرے اس سے بھلائی و اطاعت کی توفیق مانگے۔ اپنی تقصیرات و کوتاہیوں کا اعتراف کرے اس کے حضور میں تائب ہو اور عذر خواہی کرے۔ اس صفت سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے لطف و نرمی سے پیش آئے چاہے ان کا تعلق حسی اور دنیوی جہان سے ہو چاہے روحانی و دینی منافع سے ہو اور حق تعالیٰ کے طریقہ کے مطابق لطف و نرمی سے مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے ہدایت کا راستہ دکھلائے یونہی لطف و حکمت سے اچھی اچھی نصیحتوں، حقائق کا علم، پوشیدہ دقائق کا فہم پورے رفق و سہولت اور نرمی سے لوگوں تک پہنچائے اور فائدے سے بہرہ ور کرے۔

الْخَبِيرُ

يَا خَبِيرُ (اے خبر رکھنے والے) ☆ اعداد: 812 - تاثیر: جمالی
 اللہ خبیر ہے کیونکہ اسے تمام اشیاء کی باریکیوں کی خبر ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی
 اور بڑی سے بڑی چیز کو ہر وقت پوری طرح جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔
 وہ غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے کے حال
 سے باخبر ہے۔ اس لئے اسے خبیر کہا جاتا ہے۔

خبیر بمعنی آگاہ و دانائے زمینوں و آسمانوں کے مالک و ملکوت میں کوئی متحرک و
 ساکن چیز نہیں ہے اور زمینوں و آسمان میں بھی کوئی چیز نہیں اور کوئی ذرہ بے چین یا
 مطمئن نہیں اور کون و مکان میں بھی کوئی شے نہیں اور نہ کوئی چیز سانس لینے والی مگر یہ
 اللہ تعالیٰ شانہ اس کے نزدیک اور اس سے باخبر ہے۔ اس معنی کے مطابق خبیر کا معنی
 علیم کے معنی کی طرف لوٹ جائے گا مگر یہ کہ خبیر کو خبر دینے سے مخصوص کیا جائے اور
 عالم کو تمام خبروں کا عالم قرار دیا جائے۔

کبھی خبیر کا معنی خبر دینے والا بھی کرتے ہیں یعنی اپنے کلام کے مخفی اسرار بتانے
 والا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ساتھ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دینے والا ہے۔ اس معنی
 کے مطابق اس اسم کا معنی صفت کلام کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر خبرت اور اخبار کا
 معنی آزمانے کا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو امر و نہی اور تکلیف شرعی سے آزمانا
 ہے جیسا کہ اس نے فرمایا (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) تاکہ وہ تمہیں آزمانے
 کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 خبیر ہے تو اسے چاہئے کہ اس کا مراقبہ اور اس کے علم کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور
 انبیاء علیہم السلام نے جن اوامر و نواہی کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرے۔

خبیر وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے یا ساکن ہو۔ کوئی جان بے قرار یا مطمئن ہو۔ اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے اور معنی کی رو سے علیم ہے لیکن علم کو جب باطنی بھیدوں سے منسوب کیا جائے تو وہ خبرۃ کہلاتا ہے۔ خبرۃ والے کو خبیر کہتے ہیں۔

اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے اپنے بدن اور قلب کے عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن چھپی ڈھکی برائیوں سے متصف ہو جاتا ہے مثلاً بد باطنی، خیانت، دنیائے دون کیلئے ہر وقت مارے مارے پھرنا، برائی کی نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا اور اندر کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری خبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے جو اپنے نفس کا خوب امتحان لیتا رہا ہو اور اس کے مکر و تلبیس اور فریب کو اچھی طرح تاڑتا رہا ہو۔ اور اس کے مقابلہ اور مخالفت کیلئے کمر بستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ ایسا بندہ خبیر کہلانے کا پورا مستحق ہے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں میں دانا اور باریک بین بنے اور جو کچھ بھی اس کے دل و جسم پر گزرے، بصیرت اور ہوش سے اس سے آگاہ رہے۔ نفس کی مکاریوں اور اس کے مکر و دھوکے سے پوری طرح محتاط رہے۔ نیز نجات کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے میں مصروف رہے اور لوگوں کو آزماتا رہے کہ وہ کس حد تک صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہیں۔ اس اسم کے ذکر سے طبیعت میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کا دل اپنی برائیوں سے باخبر ہو کر انہیں ختم کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس اسم کے خواص مندرجہ ذیل ہیں:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (پ 28 حشر 18)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر

ہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (پ 18 تغابن 8)

ترجمہ: اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (پ 12 ہود 111)

ترجمہ: بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔

إِنَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ (پ 20 نمل 88)

ترجمہ: بے شک وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ج

(پ 18 فرقان 58)

ترجمہ: اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا مَّۡ بَصِيرًا (پ 15 بنی اسرائیل 17)

ترجمہ: او آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌۢ مَّۡ بَصِيرٌ (پ 22 فاطر 31)

ترجمہ: بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا مَّۡ بَصِيرًا ع (پ 15 بنی اسرائیل 30)

ترجمہ: بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے بصیر ہے۔

ذٰلِكَ اَزْكَى لَہُمْ ط اِنَّ اللہَ خَبِيرٌۢ مَّۡ بِمَا یَصْنَعُونَ (پ 18 نور 30)

ترجمہ: یہ ان کیلئے تزکیہ ہے بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ صناعت کرتے ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ج الرَّحْمٰنُ فَسْئَلُ بِہِ خَبِيرًا

(پ 18 فرقان 59)

ترجمہ: پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، رحمن ہے اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۙ (پ 30 عاریات 11)

ترجمہ: بے شک ان کا رب اس دن ان کی سب باتوں سے باخبر ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۙ (پ 22 احزاب 34)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے خبیر ہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ (پ 3 بقرہ 271)

ترجمہ: اور اللہ جو تم کرتے ہو، اس سے باخبر ہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ (پ 2 بقرہ 234)

ترجمہ: اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ (پ 5 نساء 128)

ترجمہ: اور ڈرو پس بلاشبہ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ (پ 5 نساء 135)

ترجمہ: پس بلاشبہ اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۙ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ (پ 6 مائدہ 8)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۙ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ (پ 10 توبہ 16)

ترجمہ: اور اللہ خبیر ہے جو تم کرتے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۙ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ (پ 18 نور 53)

ترجمہ: بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ (پ 21 لقمان 29)

ترجمہ: اور بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (پ 21 احزاب 2)

ترجمہ: بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (پ 26 فتح 11)

ترجمہ: بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَكَلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰى ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(پ 27 حدید 10)

ترجمہ: اور تمام کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(پ 28 مجادلہ 11)

ترجمہ: اور اللہ تم میں سے علم میں درجات بلند فرمائے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۝ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(پ 28 مجادلہ 13)

ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے باخبر ہے۔

فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ط إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (پ 17 حج 63)

ترجمہ: جس سے زمین سرسبز و شاداب ہوگئی بے شک اللہ لطیف ہے خبیر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (پ 21 لقمان 16)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے خبیر ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ (پ 29 ملک 14)

ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی لطف و کرم والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (پ 7 انعام 18)
ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر مکمل فوقیت رکھتا ہے اور وہ ہی حکیم ہے خبیر ہے۔

الرَّفَقَ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ل
(پ 11 ہود 1)

ترجمہ: الرّٰس کتاب کی آیتیں حکمت والی ہیں اللہ کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے جو حکیم ہے خبیر ہے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (پ 22 سبا 1)،
ترجمہ: اور آخرت میں بھی حمد اسی کیلئے اور وہ حکمت والا ہے باخبر ہے۔
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

(پ 26 حجرات 13)

ترجمہ: بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو متقی ہے بے شک اللہ علیم ہے خبیر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (پ 5 نساء 35)

ترجمہ: بے شک اللہ علیم ہے خبیر ہے

قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (پ 28 تحریم 3)

ترجمہ: تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو علیم ہے۔

الْحَلِيمُ

يَا حَلِيمُ (اے حلم والے) ☆ اعداد: 88 - تاثیر: جمالی

حلیم کا مطلب بردباری کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اس کے مزاج میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا کیونکہ وہ غضب میں قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ وہ انسانوں کو اپنے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ درگزر فرما کر ڈھیل دے دیتا ہے کہ اب بھی یہ اپنی اصلاح خود کر لیں۔

حلیم وہ ذات ہے جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت ہوتے دیکھے پھر بھی وہ غضب میں بے قرار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو اور باوجود پورے اقتدار کے و بے حوصلگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (پ 2 بقرہ 225)

ترجمہ: اور اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ جَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ع (پ 2 بقرہ 235)

ترجمہ: اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کے پوشیدہ راز بھی جانتا

ہے پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى ط وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ (پ 3 بقرہ 263)

اچھی بات کہنا اور خطا معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے

پیچھے اذیت ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حلم والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ لَا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ (پ 4 آل عمران 155)

ترجمہ: بے شک جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب دونوں جماعتیں
آمنے سامنے ہوئی تھیں بھاگ گئے تھے تو ان کے بعض کاموں کی وجہ
سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔
بے شک اللہ مغفرت کرنے والا حلم والا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ (پ 4 نساء 12)

ترجمہ: اور اللہ جاننے والا حلم والا ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (پ 7 مائدہ 101)

ترجمہ: اور اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے۔

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
غَفُورًا ۝ (پ 15 بنی اسرائیل 44)

ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اس کی تسبیح میں
مصروف ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح نہ
کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ حلم والا بخشنے والا
ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (پ 17 حج 59)

ترجمہ: اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (پ 22 فاطر 41)

ترجمہ: بے شک وہ حلم والا ہے بخشنے والا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

(پ 22 احزاب 51)

ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ علیم ہے حلیم

ہے۔

حلیم وہ ذات الرحمن الرحیم جو اپنے نافرمانوں کی سزا میں اور نافرمانوں پر غصہ میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے نمو کو ایسا ہی باطنی بنایا ہے جس طرح اجسام کے نمو کو ظاہری بنایا ہے۔ اطوار اسی طرح ترتیب دیئے ہیں جس طرح کہ ترتیبی اطوار مرتب کئے ہیں۔ جو عقل و روح و نفس اور دل کی نشوونما ہے۔ عقل کے ساتھ جو چیز ادراک اور تمیز میں جاتی ہے تو اپنے نشوونما کے ساتھ قالب علم میں اسماء اور عقل دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی نشوونما میں اور صرف معانی ادراک اور اسمائے حقائق کا نمو روح کے نمو سے ملتا ہے۔ جب روح کا نمو زائد ہوتا ہے تو قوت شوق زیادہ ہوتی ہے اور روح کی بصیرت کھلتی ہے تاکہ عقل سے انوار معلومات حاصل کرے۔ عقل کا نمو معرفت کے میدان میں انوار ذات سے اور روح کا نمو انوار صفات سے مسلسل جاری رہتا ہے۔

حلم بمعنی آہستگی بردباری ہے حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جسے اس کا غصہ راہ راست سے بھٹکنے نہ دے اور انتقام لینے اور سزا میں مبتلا کرنے میں جلدی نہ کرے اور قدرت رکھنے کے باوجود اگر بندہ توبہ کرے تو اسے معاف کر دے اگر چاہے توبہ کے بغیر ہی رحمت کر دے۔ حلیم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بندہ کبھی سزا دینے میں عملاً جلدی نہیں کرتا مگر اس کے دل میں کئی دفعہ اس کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں کینہ بھی چھپا کر رکھتا ہے تاکہ فرصت اور گنجائش کے وقت اپنا کینہ بروئے کار لائے۔ اللہ تعالیٰ نے صفت انتقام بھی اپنے لئے ثابت فرمائی ہے پس بندے کا حق یہ

ہے کہ اس کے انتقام سے ڈرتا رہے اور اس کے حلم سے معافی کا امیدوار رہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے اس وقت حلم و نرمی کا سلوک کیا ہے آئندہ بھی وہ مغفرت فرمائے گا اور چاہے کہ ایسے ذات جو سزا دینے پر کامل قدرت رکھتی ہے اس کے باوجود انتقام نہیں لیتی بلکہ اسے معاف کرتی ہے جو نعمتیں اس نے دی ہوتی ہیں انہیں واپس نہیں لیتی، اس کا شکر گزار بنے اور شرم کرے کہ ایسی کریم ذات کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔

ایک اور عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے حلیم ہے کہ وہ انتقام کیلئے جلدی نہیں کرتا اور گناہوں کی سزا میں رزق بند نہیں کرتا۔ اس لئے جو شخص اسے اس صفت کے ذریعے پکارتا ہے اللہ اس میں بھی حلم پیدا فرمادیتا ہے۔

اس صفت سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی غلط چیز کو دیکھ کر راستے سے نہ بھٹکے بلکہ سنجیدگی و وقار سے راہ راست پر قائم رہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو سزا دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ عفو و درگزر کو اپنا وطیرہ بنائے۔ ہاں حدود شریعہ کے جاری کرنے میں بالکل سستی اور نرمی نہ کرے۔

الْعَظِيمُ

يَا عَظِيمُ (اے عظمت والے) ☆ اعداد: 1020 - تاثیر: جمالی

اللہ اپنی شان میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے۔ اس کی عظمت اور غلبہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی منفرد نوعیت کی ہے اور جو چیزیں اس کی ہیں وہ بھی عظیم ہیں۔ اس کا ہر کام عظمت والا ہے۔ اللہ عظیم ہے، ارض و سماء کا مالک ہونے میں اللہ عظیم ہے، مخلوق کو رزق دینے میں اللہ عظیم ہے، سب سے زیادہ پاک اور منزہ ہونے میں اللہ عظیم ہے، عزت اور غلبے میں اللہ عظیم ہے، جبار اور قہار ہونے میں اللہ

عظیم ہے، گناہوں کے معاف کرنے میں اللہ عظیم ہے، اپنی رحمت نازل کرنے میں اللہ عظیم ہے، علم اور حلم میں اللہ عظیم ہے، عدل و انصاف میں کیونکہ اس جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا اللہ عظیم ہے، حسن و تدبیر میں اللہ عظیم ہے، ہر چیز پر اختیار رکھنے میں اللہ عظیم ہے، اپنے کرم میں اللہ عظیم ہے، اپنے حسن میں گویا کہ وہ سب سے زیادہ جمیل ہے اس لئے وہ اپنی صفت کی بنا پر کائنات کے ذرے سے لے کر سب سے بڑی چیز سے بھی عظیم ہے۔

واضح ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول، عرض اور عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے۔

اسم عظیم دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری نظر آ جاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو سکے۔ جیسے زمین و آسمان وغیرہ۔ دیکھو ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے نیچے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اس پر حاوی ہو سکے۔ یہی حال آسمان کا ہے پس یہ چیزیں مدرکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں۔

مدرکات بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کنہ و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے جن اشیاء کی حقیقت پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی ہونا متصور ہو سکے اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں۔

دوم وہ جن کا عقل کے احاطہ میں آنا حقیقتاً کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے اور یہ وہ عظیم مطلق ہے جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی

حقیقت اور بھید کو پانا تصور میں آسکتا ہی نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (پ 1 بقرہ 105)

ترجمہ: اور اللہ فضل والا ہے عظمت والا ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (پ 3 بقرہ 255)

ترجمہ: اور وہ عالی شان ہے عظیم ہے۔

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(پ 3 آل عمران 74)

ترجمہ: جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کیلئے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ عظیم فضل

والا ہے۔

وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (پ 4 آل عمران 174)

ترجمہ: اور وہ رضائے الہی کے تابع رہے اور اللہ صاحب فضل ہے عظیم ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ؕ (پ 11 توبہ 129)

ترجمہ: پھر اگر یہ پھر جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے

جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا جو عرش عظیم کا

رب ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ؕ

(پ 25 شوریٰ 4)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور وہ علی ہے عظیم

ہے۔

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ (پ 29 حاتہ 33)

ترجمہ: بے شک وہ عظیم اللہ پر ایمان نہ لایا تھا۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (پ 29 حاتہ 52)

ترجمہ: پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔

یہ لفظ العظم اور العظمت سے بنا ہے بمعنی بزرگ ہونا، عظیم کبھی تو اجسام میں پائی جاتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ جسم عظیم ہے اور وہ جسم اس سے بھی عظیم تر ہے۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ دوسرا جسم طول عرض اور مٹاپے میں دوسرے سے زیادہ ہو پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی عظمت آنکھ کو بھر دے اور بندے کی آنکھ اس کا پورا احاطہ کر لے جیسا کہ کہا گیا ہے دوسری عظمت وہ ہے کہ نگاہ اس کی اطراف کا احاطہ نہ کر سکے جیسے زمین و آسمان اور یہ اول سے بھی عظیم تر ہے اور کبھی عظمت کا اطلاق باطنی بصیرتوں کے استعمال پر بھی کرتے ہیں۔ اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ عقل جس کی حقیقت کی تہہ کو پالے عظمت کی ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے اکثر یا بعض عقلیں قاصر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ حقیقت کی تہہ کو پالے۔ عظمت کی ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے اکثر یا بعض عقلیں قاصر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ حقیقت کی تہہ کو پانا اور اس کا احاطہ کرنا ادراک عقل سے باہر ہو اور عظیم مطلق وہ ہوتا ہے جو سب سے عظیم اور حد عقل کی دسترس سے باہر ہو اور دائرہ ادراک میں نہ آئے اور کوئی بھی عقل اس کی ذات و صفات کی تہہ تک نہ پہنچ سکے وہ ذات حق تعالیٰ و تقدس ہے جو شخص اللہ جل جلالہ کی عظمت جان لیتا ہے وہ اس کی ذات عظیم کے سامنے اپنی ذات کو حقیر و خوار جانتا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور احکام کے بجالانے میں پوری پھرتی دکھاتا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ عظمت و جلال حق کو دل میں اس طرح لائے کہ کسی بھی شخص اور کسی بھی چیز کو ذات حق سبحانہ کے سامنے کچھ نہ جانے۔ اس صفت سے متخلق ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ہمت بلند رکھے اور کمینی دنیا کیلئے اپنا سر نیچے نہ جھکائے۔ دونوں جہاں کو عظمت الہی کے سامنے کوئی حیثیت نہ دے اور ایسے کمالات و صفات شریفہ کی تحصیل

کرے جس سے کہ اس کی عظمت عظیم سے عظیم تر ہو جائے اور ایسے مرتبے تک پہنچ جائے کہ اکثر عقول انسانی اس کی شان و قدر کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک باعمل عالم جو لوگوں کو خیر و نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس کا نام عالم بالا میں عظیم رکھا جاتا ہے۔ انسانوں میں عظیم ترین ہستیاں انبیاء اور علماء ہیں کیونکہ ایک صاحب عقل انسان جب ان کی صفات کا تصور کرتا ہے تو اس کی عقل ان کی کیفیت و عظمت سے پر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے اعظم ترین مخلوق سید المرسلین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کیونکہ مخلوق میں آپ سے عظیم تر کوئی ہستی وجود میں نہیں آئی اور عالم اجسام میں عرش سے بڑھ کر کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی اور عالم معانی میں ارواح انسانی سے بڑھ کر کوئی چیز عظیم نہیں مگر ان سب کی عظمت عظمتِ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہی رخ کرتی ہے۔

بندوں میں عظیم انبیاء و علماء ہیں۔ جن کی تھوڑی سی صفات کا بھی اگر کوئی عقلمند تصور کرتا ہے تو ہیبت و رعب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے اور دل میں ان کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں اور استاد اپنے شاگردوں کے حق میں عظیم ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو بھی اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیم نہیں کہلائے گا۔

جو عظیم خدا کے سوا کسی اور چیز کیلئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیم، عظیم مطلق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے بطریق اضافت عظیم نہیں۔

الْغَفُورُ

يَا غَفُورُ (اے بخشنے والے) ☆ اعداد 1286 تاثیر جمالی

غفور کا مطلب بار بار معاف کرنے والا ہے یعنی وہ اپنے بندوں کے بار بار گناہ معاف کرنے والا ہے چونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لئے اسے غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے بخشش طلب کئے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہر ایک کیلئے ضروری ہے۔ یہ مغفرت تین طرح کی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے لئے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کیلئے طلب کی جائے۔ تیسری یہ کہ جو مسلمان بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کیلئے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے اور اپنی صفت غفور کے صدقے مغفرت طلب کرنے پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔

یہ اسم غفار کا ہم معنی ہے لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے جو غفار میں نہیں کیونکہ غفار کا مبالغہ متکرر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے اور فعول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دالت کرتا ہے۔ پس وہ غفور ہے۔ بایں معنی کہ وہ پوری اور مکمل غفران والا ہے حتیٰ کہ وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔

بمعنی غفار ہے یہ دونوں صیغے مبالغہ کیلئے آتے ہیں۔ غفور میں غفار سے زیادہ مبالغہ ہے یعنی غفار بمعنی ایسی ذات جو بہت ہی بخشش فرمانے والی ہے اور بخشش اور مغفرت اس سے بہت زیادہ وجود میں آتی ہے اور وہ گناہوں کو بہت ہی بخشتی ہے۔ غفور وہ ذات جس کی بخشش تمام وکامل ہو اور وہ بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اس

کی بخشش و مغفرت آخری درجے و مرتبے تک پہنچی ہوئی ہے۔ بعض نے کہا غفور وہ ذات ہے کہ جب بندے کے گناہوں میں سے کسی ایک قسم کے گناہ بخشے تو تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو بخش دے اور جبکہ غفر پوشیدہ کرنے کے معانی میں بھی آتا ہے۔ غافر کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی ذات جو بندوں کے اعمال ناموں میں گناہوں کو پوشیدہ رکھتی ہے اور غفور وہ ذات جو فرشتوں کے دلوں سے بھی بندوں کے گناہوں کے نشانات مٹا دیتی ہے اور پوشیدہ کر دیتی ہے تاکہ گناہوں کی ذلت پر پردہ پڑا رہے بلکہ گنہگار کے ذہن سے بھی اس کے گناہوں کو بھلا دے تاکہ گناہوں کو یاد کر کے شرمسار و خوار نہ ہوتا رہے۔

بخشش کیلئے یا غُفُورُ کا ورد بہت اکسیر ہے کیونکہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 2 بقرہ 199)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 2 بقرہ 226)

ترجمہ: پس بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 7 مائدہ 98)

ترجمہ: اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 10 انفال 69)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(پ 11 توبہ 99)

ترجمہ: اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا بے شک اللہ بخشنے والا

رحمت کرنے والا ہے۔

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پ (18 نور 62)

ترجمہ: اور ان کیلئے استغفار کریں بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ 26 حجرات 14)

ترجمہ: بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (پ 5 نساء 100)

ترجمہ: اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (پ 22 احزاب 59)

ترجمہ: اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ۝ (پ 22 احزاب 73)

ترجمہ: اور اللہ مؤمنین اور مؤمنات کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ غفور ہے

رحیم ہے۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّهُ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا (پ 18 فرقان 6)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے آسمانوں اور زمین کے اسرار جاننے والے

نے نازل فرمایا ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ (پ 20 قصص 16)

ترجمہ: التجا کی کہ اے میرے رب مجھ سے اپنی جان پر زیادتی ہوگئی پس

تو میری مغفرت کر دے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک وہ غفور

رحیم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (پ 24 زمر 53)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بلاشبہ وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ (پ 14 حجر 49)

ترجمہ: میرے بندوں کو مطلع کرو کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔

ثُمَّ تَابُوا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (پ 14 نحل 119)

ترجمہ: پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشش فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔

وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(پ 18 نور 33)

ترجمہ: اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کی مجبوری پر انہیں بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ 2 بقرہ 218)

ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ 10 انفال 70)

ترجمہ: اور اللہ غفور ہے رحیم ہے

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ 18 نور 22)

ترجمہ: اور معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ

تمہیں بخش دے اور اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 26 حجرات 5)

ترجمہ: اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم والا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ لا (پ 29 ملک 2)

ترجمہ: اسی نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ تم میں

سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور وہ غلبے والا بخشنے والا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

(پ 22 فاطر 28)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علم والے ہی خشیت رکھتے

ہیں بے شک اللہ عزیز ہے غفور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (پ 5 نساء 43)

ترجمہ: بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا

(پ 5 نساء 99)

ترجمہ: تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ درگزر

کرنے والا بخشنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ (پ 17 ج 60)

ترجمہ: بے شک اللہ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ط وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

(پ 28 مجادلہ 2)

ترجمہ: اور بے شک یہ لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بہت بری اور

جھوٹی بات ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ^{لا} (پ 30 بروج 14)

ترجمہ: اور وہ غفور ہے وود ہے۔

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ^ع (پ 4 آل عمران 155)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا بے شک اللہ بخشنے والا حلم

والا ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ^ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا

غَفُورًا^ا (پ 15 بنی اسرائیل 44)

ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اس کی تسبیح میں
مصروف ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح نہ کرتی
ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا^ه وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ^م بَعْدِهِ^ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا^ا

(پ 22 فاطر 41)

ترجمہ: بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اپنے مقام پر تھام رکھا ہے
تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں اور اگر وہ سرکنے لگیں تو اللہ تعالیٰ
کے بعد انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ حلیم ہے غفور ہے۔

لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

(پ 22 فاطر 30)

ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل میں سے کچھ
مزید اضافہ کر دے بے شک اللہ مغفرت کرنے والا قدر دان ہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ط إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ
شَكُورٌ ۝ (پ 22 فاطر 34)

ترجمہ: اور شکر کے طور پر کہیں گے تمام حمد اللہ کیلئے ہے جس نے ہمارے
غم کو ختم کر دیا بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا بڑا قدردان
ہے۔

وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

(پ 25 شوریٰ 23)

ترجمہ: اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیک عمل کو دلکش بنا دیں گے بے
شک اللہ غفور ہے قدردان ہے۔

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ط بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

(پ 22 سبأ 15)

ترجمہ: جہاں سے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کیسا پاکیزہ
شہر اور رب کی بخشش اہل سبأ کیلئے تھی۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط (پ 15 کہف 58)

ترجمہ: اور آپ کا رب بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔

الشُّكُورُ

يَا شَكُورُ (اے قدر کرنے والے)

اعداد: 256 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ شکور ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے کام کو قبول کر کے اس پر راضی
ہو جاتا ہے یعنی وہ شکور ہے کہ وہ اپنے بندے کو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ شکور

ہے کیونکہ شکر یہ کرنے والوں کا شکر یہ قبول فرماتا ہے اور اس لحاظ سے بھی شکور ہے کہ وہ ذرا سے عمل سے کثیر عطا کرنے والا ہے۔ تھوڑے سے شکر سے پر راضی ہو کر بے حد انعامات عنایت فرمانے والا ہے۔

شکر بمعنی کسی کی قدردانی کرنا اور اس کی صفت و ثنا کرنا کیونکہ اس نے اس پر انعام کیا ہوتا ہے۔ یہ معنی بندے کے خدا کے شکر گزار ہونے کا ہے شکر کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ثنا کر اور شکور کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ شکور کا معنی ہے تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا کرنے والا دنیوی زندگی کے چند گنے چنے ایام میں تھوڑے سے عمل پر آخرت کا عظیم ثواب دینے سے بڑھ کر اور کون سا ثواب بڑا ہو سکتا ہے۔

بعض نے کہا شکور کا معنی ہے فرمانبردار بندوں کی صفت و ثنا کرنے والا یہ معنی شکر کے معنی کے قریب ہے بعض نے کہا بطریق مشاکلت شکر کی جزا کو بھی شکر کہہ دیتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے تو گویا اس طرح وہ بندے کی طاعت و فرمانبرداری پر بندے کی صفت و ثنا فرماتا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اس کے شکر اور اس کی طاعت میں ہر لحاظ آگے بڑھتا رہے اور صدق و اخلاص سے کام لیتا رہے۔

شکور وہ ہے جو تھوڑی سی طاعات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور چند روز عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے اور جو کوئی نیکی کا کئی گنا عوض دے اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا اور جو کوئی محسن کی تعریف کرے اس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محسن کا شکر یہ ادا کیا۔

اگر عوض و جزا کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکور مطلق کوئی نہیں کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے اس کا شمار و حصر نہیں ہے۔ دیکھو

بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) یعنی ”خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، بعض ان عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کئے۔“ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے اور پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے تو اپنے ہی فعل کی تعریف کرتا ہے کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکور کہلا سکتا ہے جس کو کچھ ملے اور شکر کرے تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر یہ ادا کرے وہ تو شکور کہلانے ہی کا نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے وہ اس قسم کی ہے جیسے (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) ”اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں“ اور جیسے نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ یعنی کیا اچھے بندے تھے کہ بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے وغیرہ اور یہ تمام خدا کا عطیہ ہے۔

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

(پ 22 فاطر 30)

ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے کچھ مزید اضافہ کر دے بے شک اللہ مغفرت کرنے والا قدر دان ہے۔

قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ط إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

شَكُورٌ ۝ (پ 22 فاطر 34)

ترجمہ: اور شکر کے طور پر کہیں گے تمام حمد اللہ ہی کیلئے ہے جس نے ہمارے غم کو ختم کیا دیا بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا بڑا قدر دان

ہے۔

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ط قُلْ

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ (پ 25 شوریٰ 23)

ترجمہ: یہی وہ عطیہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ آپ فرمائیے کہ میں تم سے اس پر اپنے قرابت داروں کی محبت کے سوا کچھ صلہ نہیں مانگتا اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیک عمل کو دلکش بنا دیں گے بیشک اللہ بخشنے والا قدر کرنے والا ہے۔

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۝ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ (پ 28 تغابن 17)

ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دو تو وہ اس میں تمہارے لئے کئی گنا اضافہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدر دان ہے، حلم والا ہے۔

بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکر یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے احسان پر اس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے اور یہ بات اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ یعنی (جو بندوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر یہ کب ادا کرے گا۔)

خدا کے حق میں اس کا شکر بہر صورت مجاز اور تواضع کی قسم سے ہوگا کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکے گی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے۔

اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں

میں استعمال نہ کرے بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور رہنمائی کے ساتھ ہے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ خدائے تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر گزار رہے اور اس کا بھی شکر گزار رہے جو اس پر احسان کرے اور جہاں تک ہو سکے اچھائی کی شکل میں اس کا بدلہ دے اگر اس کا بدلہ اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس کیلئے دعا کرے اور کچھ نہیں تو یوں کہے ”جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا“

اس صفت کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی شکر یہ ادا کرنے والے ہوں اور وہ اپنے رب کے انعام و اکرام اور احسان کرنے پر اس کا شکر یہ ادا کریں۔ یہ صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ بیشتر لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے پکارے گا وہ صحیح معنوں میں شکر یہ ادا کرنے والے صالحین اور عابدین سے بن جائے گا۔

الْعَلِيُّ

يَا عَلِيُّ (اے بلند مرتبے والے)

اعداد: 110 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علو سے مشتق ہے جس کا مطلب بلند مرتبہ اور بزرگ کے ہیں کیونکہ حقیقت میں اسی کی ذات بلند و برتر ہے اور اعلیٰ ترین ہے وہ رتبے میں اتنا بلند ہے کہ دوسرا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر چیز اس کے مقام اور مرتبے سے پست ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے علی ہے کہ وہ سب سے غالب اور طاقتور ہے۔

اس کے علاوہ ارتقاع کا مرتبہ صرف اسے ہی حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اسے اس صفت سے پکارتا ہے اللہ اسے بھی بلند و برتر کر دیتا ہے اور اپنی مخلوق میں اسے بے پناہ بڑائی اور بزرگی عطا فرمادیتا ہے۔

وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (پ 3 بقرہ 255)

ترجمہ: اور ان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں اور وہ عالی شان ہے عظیم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (پ 5 نساء 34)

ترجمہ: بے شک اللہ بلند مرتبے والا ہے بڑائی والا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ

اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (پ 17 حج 62)

ترجمہ: یہی بات ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بلاشبہ اس کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے، بڑائی والا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (پ 21 لقمان 30)

ترجمہ: یہ اس کی شان ہے بے شک اللہ وہ ہے جو حق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی عالی مرتبہ سب سے بڑا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ

قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ (پ 22 سبأ 23)

ترجمہ: اور اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کیلئے جس

کیلئے وہ خود اجازت فرمائے۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ختم
 کر دی جائے گی تو کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس نے حق
 فرمایا ہے اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا
 فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝ (پ 24 مومن 12)

ترجمہ: یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب اللہ کو اکیلے میں پکارا جاتا ہے تو تم کفر
 کر دیتے تھے اور اگر کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے پس
 حاکمیت اللہ ہی کی ہے جو علی ہے کبیر ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

(پ 25 شوریٰ 4)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے وہی عالی مرتبہ عظمت
 والا ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِيًّا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ
 يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيْ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

(پ 25 شوریٰ 51)

ترجمہ: اور کسی آدمی کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے وحی کے سوا یا
 پردے کے پیچھے سے کلام کرے یا کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کے حکم سے
 کلام کرے بے شک وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔

وَ اِنَّهٗ فِيْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ (پ 25 زخرف 4)

ترجمہ: اور بلاشبہ یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے جو بلند و بالا
 حکمت آمیز ہے۔

علی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور اس کے مرتبہ سے تمام

مراتب نیچے ہوں اور یہ اس لئے کہ علی، علو سے مشتق ہے اور یہ اس علو (بلندی) سے ماخوذ ہے جو سفلی (پستی) کا مقابل ہے اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے۔ سیڑھیوں اور زینوں میں اور ان تمام اجسام میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو اس کو علو مکانی ہے اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبہ کا علو ہے اور عقلی درجات، حسنی درجات، درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے۔

چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو اور تیسری چوتھی کی اور مثلاً یہ دس درجوں تک چلا جائے تو دسویں شے آخری رتبے میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے۔

تدریج عقلی کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی روح سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ علی مطلق ہے اور جو اس کے سوا ہیں وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نسبت کرنے سے علی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں سافل اور گھٹیا ہیں۔

عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور مسبب پر منقسم ہیں۔ سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ ہیں منقسم ہے اور زندہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ

جن کو حسی ادراک کے ساتھ عقلی ادراک بھی حاصل ہے اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکدرات میں مبتلا ہوتا ممکن ہے لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے اور انسان حیوان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علی مطلق ہے کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں اور عوام کا درجہ ہے پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے اور ان کو آنکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں موازنہ محسوس ہوا تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے جن کو خواص نے سمجھ لیا اور عوام نے نہیں سمجھا۔ جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض طول و عرض کی روح سے اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی روح سے سمجھتے ہیں۔

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے کیونکہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقادیر کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے وہ رتبہ میں مستتب کے سبب اجسام کے اوپر ہے لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہوگا وہ سب

سے بالا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہوگا جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ گو آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھتا ہے واقعی ہنسی کے لائق ہے اور باہنمہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کس کس درجہ پر بیٹھتے ہیں تو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ بیٹھتا ہے جو اس کے سر پر بنی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہے گا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہو۔ اہی اس فوقیت سے مراد رتبہ کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدر مدارج مجلس کا منتہی ہوتا ہے جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے جو صدر سے دور ہے۔

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس ترتیب کی دو طرفیں ہوں اس میں بلا تعین ایک طرف کو فوق اور علو سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔

بندہ کا علی ہونا ممکن نہیں کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو اس کے اوپر کوئی درجہ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن وہ علو مطلق کے مقابلہ میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے۔ دوسرے وہ وجود اور واقع کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ بطریق و جوہر بلکہ یہ

امکان اس کے مقارن ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو۔
پس علی مطلق وہ ہے جس کو بحسب وجوب فوقیت حاصل ہونہ کہ بالا صاف اور
نہ کہ بحسب وجود جس کے ساتھ نقیض کا امکان مقارن ہو۔

یہ لفظ علو سے بنا ہے بمعنی بلندی اور کسی جگہ کا بلند ہونا اور بلندی پر آنا اور کسی
چیز کے اوپر ہونا پھر بلندی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حسی جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم پر
بلند ہونا اور ایک عقلی جیسے ایک چیز کا رتبے میں دوسری چیز سے بلند تر ہونا اللہ تعالیٰ ہی
تقدس مرتبے میں سب سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی رتبہ اس کے رتبے سے بلند نہیں
ہے۔ تمام مراتب اس کے مرتبے سے نیچے ہیں کیونکہ سبب اور علت مسبب اور معلول
سے بلند تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسبات اور معلولات کا سبب و علت ہے اور علیت
و فاعلیت کے تمام مراتب اس کی ذات پر ختم ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی چیز اس سے بالاتر
نہیں بلکہ وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ نیز موجودات دو قسم کی ہیں۔ ایک مردہ دوسری
زندہ۔ پھر زندہ چیزوں کی تقسیم اس طرح ہے کہ جس کا ادراک حس کی حد تک ہے وہ
حیوانات ہیں اور کچھ زندہ چیزیں ایسی ہیں جن میں ادراک حسی کے علاوہ ادراک عقلی
بھی ہوتا ہے۔ جن چیزوں میں ادراک عقلی پایا جاتا ہے وہ پھر آگے منقسم ہوتی ہیں۔
اس چیز کی طرف کہ اس کے معلومات کے بالمقابل ان میں شہوت و غضب بھی پائی
جاتی ہے۔ وہ انسان ہے اس کی دوسری قسم وہ ہے جو شہوت و غضب کے مقابلے سے
سالم و محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کی میل کچیل بھی نہیں ہے پھر جو چیزیں اس سے
سالم اور محفوظ ہیں وہ یا تو ممکن ہیں مگر ان میں شہوت و غضب کی ملاوٹ پائی جاتی
ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوت و غضب سے سلامتی عطا کر دی ہوتی ہے اور دوسری
وہ چیز ہے جس کے حق میں شہوت و غضب میں مبتلا ہونا یا شہوت و غضب کا اس میں
پایا جانا محال و ناممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پس اللہ تعالیٰ مرتبے میں سب
چیزوں سے بلند ہے کہ اس سے عالی تر اور کامل تر کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا اور عوام کی سمجھ

میں جو کہ حیوانات کے مرتبے میں ہیں حسی بلندی کے سوا اور کوئی بلندی نہیں اس کے برعکس خاصان حق جو بصیرتوں کے ادراک کی بدولت معنوی بلندی سے آگاہ ہوتے ہیں اور بلند مراتب کو حسی بلندی سے اوپر سمجھتے ہیں۔ عوام کے درجہ سے بالکل الگ ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر ہونے کا کیا معنی ہے کیونکہ عرش تمام اجسام سے اوپر ہے اور وہ موجود جو حد میں ہونے اور اجسام کی حدود کے اندازے سے بھی منزہ ہے اور ان کی مقاویر سے بھی اونچا ہے وہ تمام اجسام سے مرتبے میں بلند ہوگا۔ عرش سے تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اجسام سے اوپر ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے تو وہ سب سے اوپر ہوا۔ پھر علو کسی پر غلبہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے جیسا کہ فرمایا (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ) پس بندے کو چاہئے کہ قیاس عقلی اور ترتیب فطری کو اس کی ذات و صفات کی حقیقت کی جانب راستہ نہ دے اور معرفت کے راستے میں اس بات کو اپنے باطن سے نکال دے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بلکہ اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرے کیونکہ معرفت کا کمال بھی یہی ہے اپنی عقل کو اس کے امر حکم کے غلبے کے سامنے بالکل نیست و نابود کر دے۔ حکم کی بجا آوری اور سر تسلیم خم کرنے کے انداز میں اس کے سامنے آئے اس اسم سے موصوفہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ علم و عمل کی تحصیل میں اس قدر کوشش کرے کہ اپنے بنی نوع افراد سے کمالات میں فائق و بلند ہو جائے۔ مراتب و مقامات میں عروج حاصل کرے لیکن بندے کیلئے کامل بلندی ممکن نہیں کیونکہ اس کے اوپر اپنے اپنے درجات کے مطابق انبیاء کے درجات ہیں تمام درجات سے بلند تر درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اور مطلق اعلیٰ ذات خدائے تعالیٰ جَلَّ جَلَالُهُ و تعالیٰ شان کی ذات ہے۔ اس صفت سے متخلق ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے نفس و خواہش پر غالب رہے۔ اہل دنیا کی صحبت سے بلندی اور علیحدگی اختیار کرے۔ امر حق کے علاوہ کسی جانب بھی اپنی

ہمت نیچے نہ لائے۔ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص درگاہ حق کی جانب توجہ کرنے میں صادق ہو گیا اس کی ہیبت آسمان وزمین والوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔

الْكَبِيرُ

يَا كَبِيرُ (اے بزرگی والے)

اعداد: 232 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کبیر ہے یعنی سب سے بڑا ہے۔ اس کی ذات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے۔ ایسے اس کی صفات متعلقہ صفت میں اکمل اور کامل ہیں۔ اس لئے اس کے برابر کا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو وہی کبیر ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ کی ذات کبیر ہے۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (پ 15 نبی اسرائیل 43)

ترجمہ: وہ پاک ہے اور جو یہ کہتے ہیں اس سے بالا ہے اس کا مرتبہ عالی بڑی شان والا ہے۔

ذٰلِكَ بَانَ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ

وَاَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (پ 17 ج 62)

ترجمہ: یہی بات ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے اور بلاشبہ اس کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی سب سے اعلیٰ بڑائی والا ہے۔

ذٰلِكَ بَانَ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ الْبَاطِلُ لَا وَاَنَّ

اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ ع (پ 21 لقمان 30)

ترجمہ: یہ اس کی شان ہے بے شک اللہ وہ ہے جو حق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہے اور بے شک اللہ ہی عالی مرتب سب سے بڑا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ ۝ (پ 22 سب 23)

ترجمہ: اور اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کیلئے جس کیلئے وہ خود اجازت فرمائے جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ختم کر دی جائے گی تو تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس نے حق فرمایا ہے۔ وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔

ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ کبیر وہ ہے جو کبریائی کی تمام صفات سے متصف ہو۔ عزت، عظمت، قدرت اور ہیبت کا مالک ہو اور یہ صفت صرف خدا میں ہے، مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ کبریائی اللہ ہی کو زیب دیتی ہے کیونکہ اس کے حضور میں کوئی بھی اس کی رضا کے بغیر کچھ درجہ نہیں رکھ سکتا۔

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُونَ ۗ

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝ (پ 24 مومن 12)

ترجمہ: یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تو تم کفر کر دیتے اور کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے پس حاکمیت اللہ کی ہے جو بلند و بالا ہے کبیر ہے۔

یعنی بزرگ اور صاحب کبریا، کبریا کامل ذات سے عبارت ہے اور کمال سے کمال وجود مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال وجود دو چیزوں سے تعلق رکھتا ہے ایک دوام

وجود سے جب آدمی کے وجود کی مدت لمبی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ عمر والا ہو گیا۔ جب طویل الوجود کو کبیر یعنی بڑا کہتے ہیں تو وہ ہستی جو دائم الوجود ہو پھر ازلی و ابدی بھی ہو تو وہ اس اسم کے ساتھ موسوم ہونے کے زیادہ لائق اور مستحق ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وہ وجود ہے کہ اس سے سارے وجود سامنے آئے پس کبیر کا معنی ہوگا کامل الذات تام الوجود اور عظیم کا معنی ہوگا کامل الصفات رفیع القدر اور عالی مرتبہ۔

کبیر سے مراد صاحب کبریا اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے اور کمال ذات کے معنی کمال وجود اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں۔

پہلی بات اس کا ازلی و ابدی دوام ہے پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں وہ ناقص ہے اور اسی لئے جب کسی انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے تو اس کو کبیر کہتے ہیں جس سے مراد کبیر السن یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم السن نہیں کہتے۔ کبیر اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب وہ شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہے تو وہ ذات جو ازل سے ابد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے وہ تو بطریق اولیٰ کبیر ہے۔

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے پس جس شے کا وجود فی نفسہ مکمل ہو جب وہ کامل اور کبیر ہو تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو سب سے پہلے کامل اور کبیر ہے۔

بندوں میں سے کبیر وہ کامل شخص ہے جس کی صفات کمال صرف اس میں بند نہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے۔

بندہ کا کمال اس کی عقل، پرہیزگاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کبیر وہ عالم اور

پرہیزگار شخص ہے جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص صاحب علم ہو کر عمل بھی کرے وہ عالم بالا میں عظیم کہلاتا ہے۔“

الْحَفِیْظُ

يَا حَفِیْظُ (اے حفاظت کرنے والے)

اعداد: 998 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا یعنی ہر چیز کو برباد اور تباہ ہونے سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور اسے قائم و دوام رکھنے کا ذمہ بھی خود ہی لیا ہے اس لئے وہ اپنی ہر بنائی ہوئی چیز کا محافظ ہے۔ اس لحاظ سے وہ مخلوق کا حفیظ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ (پ 12 ہود 57)

ترجمہ: بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ (پ 22 سبأ 21)

ترجمہ: اور تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔

حفظ نگاہ میں رکھنا جو کچھ کہ عالم میں ہے اسے ہر طرح کی آفتوں اور ضائع ہونے سے بچانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ باقی رکھتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ایک دوسرے کی ضد اور دشمن ہیں جیسا کہ وہ عناصر کو چیزوں کی پیدائش میں نگاہ رکھتا ہے۔ وہ ان کی ایک خاص ترکیب اور خاص مزاج اور

قوتوں کو میانہ روی کی حالت میں رکھتا ہے۔ یونہی حیوانات کی حفاظت کرتا ہے وہ اس طرح کی حیوانات کی ذوات میں ان کی حفاظت کیلئے آلات و اعضاء پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سینگ دار میں اور پنچے وغیرہ جیسے اسلحہ و ہتھیار پھر وہ ان میں معرفت و ہدایت پیدا کر کے انہیں راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔ نیز حیوانات میں حواس پیدا کرتا ہے جو کہ جاسوس کے فرائض انجام دیتے ہیں اور اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ دشمن اور آفات اس کے قریب آرہی ہیں جیسے کہ آنکھیں اور کان وغیرہ اسی طرح ملکوت و آسمان و زمین کا ہر ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے حتیٰ کہ وہ گھاس جو زمین سے اگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مغز کو چھلکے کے ذریعے اور اس کی طراوت کو رطوبت اور بخارات کے ساتھ جو کہ اس سے اٹھتے ہیں، حفاظت کرتا ہے پھر کانٹا نباتات اور پودوں کا ہتھیار ہے جس طرح کہ سینگ کاٹنے والے دانت اور پنچے حیوانات کا ہتھیار ہیں۔ اسی طرح پانی کے ہر قطرے کے ساتھ حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ قطرہ ہوا کی شکل اختیار نہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اس عالم میں مذاہب اور دینوں کے اس قدر اختلافات کے باوجود ہمارے دلوں میں سچے دین کے بارے میں ذرا بھی کوئی خطرہ نہیں گزرتا نہ کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان کی گہرہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا شبہ پیدا ہوتا ہے بلکہ نور ایمان دل میں ثابت اور باقی رہتا ہے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر ثابت رکھ۔ حفظ بمعنی کسی چیز کو یاد کرنے کا بھی آتا ہے جو نسیان اور بھول جانے کی ضد ہے۔ اس معنی کے مطابق بھی حفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کیلئے درست ہے کیونکہ تمام چیزیں اس کے علم میں محفوظ ہیں اور سہو و نسیان کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا مٹ جانا بالکل ناممکن ہے۔

حفظ بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھنے ہی

سے سمجھ میں آسکتے ہیں اور حفظ دو طرح پر ہے۔

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں اعدام ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے۔

دوئم، جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضاد چیزوں کو ایک دوسرے سے بچانا ہے اور اس متعدی سے وہ متعدی مراد ہے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے کیونکہ وہ دونوں طبعاً ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے پر تعدی کرنے والے ہیں۔ یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یا آگ پانی کو بخارات کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے جو ایک دوسرے کو دباتی رہتی ہیں۔ اس طرح رطوبت اور یبوست میں جو مخالفت ہے ظاہر ہے اور تمام اجسام ارضی انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں کیونکہ جاندار کیلئے حرارت عزیز کی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو زندگی نہ رہے اور رطوبت بھی ضروری ہے، جو اس کے بدن کی غذا ہوتی ہے جیسے خون وغیرہ۔ اور یبوست لازم ہے جس کے ساتھ اس کے اعضاء منضبط اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ اجزا جو سخت ہیں جیسے ہڈی اور برودت بھی ضروری ہے جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ معتدل رہے اور باطنی رطوبتوں کو فوراً جلانے اور تحلیل کرنے نہ پائے۔

یہ چاروں ارکان باہم متعادی اور متنازع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے۔ اگر وہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھٹ جاتے اور ان کی باہمی ترکیب، امتزاج باطل ہو جاتا ہے اور وہ معنی باطل ہو جاتا جس کو ترکیب و مزاج کے ساتھ مربوط کرنے کیلئے وہ مستعد ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے پہلے تو تعدیل قوی سے اور پھر امداد مغلوب سے

کرتا ہے۔

تعدیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بارود کا درجہ قوت حار کے برابر ہے تاکہ جب وہ دونوں جمع ہوں تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں بلکہ ایک دوسری کی مدافعت کریں کیونکہ جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ کریں اور ان کے مقابلے اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے مراد اعتدال مزاج ہے۔

دوم، مغلوب کو اس چیز کے ساتھ امداد دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے غالب کا مقابلہ کرے مثلاً حرارت برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے پس جب وہ غالب آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے اور حرارت اور یوست غالب آتی ہیں اور ضعیف کی امداد سرد تر جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے اور وہ پانی ہے پیاس کا مطلب یہی ہے کہ تر تر چیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے سرور اشیاء برودت اور رطوبت کی مدد کیلئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے اور یہ امداد ہے اور یہ غذا دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام دیتے ہیں اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرمانے سے یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضاد اجزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کیلئے ہیں اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے جیسے خونخوار درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے جاسوس پیدا کئے ہیں جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں اور وہ اس کے مقدمہ لگیش ہیں، جیسے آنکھ کان وغیرہ۔ پھر اس کیلئے طاقتور ہاتھ اور اسلحہ عطا کئے ہیں جن میں سے بعض مدافعانہ کام دیتے ہیں جیسے زرہ اور ڈھال اور بعض جارحانہ جیسے تلوار، چھری، بندوق وغیرہ پھر بسا

اوقات انسان دفع آفت سے عاجز آجاتا ہے۔ اس کو آلہ گریز سے مدد دیتی ہے اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کیلئے پاؤں ہیں اور پرندے کیلئے بازو ہیں۔

اسی طرح خدائے جلّ قدرتہ کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر حاوی ہے۔ یہاں تک کہ میوے کے گودے کو سخت چھلکے اور پودے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ رہے اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا دفعیہ ہوتا رہے۔ پس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں جیسے حیوانات کے ہتھیار سینگ، پنچے اور کچلیاں ہیں بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت اسباب ہیں جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں۔

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے۔

اگر تم پانی کے کسی برتن میں انگلی ڈبو دو اور پھر اس کو نکال کر الٹی کرو تو اس سے ایک قطرہ نیچے کو ڈھلک جائے گا لیکن انگلی کے سرے پر آکر رہ جائے گا۔ انگلی سے جدا نہ ہوگا حالانکہ پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائے گا۔ اسی لئے وہ برابر جھکا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا ہے۔ ہوا اس کو اپنی جنس میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جبکہ وہ کمزور اور اس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہوتا ہے اور اس کو باقی تری کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے جو اس پر مامور ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مینہ کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قرار گاہ پر جا پہنچتی ہے۔

اور حق یہ ہے، ارباب بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ غرض اس حدیث پر نہ صرف تقلید کی رو سے یقین کرنا چاہئے بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے۔

خدا کا آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے۔

بندوں میں سے حفیظ وہ ہے جو اپنے اعضاء اور دل کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کو غضب کے حملے، شہوت کے فریب، نفس کے مکر، اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے اور ان بربادی بخش بہکانے والی چیزوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ احکام شرع کی حدود کی حفاظت کرے۔ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے اپنے دل کو غیر کے ذکر سے بچائے رکھے اور اپنے باطن کو ملاحظہ اغیار سے محفوظ رکھے۔ اپنے تمام حالات کو حد استقامت و اعتدال سے باہر نکلنے سے محفوظ رکھے اور بے بس و عاجز لوگوں کی دستگیری کرے۔ ان کی محافظت کرے۔ قرآن و حدیث کا حافظ بنے ان کے معانی و مطالب دل کے اندر بٹھائے۔

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ بندے کو وراثت میں بہت سا مال ملا۔ اس نے اس مال کو دیکھ کر عرض کیا یا الہی تو نے مجھے ان دراہم کا محتاج پیدا کیا ہے لیکن حضور قلب کے ساتھ اس دولت کی حفاظت میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے میرے دل میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اے میرے خدا تو ہی میرا حفیظ بن اور تو ہی مجھے اپنی نگاہ میں رکھ۔ اس بزرگ نے یہ کہہ کر سارا مال درویشوں اور مسکینوں

میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی خدائے
تعالیٰ غیب سے وہ چیز اسے عطا کر دیتا۔

جب بندے نے یہ جان لیا کہ میرا پروردگار میرا محافظ ہے تو اسے چاہنے کہ
تمام آفات اور ڈر کی چیزوں اور نفس و ہوا کے غلبے سے اس کی حفاظت اور حمایت کی
پناہ میں رہے۔

صوفیاء کے نزدیک انسان کی حفاظت دو طرح کی ہے۔ ایک ظاہر جسم کی
حفاظت اور دوسرے ایمان کی حفاظت۔ ان دونوں طرح کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کو
پورا پورا اختیار ہے چونکہ جو بندہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس
کے جسم اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور یہ چیز اسے ”یا حَفِیْظُ“ کہہ کر پکارنے سے
حاصل ہوتی ہے۔

الْمُقِیْتُ

یَا مُقِیْتُ (قوائے انسانی کو توانائی دینے والے)

اعداد: 550 ☆ تاثیر: جلالی

الْمُقِیْتُ ایک جامع لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا اصل مطلب ہر
جاندار کو نفع بخش غذا مہیا کرنا ہے یعنی ایسی خوراک فراہم کرنا جو جزو بدن بن کر
باعث نشوونما اور جان فزا بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی درحقیقت روزی رساں
ہے اور روزی پہنچانے میں نگہبان بھی ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی جس قسم کی بھی
مخلوقات ہیں اللہ اسے روزی دے کر ان کے جسم میں قوت اور توانائی پیدا کرتا ہے
جس سے ان کی جسمانی قوت برقرار رہتی ہے اور پھر انسانوں کیلئے ایسی خصوصیات

میں قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے روح میں قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہدایت زہد و تقویٰ اور علم وغیرہ۔ یہ تمام ایسی عبادات ہیں کہ جن سے انسانی روح میں توانائی پیدا ہوتی ہے اور وہ حق پر قائم رہتی ہے۔ المختصر اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے مقیت ہے کہ وہ ہمارے جسم میں توانائی پیدا فرماتا ہے اور پھر وہ اس لحاظ سے مقیت ہے کہ وہ ہماری روح میں تازگی پیدا کرتا ہے پھر وہ اس لحاظ سے مقیت ہے کہ وہ جمادات اور نباتات کو ان کی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے قوت دے کر ان کی نشوونما کرتا ہے۔

ایک اور قول کے مطابق مقیت یعنی روزی کا خالق اور ابدان تک ان کی خوراک پہنچانے والا ہے۔ یہ لفظ قوت سے بنا ہے۔ قوت دراصل اس خوراک کو کہتے ہیں جس سے انسان کا بدن قائم رہتا ہے۔ جیسے مختلف کھانے لفظ مقیت کا مصدر اوقات ہے بمعنی خوراک عطا کرنا، مذکورہ خوراک بدن سے تعلق رکھتی ہے اور روح کی خوراک معرفت ایمان ہے۔ لفظ مقیت بمعنی توانا، حفاظت کرنے والا اور گواہ و حاضر بھی آتا ہے۔ بعض اوقات مقیت بمعنی قادر اور عالم بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا (پ 5 نساء، 85)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

پس اسم مقیت علم و قدرت کے دونوں معنوں کا جامع ہے بندے کو چاہئے کہ تن اور جان کی روزی اور قوت اس سے چاہے اور اس کے علم پر اکتفا کرے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روزی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس زندہ ذات کا ذکر کرنا جو موت سے پاک ہے بعض حضرات اس طرح حکایت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی خوراک کیا ہے فرمایا اللہ لوگوں نے کہا ہم کھانے کی وہ مقدار دریافت کرتے ہیں جس کے بغیر چار نہیں۔ فرمایا اللہ کے بغیر چارہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ہم اس چیز کے بارے

میں پوچھتے ہیں جس سے لوگوں کے بدن اور جسم قائم ہیں۔ فرمایا تمام اجسام اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہنچانتے ہو۔

اس اسم سے تخلق کرنے والوں کو چاہئے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ غافلوں کو راہ ہدایت بتائیں۔ اپنے نفس کے حالات پر خبردار رہیں۔ نیز یہ کہ اپنے تمام اعضاء کی صحت و طاقت جملہ قویٰ کی بقا و قوت کیلئے سوال اسی مالک سے کریں اور التجا کریں۔ اے میرے رب میرے پروردگار میرے اعضاء، میرے حواس، میری خدمات، میری معلومات، میرے مشاہدات کو تو ہی اپنی رحمت و طاقت سے بڑھا۔

الْحَسِيبُ

يَا حَسِيبُ (اے حساب لینے والے)

اعداد: 80 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حساب لے گا یعنی جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس کے متعلق وہ پوری طرح باز پرس کرے گا۔ اس لئے اسے حسیب کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اپنی ساری مخلوق سے حساب لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی جو مال اس نے ہمیں دنیا میں دیا ہے اس کے متعلق ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے اس کے متعلق دریافت کرے گا کہ تو نے علم کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔

ایک اور قول کے مطابق حسیب بمعنی محاسب ہے یعنی حساب لینے والا اور

خدائے تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق سے حساب لے گا اور دنیا اور آخرت میں ان کے سانس تک گنے گا۔

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (پ 4 نساء 6)

ترجمہ: اور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (پ 5 نساء 86)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

اللَّهُ ط وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ (پ 22 احزاب 39)

ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔

ایک اور مقام پر حسیب کا لفظ حساب ہی کیلئے یوں بھی آیا ہے:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (پ 7 انعام 96)

ترجمہ: صبح نکالتا ہے اور رات کو آرام دیتا ہے۔ سورج اور چاند حساب

کیلئے ہیں۔ یہ مقرر شدہ اندازہ ہے وہ غالب ہے علم والا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کوئی مخلوق اس کے حساب سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ

ہر ایک کے ایمان عمل کا حساب لے گا۔

اس کہ علاوہ حسیب کافی کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی کفایت کرنے والا ہے

کیونکہ وہ بندوں کو چیزیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ ان کی دنیا اور آخرت میں کفایت

کر سکیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسیب سے مراد ہے کافی۔ جو

کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس کیلئے کافی ہو اور اللہ تعالیٰ سب کیلئے حسیب اور کافی ہے۔ اس وصف کی حقیقت خدا کے سوا اور کسی کیلئے متصور نہیں ہو سکتی کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو اس کی حاجت ہوگی تو اپنے وجود اور دوام وجود اور کمال وجود کیلئے ہوگی۔ اور خدا کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کیلئے کافی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کیلئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیاء کیلئے یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا وجود متحصل ہو اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ رہے اور اس کے ساتھ ان کا وجود مکمل ہو اور تم کو یہ ظن بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تمہیں کھانے، پینے کی اور زمین، آسمان اور سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے اور وہ تمہارے لئے کافی نہ تھا کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں اور یہ بھی خیال تک نہ کرو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے اور پرورش کرتی ہے اللہ اس کا حسیب اور کافی ہے بلکہ اللہ ہی اس کیلئے کافی ہے جس نے اس کی ماں کو پیدا کیا اور اس کے پستانوں میں دودھ بنایا اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔ یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسباب سے کفایت حاصل ہوئی ہے اور اللہ اکیلا بچے کیلئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے۔

اگر تم سے کہا جائے کہ اکیلی ماں بچے کیلئے کافی ہے تو تم فوراً ہاں میں ہاں ملا دو گے۔ اتنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اس کیلئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے اور جب دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کہو گے یہ کہ ہاں بچہ دودھ کا محتاج تو ہے مگر دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔ مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلا ہر

شخص کیلئے کافی ہے اور اس کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کیلئے کافی ہو بلکہ اشیاء ایک دوسری سے متعلق ہوتی ہیں اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ (اسماء الحسنیٰ)

کافی کیلئے حسیب کا لفظ قرآن مجید میں یوں استعمال ہوا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ^ع (پ 10 توبہ 59)

ترجمہ: اور کیا اچھا ہوتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے اس سے راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے۔ ہمیں عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول دے گا بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے مگر بطریق مجاز بعید اور بلحاظ سرسری نظر اور ظن عام کے مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے ہے لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کیلئے کافی ہے تو غیر کیلئے کب کافی ہو سکتا ہے۔

بندہ کا کافی ہونا خلق عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل بالکفایت ہے تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایسے محل کا محتاج ہے جو اس کے فعل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا جو محل علم ہے تاکہ وہ تعلیم میں کافی بن سکے۔ اور ایک معدہ چاہئے جو کھانا پہنچنے کی جگہ ہوتا ہے تاکہ وہ بدن میں کھانا پہنچانے کیلئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جن کا کوئی شمار نہیں ہے اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور خدا کا کافی ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالق فعل ہے اور خالق محل ہے اور شرائط

قبول کا خالق ہے۔

بندہ کا کافی کہلانا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بسا اوقات ایک فاعل پر نظر پڑتی ہے اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندے نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے کافی ہے تو چاہئے کہ اسی کو کافی جانے اور اسی کی تدبیر پر بھروسہ کرے اور تمام امور میں اسی پر توکل کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کیلئے کافی ہوتا ہے۔ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سانس بھی گن رہا ہے اور ایک ایک سانس کا حساب لے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا تو چاہئے کہ اپنے افعال ضابطے کے اندر رکھے۔ اپنے اموال کو ٹھیک کرے جب وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ شرف و کمال تو اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے تو اس پر اپنے نفس کی کمینگی اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات پر تکبر نہیں کرتا اور نہ اپنے افعال کو دیکھ کر خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ محتاج لوگوں کی حاجات کی کفایت کا ذریعہ بنے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس سے پہلے کہ اس کا حساب لیا جائے اور اپنے نفس کو معرفت و طاعت سے شریف اور نیک بنائے۔

لَجَلِيلُ

يَا جَلِيلُ (اے جلال و جمال والے)

اعداد: 73 ☆ تاثیر: جلالی

اللہ تعالیٰ کی شان اپنے ذاتی کمالات کی بنا پر جامع اور اکمل ہے اور اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل اور عظیم ہے۔ اس میں جمال اور جلال کی خوبیاں بیک وقت موجود ہیں۔ اس لئے اسے جلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنی صفت جلال کی بنا پر مخلوق کے افعال کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے اور صفت جمال کی بنا پر ان پر رحمت اور کرم کرتا ہے اور انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی مخلوق کو اس کے حضور میں دم مارنے کی جرأت نہیں۔ اگر کوئی اس کے حضور میں اکڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی گرفت میں آجاتا ہے۔ اس لئے اس کے جلال اور عظمت سے ڈرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور سختی کی بنا پر جلیل ہے۔

جلیل وہ ذات ہے جس کی شان بہت بلند و ارفع ہو اور جس کا حکم تمام مخلوق پر غالب ہو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور کوئی اس کے حکم پر غالب نہ ہو سکے اور ذات و صفات خداوندی اور افعال میں کوئی اس کا ثانی اور ہمسر نہ ہو اور عظمت و جلال کی تمام صفات اس میں پائی جاتی ہوں اور صفات عظمت و جلال سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ تمام موجودات سے بے نیاز، شہنشاہ مطلق ہر عیب اور نقص سے پاک اور تمام موجودات سے زیادہ علم و قدرت کا مالک ہو اور وہ تمام اوصاف جو اسماء حسنیٰ میں مذکور ہوئے اس میں کامل طور پر پائے جاتے ہوں اور یہ تمام صفات مجموعی طور پر بجز ذات خداوندی کے کسی میں جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ تمام عالم میں جو بھی کمال و خوبصورتی اور

حسن و جمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا ایک نور ہے کہ نور خداوندی کے اثر سے وہ چیز جلوہ گر ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی شے بھی جلوہ خداوندی سے خالی نظر نہیں آتی۔ وہ شے خود بخود جلوہ فرما نہیں ہے۔ نہ اس کا یہ جلوہ ذاتی ہے بلکہ وہ ایک جلوہ خداوندی کا پرتو ہے اور اسی کے جلوہ سے اس میں حسن و جمال پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو جمیل بھی کہا جاتا ہے۔

اسماء الحسنیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف اور جلال کی صفتیں ہیں۔ غنی، ملک، تقدس، علم، قدرت وغیرہ پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو۔

جلیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے گویا کبیر کا مطلب کمال ذات ہے اور جلیل کا کمال صفات ہے اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں۔ بایں ہیئت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی۔ صفات جلال جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں جو اس کو ادراک کرتی ہے تو ان کو جمال کہتے ہیں اور ان سے متصف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے۔

اسم جمیل اصل میں صورت ظاہری کیلئے موضوع ہے جو نظر سے محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ اس طرز کی ہو کر نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کیلئے منقول کیا گیا ہے جو بصیرت (عقلی نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے فلاں شخص سیرت جمیلہ رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے اور صورت نظر عقلی سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے۔ غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل، متناسب اور ان تمام کمالات کی جامع ہو جو اس کے لائق ہوں اور جیسی چاہئیں تو وہ صورت بصیرت باطنہ کیلئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے جس کے نظارے سے ایک ایسی لذت، لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبیح و

ملیح شکلوں کا نظارہ کرنے والے کو حاصل نہیں ہوتا۔

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے وہ اسی کی ذات کے انوار اور صفات کے آثار سے ہے اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہو اور اس کا کوئی ثانی وجود آیا امکاناً نہ ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا، اس قسم کی لذت اور سرور محسوس کرتا ہے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں بیچ ہیں بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطنہ کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب الحجۃ میں بیان کیا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کیلئے محبوب و معشوق ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں جیسے ظاہری دلپسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو آنکھیں رکھتے ہیں نہ کہ اندھوں کے نزدیک۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرع مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ جلال اور جلالت بمعنی بزرگی اور بزرگ درجے والا ہونا اللہ تعالیٰ جلیل مطلق ہے۔ جلال و کمال کی صفتوں کا جامع ہے۔ گروہ اولیاء کی اصطلاح میں صفات قہریہ کے آثار کے ظہور کو جلال، صفات لطیفہ کے آثار کے ظہور کو جمال کہتے ہیں۔

جمیل بھی اسماء حسنیٰ میں آیا ہے اگرچہ اس روایت میں مذکور نہیں ہے۔ لفظ جمیل دراصل اس خوبصورتی کیلئے وضع کیا گیا ہے جو ظاہری صورتوں میں پائی جاتی ہے اور آنکھ سے محسوس ہوتی ہے جس کا حسن بڑا نمکین اور آنکھ کو بڑا پسند آتا ہو اور دل کے بہت موافق ہو۔ اصل میں جمیل کا معنی یہ ہے جو بیان ہو اس کے بعد اس لفظ کا استعمال باطنی صورتوں کی خوبصورتی کیلئے ہونے لگا جو بصیرت سے محسوس ہوتی ہے۔

چنانچہ کہتے ہیں سیرت جمیل و خلق جمیل اور جمیل مطلق صرف اس کی ذات ہے جس طرح جلیل مطلق بھی وہی ہے کیونکہ عالم میں جس جگہ بھی کوئی حسن یا جمال یا کمال یا جلال پایا جاتا ہے اسی کی تو وہ صرف اس کی تعظیم کرتا اور صرف اسی کو دوست رکھتا ہے۔ بزرگی میں اس کی قدر کو سب سے ارفع جانتا ہے اور اپنے وجود مجازی میں اسی کے انوار جلال و جمال اور اس کی عظمت اور کبریائی کو اپنا ورد زبان بناتا ہے اور اس کے آگے درست دعا و راز کرتا ہے۔ اس کے آگے مطلق نیست بن جاتا ہے تاکہ اس میں ہست مطلق ظہور پذیر ہو جائے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

اخر جنی عن وطنی
وان بد اغیبی

شرقنی و غربنی
اذ اغیبت بدا

ترجمہ:

(1) مجھے وہ مشرق کی جانب لے گیا اور مغرب کی جانب لے گیا حتیٰ کہ مجھے اپنے وطن سے ہی نکال کر لے گیا۔

(2) جب میں غائب ہو گیا تو وہ ظاہر ہو گیا اور اگر وہ ظاہر ہوا تو مجھے غائب کر دیا۔
گم شدم در گم شدن دین منست
تو درو گم شو کہ تجرید ایس بود
نیستی از ہستی آئین منست !
گم شدن گم کن کہ تفرید ایس بود

ترجمہ:

(1) گم ہونے میں گم ہو جانا میرا دین ہے، ہست سے نیست ہو جانا میرا دستور ہے۔
(2) تو اس میں گم ہو جا کہ تجرید یہ ہے۔ گم ہونے کو بھی گم کر دے کیونکہ تفرید یہ ہے۔
اس صفت سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو صفات کمال سے آراستہ کرے اپنی صفات باطنہ کو نیک کرے اخلاق زمیمہ کو مہذب بنائے تاکہ خود بھی جلیل و جمیل بن جائے اور خدا و مخلوق سب اس سے دوستی کرنے لگیں۔

الْكَرِيمُ

يَا كَرِيمُ (بے انتہا عطا کرنے والا)

اعداد: 270 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے۔ مانگنے سے بھی دیتا ہے اور بلا مانگے بھی دیتا ہے۔ ہر کسی کو دیتا ہے۔ ہر وقت دیتا ہے۔ کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرپور ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔

کریم کا لفظ کرم سے ہے کرم کا مطلب عظمت، شرف، عزت اور جو دوسخا کے ہیں۔ سعادت دارین میں ہے کہ کریم کا مطلب ہے وہ ذات جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ وعدہ پورا کرے اور دیتے وقت امید سے بڑھ کر دے۔ یہ پروا نہ کرے کہ کتنا دیدہ کسے دیا حساب نہ کرے۔ یہ پسند نہ کرے کہ حاجت مند اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جائے۔ پس کریم مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ لَا (پ 30 انفطار 6)

ترجمہ: اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے

میں ڈال رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اس نے کریم طبع رسول کو بھیجا۔

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ^۱ (پ 25 دخان 17)

ترجمہ: اور ان کے پاس ہمارے کریم رسول موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔

اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی کریم ہے کہ وہ اجر کریم عطا فرمائے گا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(پ 27 حدید 11)

ترجمہ: کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے پس اللہ اس کیلئے اسے بڑھا دے اور اس کیلئے اجر کریم بھی ہے۔

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (پ 27 حدید 18)

ترجمہ: بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ان کیلئے کئی گنا اضافہ ہے اور ان کیلئے اجر کریم بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اس نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ^۱ لَفِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ^۲ (پ 27 واقعہ 77-78)

بے شک یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون میں موجود ہے۔

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ^۱ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

(پ 19 نمل 40)

ترجمہ: اور جس نے شکر کیا پس اس نے اپنے لئے شکر کیا اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ جواد مطلق یعنی کریم

اور غنی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کریم، وہ ہے کہ جب قدرت پائے، تو معاف کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دکھائے اور جب دینے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کی جائے تو اس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے التجا کرے اس کو یوں ہی نہ ٹالے بلکہ ان کو وسیلوں اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ مچ جمع ہوں، بناوٹی نہ ہوں وہ کریم ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ کریم وہ ذات ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو اس سے درگزر کرے جب وعدہ کرے تو پورا کرے اور جب کسی کو عطا کرے تو امید سے زیادہ دے اور اس کی پروا بھی نہ کرے کہ کتنا دیا ہے اور کسے دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر اور سے حاجت کا طلب گار ہو تو وہ ناراض ہوتا ہو اور جب کوئی اس کی نافرمانی کرے تو عتاب کرے اور جو اس سے التجا کرے اور اس کی درگاہ میں گڑگڑائے تو اسے ضائع نہ ہونے دے اور تمام وسیلوں اور سفارشوں سے مخلوق کو بے پروا کر دے اور ہر ایک اس کا قرب حاصل کر سکتا ہو۔ ابن عطا فرماتے ہیں جو مخلوق کو اس کی آرزوؤں سے ناامید نہ کرتا ہو اور مجموعی طور پر یہ صفات بجز ذات خداوندی کے کسی میں نہیں پائی جاتیں۔

منقول ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لے گا۔ یہ سن کر اعرابی خوش ہوا اس کے منہ پر تبسم بکھر گیا۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے تبسم کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ کریم جب عیب دیکھتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے۔ جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ شکر و

کرم عفو درگزر اور جود و سخاوت کو اپنا دستور بنائے اور ذول میں ایسے کریم کی محبت و دوستی کو بٹھائے۔ اس اسم سے متصف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان صفات کے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان صفات کے ساتھ متصف ہونے کیلئے زور لگائے تاکہ اسے بھی ان صفات میں سے کچھ یا زیادہ حاصل ہو جائے۔ اس طور پر جو اس کے حال کے لائق ہے۔ ان صفات سے باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام متصف ہوتے ہیں اور سید الانبیاء علیہ من الصلوٰات افضلہا ومن التحیات اکملہا سب سے کامل تر و کریم تر ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہیں پھر آپ کی امت کے اولیاء و علماء اپنے اپنے درجات و مراتب کے مطابق اہل کرم ہیں۔ (اشعۃ اللمعات مترجم جلد سوم)

حضرت امام غزالی کا فرمان ہے کہ ان صفات سے مزین ہونے کا فخر کبھی کبھی بندہ بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن صرف بعض امور میں اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی وہ کریم کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے لیکن کریم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”انگور کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے۔“

کہتے ہیں کہ انگور کی بیل کو کرم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے پھل والا درخت ہے جس کا پھل قریب ہی سے با آسانی ہاتھ آجاتا ہے، نہ کانٹے ہیں اور نہ کوئی اور آزار رساں چیز ہے بخلاف کھجور کے۔

شمس المعارف میں ہے کہ کریم وہ ذات ذوالہمنن ہے جو قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتی ہے اور وعدہ کو وفا کرتا ہے اور اتنا دیتی ہے کہ غنی کر دیتی ہے۔ یہ امور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فعل تکریم سے پہلے کرم رب العالمین ہے جو ایک نعمت اور اس کی ایجاد ہے جس سے روح کا امتداد میثاق گری اور عالم کو عدم سے وجود میں لانا

ہے اور دوسرا کرم عقل سے مقید کرنا ہے پھر اور کرم نبیوں کی دعوت اور حکمت کا ظہور ہے جو ہمارے دلوں میں ودیعت کی جس طرح ہم سب مسلمان ایمان لائے۔ اگر اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم ایمان لاسکتے۔ یہ اس کا بے حد کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کفار اس کے غیر کی پرستش کرتے اور اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا ہم پر اس کا خصوصی کرم ہے کہ ہمیں ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اور ایک بدی کرنے پر ایک ہی بدی کا گناہ دیتا ہے۔ جب گنہگار اس کی طرف رجوع ہو کر توبہ کرتا ہے تو کریم اس کی جملہ برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے کریم بہت آپ کے کرم ہم پر۔

بعض کتب نازل شدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندہ نے انصاف نہیں کیا۔ مجھے اس پر عذاب کرتے شرم آتی ہے لیکن وہ میری نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا۔

ایک بزرگ عارف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک بہت ہی حقیر چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تجھ سے ایسی حقیر حقیر چیز کا سوال کروں لیکن تیرے سوا کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے حکم ہوا مجھ ہی سے مانگو۔ اگرچہ آٹے کیلئے نمک اور بکری کیلئے چارہ کی ہی حاجت ہو۔ اس اسم کے دوامی ذاکر کی اللہ حفاظت کرتا اور ابواب رزق مفتوح کرتا ہے۔

الرَّقِيبُ

يَا رَقِيبُ (اے نگہبان) ☆ اعداد: 312 - تاثیر: جمالی

حفاظت کی غرض سے نگہبانی اور نگرانی کرنے والے کو رقیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رقیب ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کی ہر چیز کا نگہبان اور محافظ ہے۔ ہر ادنیٰ اور

پوشیدہ چیز کی نگہبانی کرتا ہے۔ کوئی چیز کسی وقت بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (پ 4 نساء 1)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور افعال کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہی بات ایک اور مقام پر یوں بیان ہوئی ہے:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(پ 7 مائدہ 117)

ترجمہ: میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا نگران ہے اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔

یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری امت کے کاموں کا اصل نگران تو ہی ہے۔

ایک اور آیت میں یوں بیان ہوا ہے کہ:

وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ
رَقِيبٌ ۝ (پ 12 ہود 93)

ترجمہ: اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کئے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت

کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو۔ بے شک میں تمہارا نگران ہوں۔

اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ تمہارے ایمان کا اصل نگران اللہ تعالیٰ ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (پ 22 احزاب 52)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کو جانتی ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے اور اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں۔ اس لئے اسے رقیب کہا جاتا ہے۔ اس لے رقیب، علیم اور حفیظ کا مجموعہ ہے۔ جو شخص اس اسم کی مداومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس کی نگہبانی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

رقیب کے معنی علیم و حفیظ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو اور اس پر لازمی اور ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم میں علم اور حفظ داخل ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و دائم ہیں اور اس شے سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے۔

صراح میں ہے رقیب بمعنی نگہبان و نگاہ میں رکھنے والا کام بنانے والا علامہ طیبی نے کہا رقیب بمعنی حفیظ ہے کہ تمام اشیاء کی نگہبانی کرتا اور ہر ایک شے کا ملاحظہ کرتا ہے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار چیز بھی اس سے غائب نہیں۔

رقابت میں مبالغے کا مفہوم بھی ہے یعنی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا اس اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔ بندے کے اس صفت سے متعلق اور محقق ہونے کی وجہ ظاہر ہے یعنی بندہ اپنی نگہبانی کرے اپنے آپ کو نفسی و قلبی عوارض یعنی

فریب و زبردستی وغیرہ سے بچائے۔ ہمیشہ حق تعالیٰ کی نگاہ میں با ادب رہے اور نامناسب امور سے پوری طرح پرہیز کرے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر ظاہری اور باطنی حال پر رقیب و گواہ ہے اور اس بات کی فکر میں رہے کہ نفس و شیطان تاک میں بیٹھے ہیں۔ فرصت کی تلاش میں ہیں اور مجھے غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ جب میں غافل ہو جاؤں تو اپنا کام کر دیں اور اپنے غصے کا نشانہ بنائیں تو بندے کو چاہئے کہ ان سے ہمیشہ محتاط رہے۔ ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہے اور دل میں ان کے آنے کے راستے بند کر دے مراقبے کا یہی معنی ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ کیلئے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے جبکہ وہ خدا کیلئے اور اپنے دل کیلئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر امر میں اس کا قریب اور شاہد ہے اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظار میں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کریں۔ لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں، مکر و اور جست کرنے کے موقعوں کو تاڑتا رہے حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کر دے۔ یہ مراقبہ ہے۔

حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رقیب وہ محافظ حقیقی ہے جو پوشیدہ اور ادنیٰ چیز کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ دائم الوجود ہے۔ زمانہ اور مکان اسے محدود نہیں کر سکتے۔ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باری تعالیٰ نے آسمانی مخلوق پیدا کر کے ان میں فنا کے رقیب کو توحید میں عطا کیا اور ان کو بزرخ کی طرح منتقل کیا یہاں بھی ان پر رقیب مقرر کیا پھر ان کو عالم فطرت میں لا کر امانت کو ان پر رقیب کیا پھر حشر کی طرف لے جا کر وہاں تجلی کو ان پر رقیب کیا فرماتا ہے (إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) اسی کی طرف سب کام واپس جاتے ہیں۔

الْمُجِيبُ

يَا مُجِيبُ (دعائیں قبول فرمانے والا)

اعداد: 55 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اس لئے اسے مجیب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ طَاءَ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ط قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ط

(پ 20 نمل 62)

ترجمہ: بھلا کون ہے جو بے قراری کی دعا سنتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے بہت تھوڑے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا کہ:

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَا فَلَيسْتَ جِيبُوا إِلَيَّ وَلِيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (پ 2 بقرہ 186)

ترجمہ: جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں پس میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔

سورت ہود کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت مجیب کا لفظ یوں بیان ہوا ہے:

وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَیْرُهٗ ۗ هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ ۗ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝ (پ 12 ہود 61)

ترجمہ: اور ثمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح آئے۔ کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور زمین پر آباد کیا۔ پس استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب قریب ہے۔ مجیب ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ مجیب ہے کہ وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدارک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ دکھیوں کی صدا کو سن کر ان کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ جب کوئی پریشان حال اسے مدد کیلئے بلاتا ہے تو وہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اس کی بھی سنتا ہے کہ جو اسے مانتا ہے اور اس کی بھی سنتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ اس لئے میرے دوست! پہلے اسے مجیب کہہ کر پکار پھر اس کے حضور اپنے دل کی التجا کر ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

سعادت دارین میں لکھا ہے کہ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہو۔ منع کرے تو باز آ جائے بلائے تو حاضر ہو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ قدرت سے ہر سائل کو عطا کرنے کی عادت اختیار کر لے۔ اگر اختیار نہیں تو لطف و کرم سے جواب دے۔ کتنے ہی متکبر کمینے ہر ہدایت قبول کرنے سے گریزاں رہتے اور کوئی دعوت دی جائے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اپنی شان و بڑائی کی حفاظت کرتے اور دعوت

دینے والے سائل کے دل کی پرواہ نہیں کرتے اگر ان اسباب پر غور کرے اور اس اسم مبارک کو دیکھے تو پتہ چلے۔

معارف الاسماء میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو نافرمانی اور سرکشی سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب و مجیب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور جو احکام الہی کو فراخ دلی اور استحکام سے قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجیب ہونا ان پر سراسر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس اسم پاک سے تخلق حاصل کرنے والوں کیلئے لازم ہے کہ جب بھی موقع ملے دل کھول کر یا ہاتھ اٹھا کر پوری توجہ، پوری رغبت اور پورے یقین قبولیت سے دعا کیا کریں۔ نامنظوری یا عدم قبولیت کا وہم بھی دل میں نہ آنے دیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مجیب کا لفظ اجابت سے بنا ہے بمعنی جواب دینا۔ اجابت کا معنی دعا کرنے کا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے جو بھی اسے پکارتا ہے وہ ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہر سوال پر عطا فرمانے والا اور وہی پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے جبکہ وہ قال اور حال کی زبان سے دعا کرتا ہے بلکہ دعا کرنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول فرمانے والا اور طلب کرنے سے پہلے انہیں عطا کر نیوالا، اجابت میں یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق کی دعائیں سنتا اور ان کی حاجتوں کیلئے کافی ہوتا ہے جو اس نے بندوں کے کاموں کی تدبیر کیلئے تدبیریں کر دی ہیں ان کی پیدائش سے پہلے وہ اس طرح کہ اس نے اسباب پیدا کر دیئے ان کے رزق کے انتظامات کئے زمین و آسمان میں ایسے آلات پیدا فرمائے جن سے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو بندے کیلئے چاہئے کہ امر و نہی میں حق تعالیٰ کی دعوت قبول کرے۔ بندوں کی حاجات کے پورا کرنے میں کوشش کرے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرے اگر عاجز اور بے بس ہو تو نرمی اور نرم بات سے ان کو جواب دے ان کی باتیں سننے ان کی طرف سے ہدیہ قبول کرے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجیب وہ ہے جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت مہیا کرے بلکہ التجا سے پہلے انعام دے اور دعا سے پیشتر بخشش کرے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہی حاجت مندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جانتا ہے بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کیلئے کھانے اور غذائیں بنائی ہیں۔ اور تمام کے امور کیلئے اسباب و آلات میسر کر دیئے۔

بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کیلئے مجیب بنے۔ پھر بندوں کیلئے مجیب بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھر سائل کی مدد کرے یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو تو نرمی سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ** (اور سائل کو نہ جھڑکنا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لَوْ دُعِيتُ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَتُ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ** یعنی ”اگر بکری کے پائے پکا کر بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے ہدیہ میں دی جائے تو میں بخوشی لے لوں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لے جانا اور ہدیئے قبول فرمانا محض دلداری کی غرض سے تھا۔ بعض لوگ جو ہر قسم کے ہدیئے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس اسم کے معنی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدمست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

الْوَاسِعُ

يَا وَاسِعُ (اے وسعت دینے والے)

اعداد: 137 ☆ خاصیت: جہالی

واسع کا مطلب وسعت اور کشادگی والا ہے چونکہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں اس لئے اسے واسع کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا علم وسیع ہے۔ اس کی بادشاہت لامحدود ہے اس کے غنا کی کوئی حد نہیں۔ اس کی ذات کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کی حکومت لازوال ہے۔ اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں۔ اس کے انعام و اکرام لا تعداد ہیں۔ اس کا احسان سب احسانوں سے عظیم ہے۔ اس کی عطا ہر ایک کیلئے یکساں ہے۔ اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا غلبہ سب پر غالب ہے۔ وہ اپنے حسن و جمال میں یکتا ہے۔ وہ اپنے جلال میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی بزرگی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ اپنے کمالات قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ اپنے نور میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے بے پناہ وسعت کا حامل ہے۔ اسی لئے وہ اپنی اس صفت کی بنا پر ”یا وَّاسِعُ“ کہلاتا ہے۔

قرآن مجید میں اس کی وسعت کے بارے میں حسب ذیل آیات ہیں، اللہ

تعالیٰ علمی لحاظ سے بڑی وسعت والا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (پ 1 بقرہ 115)

ترجمہ: اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں پس تم جس طرف بھی منہ کرو

گے تو اسی طرف اللہ متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (پ 2 بقرہ 261)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ واسع ہے علم والا ہے۔

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(پ 3 آل عمران 73)

ترجمہ: آپ فرمادیتے ہیں کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا

ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ واسع، سعة (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے جبکہ علم وسیع ہو اور صاحب علم معلومات کثیرہ پر حاوی ہو اور کبھی احسان اور عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرو اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اگر اس کے علم کو لو تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ بلکہ اس کے کلمات لکھنے کیلئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے تو اس کی مقدورات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر وسعت تو کیسی ہی بڑی ہو وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچیں گی اور جو ذات کسی طرف بھی اختتام پذیر نہیں ہے وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حقدار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے اور جو وسعت نہ کسی طرف پر منتهی ہو جائے ممکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو اور نہ کوئی طرف ہو اس سے زیادہ وسعت تصور ہی میں نہیں آ سکتی۔

شیخ عبدالحق کا کہنا ہے کہ یہ لفظ وسعت سے بنا ہے بمعنی فراخی و فراخ کرنا اور سب کو پہنانا اس فراخی کی نسبت علم کی طرف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس

کا علم تمام معلومات کو وسیع و محیط ہے۔ احسان کی طرف بھی اس کی نسبت کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اس کا احسان وسیع ہے اور اس کی نعمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے پھر اس کی نسبت قدرت، ملک و غنا کی طرف بھی کرتے ہیں۔ ان تمام صفات میں واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جو کہتے ہیں سعت بمعنی دولت مندی و توانائی و دسترس بھی آتا ہے تو وہ اسی تعلق کی بنا پر آتا ہے اور بندے کے ذمے لازم ہے کہ جب اس نے خدا کو پہچان لیا اور اس کے علم قدرت ملک اور بے نیازی کو بھی جان لیا کہ جہالت بے بسی، فقر اور محتاجی کی تنگی میں نہ پڑا رہے بلکہ بے نیاز ہو جائے اور تمام کاموں میں اسی کے حضور التجا کرے اور تنگی کے وقت اسی سے پناہ چاہے اس اسم سے متعلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ علوم و معارف میں وسعت پیدا کرے۔ اخلاق جو دو سخاوت اختیار کرے۔ سینے کو کشادہ کرے دل کو فراخ کرے اس پر جو حوادث بھی نازل ہوں اور جوازیت بھی پہنچے اس سے دل تنگ نہ ہو اور کوئی چیز کسی سے ہٹا کر نہ رکھے۔ سب کے ساتھ ہر لحاظ سے کشادہ رور ہے۔

بندے کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوئے تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے حتیٰ کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگدل کر سکے نہ حاسد کا غصہ اور نہ حرص کا غلبہ تو وہ بھی واسع ہے مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

الْحَكِيمُ

يَا حَكِيمُ (اے حکمت والے) ☆ اعداد: 78 - تاثیر: جمالی

حکیم وہ ہوتا ہے جس کے حکم میں سراسر حکمت ہو۔ اعمال میں افضلیت ہو۔ اس لئے اللہ کا ہر حکم جو وہ اپنی مخلوق کیلئے جاری کرتا ہے اس میں سراسر مخلوق کی بھلائی

مقصود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے لیکن ان میں انسانی بہتری کیلئے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل اور فکر محدود ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو نہیں سمجھ سکتا مگر اس کے باوجود جسے اللہ تعالیٰ کسی حد تک علم کی باریکی عطا فرماتا ہے وہ حکیم کہلواتا ہے۔ مگر انسان کی حکومت ایک حد تک محدود ہوتی ہے۔ اس لئے انسان اپنی حکمت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کے عطا کرنے میں محتاج نہیں۔ انسانی حکمت زوال پذیر ہے لیکن اللہ کی حکمت کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے دنیا میں دوسروں سے برتر و بلند کر دیتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکیم کے معنی صاحب حکمت اور حکمت سے مراد ہے افضل چیز کو افضل علم سے جاننا اور تمام اشیاء سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا وہ حقیقی حکیم ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کو افضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے اور افضل عیم وہی ہے جو ازلی و دائم ہو اور اس کا زوال متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے۔

اس شخص کو بھی حکیم کہہ دیا کرتے ہیں جو عجیب عجیب صنعتی اشیاء بنائے اور ان کی بناوٹ میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کیلئے ہے لہذا وہ حکیم مطلق ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی نے فرمایا ہے کہ حکیم، حکمت سے بنا ہے۔ حکمت کمال علم اور حسن عمل، ایقان اور علم و عمل کے احکام سے عبارت ہے۔ علم محکم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ پس یہ لفظ احکام کے اضافے کے ساتھ علیم کے معنی میں آتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں حکیم حاکم کا مبالغہ ہے اور حکیم اسے کہتے ہیں جو حقائق اشیاء کا عالم ہو اور جو مصنوعات کی باریکیوں کو بہتر طور پر جانتا ہو اور کسی چیز کے بنانے میں بہت محکم اور

پائیدار ہو ان تمام معنی میں کمال صرف خدائے تعالیٰ کی ذات پاک کیلئے ہے۔ چنانچہ وہ جو کام بھی کرتا ہے بہ تقاضائے حکمت کرتا ہے اور دانش اور بینش سے کرتا ہے وہ اپنے کاموں میں سستی و کمزوری سے منزہ و مبرا ہے۔ وہ اسرار کے حقائق و دقائق کو جاننے والا ہے اور جو شخص جان لیتا ہے کہ پروردگار تعالیٰ حکیم ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے حکم سے راضی ہو اور اس بات کو جانے کہ ہر بات میں اس نے بہت اعلیٰ اعلیٰ حکمتیں رکھی ہیں۔ اگرچہ ظاہراً معلوم نہیں ہوتیں تو اسے چاہئے کہ کسی بات پر اعتراض نہ کرے نہ غصہ کرے اور یہ جانے کہ وہ فاعل مختار اور حاکم علی الاطلاق ہے۔ قرآن مجید میں حکیم کا لفظ بعض مقامات پر دوسری صفات کے ساتھ مل کر آیا

ہے۔ اسمِ علیم کے ساتھ یوں بیان ہوا ہے:

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (پ 8 انعام 128)

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (پ 8 انعام 139)

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ع (پ 14 حجر 25)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 5 نساء 26)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 10 انفال 71)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 10 توبہ 60)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 11 توبہ 97)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 18 نور 18)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 18 نور 59)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 26 حجرات 8)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (پ 10 توبہ 28)

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ع (پ 12 یوسف 6)

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 4 نساء 17)

- وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 5 نساء 111)
- وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 6 نساء 170)
- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 4 نساء 11)
- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 5 نساء 24)
- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (پ 29 دهر 30)
- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (پ 1 بقره 32)
- إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (پ 13 يوسف 83)
- وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (پ 25 زخرف 84)
- إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (پ 26 ذریت 30)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 20 عنكبوت 42)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 21 روم 27)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 22 فاطر 2)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 25 جاثیه 37)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 27 حدید 1)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 28 حشر 1)
- وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 28 الصف 1)
- هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 28 جمعه 3)
- إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 20 عنكبوت 26)
- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 3 آل عمران 62)
- بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 22 سبا 27)
- اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 25 شوری 3)
- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 2 بقره 240)

- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (پ 2 بقره 228)
- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 6 مائده 38)
- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 10 انفال 67)
- أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 2 بقره 209)
- إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 2 بقره 220)
- إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 10 توبه 76)
- إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 21 لقمان 27)
- فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 10 انفال 49)
- وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 3 بقره 260)
- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 1 بقره 125)
- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 1 بقره 129)
- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ (پ 24 مومن 8)
- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 28 ممتحنه 5)
- فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 7 مائده 118)
- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ (پ 3 آل عمران 18)
- وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (پ 6 نساء 165)
- وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (پ 26 فتح 17)
- وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (پ 26 فتح 19)
- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 23 زمر 1)
- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (پ 26 احقاف 2)
- وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۙ (پ 4 آل عمران 126)
- وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (پ 5 نساء 130)
- إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (پ 25 شوری 51)

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (پ 7 انعام 18 پ 22 سبا 1)

الرَّفْدُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

(پ 11 ہود 1)

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم السجدة: ۲۲)

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمام اشیاء کو جانتا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل شے کو نہیں جانتا اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ افضل علم ہے اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے جس کی نسبت علم ہو اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے وہ حکیم ہے گو باقی تمام مروجہ علوم سے بے بہرہ ہو اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب خیر ہے (وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) یعنی جس شخص کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی۔

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور گھٹیا باتوں میں بہت کم غور و خوض کرتا ہے بلکہ اس کا ہر کلام مجمل اور کلی اور معنی خیز ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کلیہ کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔

اس اسم سے متخلق ہونے کی صورت یہ ہے کہ قوت نظریہ کی تکمیل اور قوت عملیہ

کی تحسین میں پوری پوری کوشش کرے اور ان علوم و فنون کو اچھی طرح جانے جو اس کے نفس کی تکمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اسم کے مطابق بندے کو یہ بھی چاہئے کہ بے وقوفی اور لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ کوئی بھی کام حقانی اشارے اور ربانی تقاضے کے بغیر نہ کرے تاکہ اسم الحکیم کے اطلاق کا مستحق بنے۔

حضرت ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے علاقہ مغرب کے بارے میں سنا کہ وہاں ایک شخص ہے جو علم و حکمت میں مشہور ہے میں اس کی زیارت کیلئے گیا میں چالیس دن اس کے دروازے پر پڑا رہا۔ وہ شخص وقت نماز مسجد میں آتا اور پھر حیرانی اور گم سم حالت میں گھر واپس چلا جاتا۔ میری طرف کوئی توجہ نہ کرتا۔ اس کی اس حالت سے مجھے تنگی لاحق ہوئی۔ میں نے کہا اے جو انمرد میں چالیس دن سے یہاں کھڑا ہوں میری طرف تو نے کوئی توجہ نہیں کی اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے کوئی نصیحت کر اور حکمت و نصیحت کی بات سکھاتا کہ میں اسے یاد رکھوں۔ اس نے کہا تو اس پر عمل کرے گا۔ میں نے کہا ہاں اگر خدا نے توفیق دی اس نے فرمایا دنیا کو دوست نہ رکھ فقر کو دولت مندی شمار کر۔ مصیبت کو نعمت جان اور روک رکھنے کو عطا سمجھ۔ غیر حق سے انست کرنے ہی غیر حق سے محبت کر دین کیلئے خواری کو عزت سمجھ۔ زندگی کو موت سمجھ اور طاعت کو حرمت و عظمت جان اور توکل کو اپنا ذریعہ معاش بنا۔

الْوَدُودُ

يَا وَدُودُ (اے محبت کرنے والے) ☆ اعداد: 20 - تاثیر: جمالی

اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محبت پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے جس سے محبت محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب

محبت کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کیلئے مخصوص ہے۔

ودود، وہ ہے جو تمام مخلوق کیلئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اسم رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ وود کے افعال نہیں چاہتے بلکہ وود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپ سے آپ نعمت بخشی جائے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہے کہ وہ مرحوم کیلئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے اور رحم کے باعث درد دل کے عارض ہونے سے وہ منزہ ہے۔ اس طرح اس کی مودت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش، نعمت، احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کیلئے اختیار میلان سے مبرا ہے۔ اس کی رحمت و مودت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کیلئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودت کا نچوڑ ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ط إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

(پ 12 ہود 90)

ترجمہ: اور اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی کے حضور توبہ کرو بے شک میرا رب رحیم ہے اور محبت کرنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

(پ 16 مریم 96)

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کئے قریب ہے کہ
رحمن ان میں محبت پیدا فرمادے گا۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (پ 30 بروج 14)

ترجمہ: اور وہ غفور و ودود ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہی پیش وزیر ہے۔ اس
سے مودت بھی بنا ہے یعنی دوستی کرنا، بعض نے فرمایا کہ مضبوط دوستی قائم کرنے کا نام
مودت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے دوستی کرتا ہے اور مومن اس سے دوستی رکھتے
ہیں۔ چنانچہ فرمایا (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) یعنی وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے
محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے ان کیلئے خیر چاہتا
ہے انہیں نعمت سے سرفراز کرتا ہے ان پر احسان فرماتا ہے اور ان کی صفت و ثنا کرتا
ہے اور ایمان والے اس سے دوستی رکھتے ہیں یعنی اس کی فرمانبرداری کرتے اس کی
تعظیم بجالاتے اور اس کی ہیبت دل میں رکھتے ہیں اور اس کی ذات میں مستغرق
رہتے ہیں اور فرمایا (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) الودود یہاں اسم غفور کو اسم وود سے پہلے
بیان فرمایا تا کہ عاصی گناہ گار جو غبار معصیت سے آلودہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی ناامید نہ
ہوں یعنی اللہ تعالیٰ پہلے عاصیوں کے حال کے رخسار پر سے غفور و مغفرت کے ساتھ
غبار معصیت صاف کرتا ہے اور ان کے اوپر معصیت کا گرد و غبار جھاڑتا اور انہیں
پاک کرتا ہے اس کے بعد اپنے محبوبوں اور معشوقوں کے دائرے میں لاتا ہے۔

وز تو کرم آید تو آنی

از من گناہ آید و من آنم

مجھ سے ہی گناہ ہی سرزد ہوتا ہے اور میں وہی گناہ گار ہوں تجھ سے کرم ہی
سامنے آتا ہے اور تو وہی کرم نواز ہے۔ اس اسم سے ہونے کی وجہ ظاہر ہے پھر اس
سے متخلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل دین سے دوستی کرے خیر و بھلائی میں سے جو
کچھ اپنے لئے چاہتا ہے دوسرے مسلمانوں کیلئے بھی پسند کرے بلکہ اپنے نفس پر ایثار

کرنے میں انہیں ترجیح دے۔ اس اسم میں کمال پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے ایثار و احسان سے کوئی چیز بھی نہ روک سکے اور غضب و کینہ و ایذا، ایثار کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور جو شخص اس سے تعلق کاٹے یہ اس سے تعلق جوڑے جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے جو اس پر ظلم کرے یہ اس سے درگزر کرے اس محبت کا فرد اعلیٰ یہ ہے کہ محبوبان حق کی محبت میں بالکل ثابت قدم رہے اور محبوبوں کے طریقے کے مطابق چلنے میں پوری کوشش صرف کرے۔ استقامت و پامردی دکھائے اور اس کے دوستوں کی دوستی کو اپنی نجات کا وسیلہ ^{عظمیٰ} جانے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے تمام محبوبوں سے محبوب ترین اور تمام محبوبوں سے محبت ترین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و طاعت کو لازم جانے کیونکہ وہ عین محبت حق و طاعت حق ہے۔

ایک عجیب حکایت مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے ایک عاشق کو 70 ہزار دینار بطور وراثت ملے۔ اچانک اس کے سامنے حضور نبی پاک علیہ السلام کا ایک بال مبارک کسی کے ہاتھ میں سامنے آیا۔ اس عاشق نے وہ 70 ہزار دینار دے کر آپ کا موئے مبارک خرید لیا۔

جمادے چند دادم جان خریدم بھم اللہ عجب ارزان خریدم

میں نے چند پتھر دیئے اور جان خرید لی۔ الحمد للہ کہ میں نے عجیب سستا سودا

کر لیا۔

علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے رگ و ریشے میں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی کا نشان یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہو اور ان تمام سے بھی جو آپ سے نسبت رکھتے ہیں

دوستے را دوست داری دوستش را دوست دار

دوست را بر دیدہ دار و دیدہ را بر دوست دار

اگر تو دوست سے دوستی رکھتا ہے تو اس کے دوست سے بھی دوستی کر۔ دوست کو آنکھ پر رکھ اور آنکھ کو دوست پر رکھ۔

ایک کتے نے دو تین دن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا ساتھ اختیار کیا تو اسے انسانی صورت مل گئی اور ہمیشہ کی نعمتیں مل گئیں تو آدمی کیوں ناامید ہو۔ پیر ہر می قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں جب پتھر کو پھل لگ سکتا ہے اور کتے کو دیدار نصیب ہو سکتا ہے تو عبد اللہ کو ناامیدی سے کیا سروکار۔

اسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ وہ ہے جو مخلوق کیلئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے جو ان کو اپنے پر مقدم سمجھے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں دوزخ کا پل بن جاتا تا کہ لوگ مجھ پر سے صحیح و سلامت گزر جاتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس ایثار احسان کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی کور باطن کافر کے پتھر مارنے سے آپ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا کہ (اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے مشاق رکھتے تھے اور جیسے کہ آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر تم چاہو کہ مقربین سے بھی سبقت لے جاؤ تو بدسلوکی سے نیک سلوک کرو، نہ دینے والے کو دے، ظلم کرنے والے کو

الْمَجِيدُ

يَا مَجِيدُ (اے بزرگی والے) ☆ اعداد: 57 - تاثیر: جمالی
 مجید کا مطلب انتہائی بزرگی والا ہے یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے
 سب سے بلند پایہ ہے اور اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے اس لئے
 اسے مجید کہا جاتا ہے یہ لفظ مجد سے بنا ہے جس کا مطلب عالی مرتبت ہے۔
 ایک اور قول کے مطابق مجید ماجد کا مبالغہ ہے یعنی جو انتہائی عزت و شرف کا
 مالک ہو کہ اس کے بعد عزت و شرف کا کوئی مقام نہ ہو۔ جو اعلیٰ قدر، سب سے زیادہ
 عطا فرمانے والا اور بلحاظ ذات سب سے زیادہ اشرف ہو گویا کہ مجید میں جلیل،
 وہاب اور کریم تینوں اسماء کے معنی پائے جاتے ہیں۔

امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجید وہ ذات بزرگ ہے جو بے انتہاء ہی
 بخشش والی ہے جس کے شرافت ذاتی کے ساتھ ساتھ افعال بھی شریف ہوں۔ اسے
 مجید کہتے ہیں۔ العدة مجد الا ماجد اور مجید ہے مجید اسم مبالغہ ہے جس کے معنی جلیل اور
 کریم ہیں سعادت دارین میں ہے کہ مجید وہ ہے جس کی ذات شریف، افعال
 خوبصورت اور جو دو عطا وسیع ہو، گویا شرف ذات کے ساتھ جب حسن افعال مل
 جائے، اسے مجد اور ماجد بھی کہہ لیتے ہیں۔

قرآن پاک میں مجید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے آیا ہے اس کے علاوہ
 قرآن پاک کیلئے استعمال ہوا ہے کہ قرآن بلند شان والا ہے پھر عرش عظیم کو عرش مجید
 کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں برتر و عالی ہیں۔ اس لئے ان کے مقام کو
 ظاہر کرنے کیلئے ان کیلئے مجید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ مجید
 کے معنوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ اسم اپنے مفہوم میں جلیل، وہاب اور کریم کے اسماء کا

جامع ہے۔

سورت ہود میں مجید کا لفظ اللہ تعالیٰ کیلئے یوں آیا ہے:

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (پ 12 ہود 73)

ترجمہ: فرشتے بولے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہے۔ حضرت
ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں
بے شک وہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ لَفِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ع (پ 30 بروج 21-22)

ترجمہ: بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔

ق، وَالْقُرْآنُ مَجِيدٌ (پ 26 ق 1)

ترجمہ: ق، قسم ہے قرآن مجید کی۔

عرش کو بھی مجید کہا گیا ہے۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (پ 30 بروج 15)

ترجمہ: وہی عرش مجید والا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مجید کے لفظ میں جو وسعت اور
گہرائی ہے اس کا مصداق اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم چونکہ
پروردگار کا کلام اور اس کی صفت ہے اس لحاظ سے اس کے ساتھ اس لفظ کا استعمال
اصل میں موصوف کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح پروردگار کا عرش وہ اگرچہ مخلوق ہے
لیکن پروردگار سے اپنی نسبت خاص اور قرب کی وجہ سے وہ ان بلندیوں کا حصہ ہے
جو پروردگار کی صفات بن گئی ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے ساتھ اس لفظ کا استعمال
درحقیقت پروردگار کے ساتھ ہی استعمال ہے ورنہ کسی اور مخلوق کیلئے چاہے وہ اپنے

مرتبہ اور فضیلت میں کتنی بھی بلند کیوں نہ ہو اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا۔ اب جہاں تک پروردگار کے بلند مرتبہ ہونے کا تعلق ہے اس کے فضائل و کمالات کی وسعت کا تعلق ہے اور اس کی عطا و بخشش کے ہمہ گیر ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ جو شخص بھی خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے اس کیلئے اس کو محسوس کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور پھر اس کائنات کی وہ وسعتیں جہاں تک ابھی انسان کا علم نہیں پہنچ سکا اور خود انسان کی قوت ادراک جو قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ہے اور جس نے اس دنیا کو ایجادات سے مالا مال کر دیا انسان تمام چیزوں کے احاطہ سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہے۔ چہ جائیکہ وہ اس تمام کائنات کے خالق و مالک کی وسعتوں اور اس کے مراتب کی بلندی کا احاطہ کر سکے۔ اس لئے یہ کہہ کر آدمی عقل و خرد کے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ الہی تو مجید ہے اور تیری مجد و عطاء پر ہم یقین رکھتے ہیں لیکن اس کی وسعتوں کو جاننے سے قاصر ہیں۔

الْبَاعِثُ

يَا بَاعِثُ (اے مبعوث فرمانے والے)

اعداد: 573 - تاثیر: جمالی

الْبَاعِثُ بَعَثَ سے بنا ہے جس کا مطلب مبعوث کرنا اور اٹھانا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی صفت باعث سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جس نے لوگوں کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے لوگوں کو توحید خداوندی پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی باعث ہے کہ وہ روز قیامت مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود

پر فائز فرمائے گا۔ ان باتوں کا مفہوم قرآن کی حسب ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔

(1) اللہ تعالیٰ اپنی شان باعث کی وجہ سے موت کے بعد اٹھائے گا۔

وَلَيْنُ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ (پ 12 ہود 7)

ترجمہ: اور اگر آپ یہ کہیں کہ بے شک تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ط (پ 28 مجادلہ 6)

ترجمہ: جس دن اللہ ان تمام کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا کیونکہ اللہ نے انہیں محفوظ کر رکھا ہے جسے وہ بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی باعث ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

(پ 2 بقرہ 213)

ترجمہ: ابتداء میں سب لوگ ایک امت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے نبی مبعوث فرمائے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رَسُولًا يَتْلُوٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝

(پ 20 قصص 59)

ترجمہ: اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور نہ ہی ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جب تک کہ

ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پ 28 حمد 2)

ترجمہ: وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی باعث ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بعد زندہ کرے گا۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

(پ 17 حج 7)

ترجمہ: یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں اور بے شک جو کوئی قبروں میں ہے اللہ اسے زندہ کر دے گا۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ ۝ ص (پ 7 انعام 36)

ترجمہ: بے شک وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ ان فوت شدہ کو زندہ کر دے گا پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ (پ 28 تغابن 7)

ترجمہ: اہل کفر کا زعم ہے کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ آپ فرمادیں کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں تمہارے اعمال بتا دیئے جائیں گے اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کیلئے بالکل آسان ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی باعث ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ مَعِيَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (پ 15 بنی اسرائیل 79)

ترجمہ: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیں جو آپ کیلئے نفل ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر معبوث کر دے۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا ہے یا دنیا میں جو واقعات اور حادثات پیدا ہوتے ہیں ان کا محرک وہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ بڑا پر معنی ہے یعنی یہ لفظ اللہ کی شان قدرت کا مظہر ہے اس لئے اسے پڑھنے والا اللہ کے ہر اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے جس کا کسی چیز کو دوبارہ قائم کرنے سے تعلق ہے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارنے والا زندہ دل ہو جاتا ہے۔ اس کا دل حقیقت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیک کاموں کی طرف سے جو شیطان غفلت پیدا کرتا ہے اس اسم کی بدولت سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔

الشَّهِيدُ

يَا شَهِيدُ (اے حاضر اور گواہی دینے والے)

اعداد: 319 - تاثیر: جمالی

شہید وہ ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا شاہد یعنی گواہ ہو۔ شہید کا لفظ شہود سے بنا ہے جس کا مطلب گواہی دینا ہے مگر بعض کا کہنا ہے کہ حاضر،

ظاہر اور باطن پر مطلع کیلئے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ یوسف نبھانی کا قول ہے کہ اس کا معنی خصوصی اضافت کے ساتھ علیم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب مطلق علم کا اعتبار کیا جائے تو علیم ہے اور جب اس کو غیب اور امور باطنہ کی طرف منسوب کیا جائے تو خبیر ہے اور جب اس کو امور ظاہرہ کی طرف منسوب کیا جائے، شہید ہے۔

امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسم شہید بھی اسم علیم ہی کی طرح ہے۔ اس لئے کہ اس میں غیب اور شہادت دونوں صفات موجود ہیں۔ غیب سے باطن اور شہادت سے ظاہر مراد ہے۔

قرآن مجید میں اسم شہید اللہ تعالیٰ کیلئے صفاتی طور پر 22 جگہ پر آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (پ 5 نساء، 33)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

(پ 22 احزاب 55)

ترجمہ: اور تم کو اپنے باپ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھانجیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے پردے کے بغیر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کئے رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ 17 ج 17)

ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (28 مجادلہ 6)

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ 22 سب 47)

ترجمہ: اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ

يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ (پ 6 نساء 166)

ترجمہ: اللہ اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ پر نازل کی ہے گواہی

دیتا ہے کہ اس کے نازل ہونے سے علم دیا گیا ہے اور فرشتے بھی گواہی

دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ

كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ (پ 26 فتح 28)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی کتاب اور دین حق کے

ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کی گواہی کافی

ہے۔

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفُلِينَ

(پ 11 یونس 29)

ترجمہ: تو اس پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے تم

جو ہماری پوجا کرتے تھے ہم بالکل اس سے بے خبر تھے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (پ 13 رعد 43)

ترجمہ: اور کافروں کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ فرما

دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص گواہ کافی ہے جس

کے پاس کتاب کا علم ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ۚ
بَصِيرًا (پ 15 بنی اسرائیل 96)

ترجمہ: فرمادیتے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا بِالْبٰطِلِ وَاكْفَرُوْا بِاللّٰهِ اُوْلٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ (پ 21 عنکبوت 52)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کے علم میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو قبول کیا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ
(پ 30 بروج 9)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی مملکت اسی کی ہے اور ہر چیز پر شاہد ہے۔

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۖ
اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(پ 24 حمّ سجدہ 53)

ترجمہ: ہم انہیں عنقریب آفاق میں اور خود ان کی ذاتوں میں نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حقیقت ظاہر ہو جائے کہ قرآن دراصل حق ہے۔

کیا آپ کے رب کا بلاشبہ ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے۔

وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ
الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(پ 7 مائدہ 117)

ترجمہ: اور جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

(پ 5 نساء 79)

ترجمہ: اے سننے والے تجھے جو اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے اور ہم نے آپ کو لوگوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا مِّمَّنْ بَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(پ 26 احقاف 8)

ترجمہ: میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہ کافی ہے اور وہ غفور ہے رحیم ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس لئے وہ اس کے حالات کے مطابق اس کا گواہ ہے کیونکہ دنیا کی کوئی چیز کوئی سکوت، کوئی حرکت اس کی شہادت کے باہر نہیں۔ اس لئے وہ شہید ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شہادت غیب کی ضد ہے کیونکہ ہر پوشیدہ چیز کیلئے غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ سامنے موجود چیزوں کیلئے شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ظاہری امور سے اچھی طرح واقف ہے اس لئے اسے شہید کہا جاتا ہے۔

شہید کا لفظ شہود سے نکلا ہے بمعنی حاضر ہونا یا شہادت سے نکلا ہے بمعنی گواہی دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر و باطن اور غیب و شہادت سب پر حاضر و مطلع ہے اور قیامت کے دن مخلوق کے اعمال و افعال پر گواہی دینے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ وہ اپنی وحدانیت پر شاہد و گواہ ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے

کہ بے شک وہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یا اپنے رسول کو مدد دینے اور یوم میثاق میں پیغمبروں سے ایمان پر گواہی لینے والا ہے کہ جب تمہارے بعد میرا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا یہ آیت اس عہد پر دلالت کرتی ہے۔ بعض نے فرمایا شاید بمعنی ظاہر کرنے والا بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے بطریق وحی والہام احکام دین اسلام کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بعض نے شہید بمعنی مشہود لہ بھی کیا ہے یعنی انبیاء و اولیاء، علماء اور ملائکہ اس کی ذات کی وحدانیت اور اس کی صفات کے کمال کی گواہی دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت پانے سے عاجز و قاصر ہیں۔

بندے کو چاہئے کہ مراقبہ کے ذریعے خدائے تعالیٰ کے حضور اطلاع اور اعمال پر اس کی شہادت سے غافل نہ ہو اور رسول کے تشریف لانے پر اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اس کے صدق کی تصدیق کرے اور دین اسلام کے احکام کا تتبع بنے۔ اس کی ذات و صفات کے کمال کا اعتراف کرے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی اول معنی کے لحاظ سے علیم وخبیر کی طرف رجوع کرتا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بندے کو چاہئے کہ اہل شہادت سے تزکیہ و تصفیہ اور عدل و انصاف کا نور دنیا و آخرت میں حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میثاق انبیاء پر شاہد بنے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہو جائے۔ (شرح مشکوٰۃ)

الْحَقُّ

يَا حَقُّ (اے سچے، ثابت اور موجود)

اعداد: 108 ☆ فطرت: مشترک

اللہ حق ہے اور حق کا مطلب حق ہی ہے یعنی جو ہر لحاظ سے سچا ہو اور اس کا وجود ہر لحاظ سے موجود ہو اور اسے ایک لمحہ کیلئے بھی زوال اور عدم نہ ہے۔ ہر شے کا ظہور اسی ذات سے وابستہ ہے اور ہر شے اسی پر منتہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ ازل تا ابد ہر وقت حقانیت سے بھرپور ہے اور اس کے سامنے کوئی باطل قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ حق کونہ فنا ہے نہ زوال نہ عدم ہے نہ تغیر۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ مَا أَصْحَابُ

تَصْرَفُونَ ۝ (پ 11 یونس 32)

ترجمہ: یہ اللہ ہے جو سچا رب ہے پھر حق کے بعد گواہی کے سوا کیا ہے پس تمہیں کس طرف پھیرا جا رہا ہے۔

هٰذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ (پ 11 یونس 30)

ترجمہ: یہاں ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے اس کی آزمائش کرے گا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مولیٰ ہے اور جو بہتان وہ باندھتے تھے سب جاتے رہیں گے۔

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ۚ اِلَّا لَهٗ الْحُكْمُ ۚ وَهُوَ اَسْرَعُ

الْحُسْبَيْنِ (پ 7 انعام 62)

ترجمہ: پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق والی ہے۔
حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى
إِلَيْكَ وَحْيُهُ زَوْقُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (پ 16 طہ 114)

ترجمہ: پس اللہ بلند و بالا ہے جو سچا بادشاہ ہے اور قرآن پڑھنے میں عجلت
نہ کی جائے جب تک کہ اس کی وحی آپ کی طرف پوری نہ ہو جائے اور
عرض کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمادے۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ (پ 12 ہود 45)

ترجمہ: اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے
میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل و عیال سے ہے اور یقیناً تیرا
وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں کا حاکم ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝ (پ 17 حج 6)

ترجمہ: یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہ مردوں کو زندہ
کرتا ہے اور بلاشبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ (پ 26 محمد 2)

ترجمہ: اور جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے اور صالح عمل کرتے رہے اور
اس پر ایمان لائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور
ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو مٹا

دیا اور ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔

يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

الْمُبِينُ ۝ (پ 18 نور 25)

ترجمہ: اس دن انصاف کے ساتھ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ صریحاً حق ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (پ 17 حج 62)

ترجمہ: یہی بات ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے اور بلاشبہ اس کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی سب سے بڑائی والا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ باطل کے مقابلے میں ہے اور تمام اشیاء اپنی اضداد کے مقابلے میں ظاہر ہوتی ہیں۔

جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذات ممتنع وہی ہے جو مطلقاً باطل ہو اور واجب بذات وہی ہے جو مطلقاً حق ہو اور ممکن بذات مگر واجب بغیر وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت سے اس کا وجود نہیں ہے اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا ہے اس لئے وہ اس وجہ سے وجود کا افادہ کرنیوالے سے متصل ہے، موجود ہے۔ لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس و ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی ”اس کی ذات کے سوا باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔“ اور وہ اسی طرح ازلاً وابداً ایک ہی حال پر قائم ہے۔ مختلف حالات قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک من حیث الذات

وجود کی مستحق نہیں ہے اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے اور لغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے۔

حق کے ایک اور معنی بھی ہیں یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور وہ موجود ذہنی ہے جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے اور جب عقل سے اس کو نسبت دی جائے جس نے اس کی حالت معلوم کی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے اور معلومات میں سے حق کہلانے کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً وابداً معلوم کے مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ لغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے جسے اس کے غیر کے وجود کا علم ہو کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی باطل ہو گیا۔

اقوال کو بھی حق کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ کیونکہ وہ ازلاً وابداً لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیرہ۔

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کہتے ہیں خواہ زبانی موجود کو حق کہیں جس کو نطق کہتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے جس کا وجود ازلاً وابداً لذاتہ ثابت ہو اور اس کی معرفت ازلاً وابداً لذاتہ حق ہو اور اس کی شہادت ازلاً وابداً لذاتہ حق ہو اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں۔

اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگر چہ حق ہے مگر بنفسہ حق نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے

کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے۔ بذاتہ موجود نہیں ہے بلکہ بذاتہ باطل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو نہ بنایا ہوتا تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا۔

سعادت دارین میں لکھا ہے کہ اس کا معنی باطل کا مقابل جس چیز کی خبر دی جاسکتی ہے یا مطلقاً باطل ہے۔ یا مطلقاً حق، یا من وجہ حق اور وجہ باطل۔ پس جو ممتنع بذاتہ ہے وہ مطلقاً باطل ہے۔ واجب بذاتہ مطلقاً حق ہے کیونکہ حقیقت میں موجود بذاتہ وہی ہے جس سے ہر حقیقت اپنا وجود پاتی ہے اور جو اپنی ذات میں ممکن اور غیر کی وجہ سے واجب ہے وہ ایک وجہ سے حق اور دوسری وجہ سے باطل ہے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے اس کا کوئی وجود نہیں لہذا باطل ہے اور غیر کی وجہ سے اس کا وجود ہے۔ لہذا اس لحاظ سے حق ہے اور کبھی عقل میں آنے والی چیز جو عقل کے مطابق ہو، حق کہلاتی ہے۔ اس کا ذاتی نام موجود اور اسی کو جب اس عقل کی طرف منسوب کریں جس نے اس کی حقیقت کو جانا اسے حق کہا جاتا ہے۔ صفت حق اقوال پر بھی بولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قول حق۔ قول باطل۔

شمس المعارف میں ہے کہ اسم حق دراصل اللہ تعالیٰ کی زمینی تلوار ہے جس سے باطل کے پہاڑ قطع کئے جاتے ہیں۔ باطل کی ضد کا نام حق ہے۔ حق تعالیٰ نے موجودات کو جس طرح چاہا ظاہر کیا اور ہر موجود کیلئے اپنے اسماء میں سے ایک اسم ظاہر پر حق کو محیط کر کے توحید فطرت کی جانب متوجہ ہوا اور اپنے اسم حق کے معانی و مفاہیم موجودات پر بسط فرمائے الحاصل اسم حق کا ذکر عجائبات الہی مشاہدہ کرتا ہے۔ شرح اسماء الحسنیٰ مطبوعہ تاج کمپنی میں لکھا ہے کہ کبھی حق باطل کے مقابلہ پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جو شے صحیح اور درست ہو کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کے وجود کا علم اس وقت ممکن ہے جبکہ رات کے وجود سے واقفیت ہو۔ اسی طرح حق اسی وقت پہچانا جاسکتا ہے جبکہ انسان باطل سے واقف ہو۔ آدمی صدق کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جبکہ اسے کذب و افترا کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدق کے ساتھ

کذب کا حق کے ساتھ باطل کا اور نیکی کے ساتھ بدی کا ذکر فرماتے ہیں۔ لہذا کوئی شے ایسی نہیں جو ہر لحاظ سے حق ہو یا ہر لحاظ سے باطل ہو کیونکہ ہر باطل میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر حق میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک وجہ سے حق ہے تو ایک اعتبار سے باطل ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شے ہر لحاظ سے باطل ہو اور اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن ہر لحاظ سے حق ہونا یہ ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور ہماری بحث ممکنات سے ہے نہ کہ واجب الوجود ہے۔

بندے کا اس اسم میں یہ حصہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل (فانی) سمجھے اور اللہ کے سوا کسی کو حق (باقی) نہ سمجھے کیونکہ بندہ اپنی ذات میں حق (دائم) نہیں بلکہ اللہ کے وجود سے موجود ہے۔ اپنی ذات سے نہیں اور اہل تصوف پر جبکہ اپنی ذاتی فنا غالب ہوتی ہے تو ان کی زبانوں پر اکثر حالات میں اسمائے باری تعالیٰ میں سے حق جاری رہتا ہے کیونکہ وہ فانی کے بجائے ذات حقیقی کا لحاظ کرتے ہیں اور متکلمین چونکہ ابھی تک افعال سے دلیل پکڑتے ہیں لہذا ان کی زبان پر اکثر اسم الباری جاری رہتا ہے جو خالق کا ہم معنی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ حق بمعنی ثابت و ہست ہے۔ اس کے بالمقابل لفظ باطل آتا ہے بمعنی نیست و ناچیز و معدوم۔ یاد رہے ثابت و ہست مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی موجودات امکان کی حیثیت سے معدوم ناچیز اور نیست ہیں اور حد ذات میں ان کیلئے کوئی وجود و ثبوت نہیں جیسا کہ کہا گیا ہے (أَلَا كُنُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ) سنو اور آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل و فانی ہے۔

تفصیل کلام یہ ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ حق مطلق و باطل مطلق۔ ایک اعتبار سے حق دوسرے اعتبار سے باطل۔ پس ممتنع بالذات باطل مطلق ہے اور ممکن لذاتہ ایک اعتبار سے حق ہے اور ایک کے اعتبار سے باطل۔ اس ممکن کا اپنی ذات

کے لحاظ سے بالکل کوئی وجود نہیں۔ پس ممکن اپنی ذات میں باطل ہے اس کا وجود غیر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں جانب وجود کو لگا دیا گیا ہے۔ پس اس اعتبار سے ممکن بھی حق ہے یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے قول مبارک (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) اس کے سوا ہر چیز فانی ہے، کا۔ پس معلوم ہو گیا کہ حق مطلق وہی موجود حقیقی ہے کیونکہ وہی اپنی ذات سے موجود ہے۔ یعنی اس کا وجود کسی سے مستعار نہیں ہر چیز اسی سے وجود حاصل کرتی ہے۔ حق مطلق خدائے عزوجل تعالیٰ و تقدس ہے۔ پھر حق بمعنی صدق درستی اور اقوال و اعتقاد میں درستی کے معنی میں بھی آتا ہے اور مذاہب کو بھی حق کے ساتھ موصوف کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت بھی چونکہ ثبوت کے اعتبار سے حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہیں بھی حق کہہ دیا جاتا ہے۔ حق بمعنی لائق و مستحق کے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الوہیت کے لائق و مستحق ہے۔ اس کے اقوال و افعال بطلان و کذب کے شائبے سے بھی منزہ و مبرا ہیں۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ متابعت حق پر شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے موصوف ہو جائے تاکہ اس شریعت کا نور و حضور اس کے دل پر غالب آجائے اور وہ اس نور و حضور کی وجہ سے حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے ذکر و حضور میں مستغرق ہو جائے یہاں تک کہ حقانیت سے متصف ہو جائے۔

الْوَكِيلُ

يَا وَكِيلُ (اے کارساز) ☆ اعداد: 66 - تاثیر: جمالی

انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عنایات پر ہے۔ اس لئے وہی ہمارے تمام معاملات کو درست فرماتا ہے۔ خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ دینی ہوں یا دنیوی۔ یعنی ہمارے ہر کام کو احسن طریقے سے سرانجام دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ

تعالیٰ ہمارا وکیل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا کوئی اور کارساز نہیں۔
 بندوں کے کاموں کو قائم فرمانے والا اور ان کیلئے ان اشیاء کو مسخر فرمانے والا
 جن چیزوں کی انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ یا بندوں کے ذمہ کاموں کو سپرد
 فرمانے والا یا ان کے تمام امور کا ذمہ دار۔ انسان کو بھی وکیل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ
 اس کے ذمہ کام سپرد کیا جاتا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے امور کا آپ
 ذمہ لیا ہے اسی لئے وہ ہر لحاظ سے وکیل ہے۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (پ 4 آل عمران 173)

ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز
 ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (پ 5 نساء 81)

ترجمہ: اور اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کارساز کیلئے کافی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (پ 21 احزاب 3)

ترجمہ: اور اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کی
 کارسازی کافی ہے۔

وَدَعُ أَذْهُمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

(پ 22 احزاب 48)

ترجمہ: ان کی یعنی کافروں کی طرف سے ملنے والی اذیت کو خاطر میں نہ
 لایا جائے اور اللہ پر توکل کیا جائے اور اللہ کارساز کیلئے کافی ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

(پ 6 نساء 171)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کیلئے ہے اور اللہ کارساز
 ہونے میں کافی ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

(پ 5 نساء 132)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ کارسازی میں کافی ہے۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

(پ 15 بنی اسرائیل 65)

ترجمہ: بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا اور اے میرے محبوب تیرا رب بندوں کی کارسازی کیلئے کافی ہے۔

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ فَاعْبُدُوْهُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (پ 17 انعام 102)

ترجمہ: یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کا خالق ہے پس اسی کی عبادت کرو اور ہر چیز کا کارساز ہے۔

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ط (پ 12 ہود 12)

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے۔

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (پ 24 زمر 62)

ترجمہ: ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ وکیل وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں لیکن

اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔

دوم، جس کے سپرد تمام امور ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں

ایک تو وہ جو بذاتہ موکول الیہ (جس کے سپرد کیا جائے) ہونے کا مستحق نہ ہو

بلکہ وہ موکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور وہ ناقص ہے کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں اور اس کو مختار بنایا جائے۔

دوم، وہ جو بذاتہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں اور دل اس پر آسرا رکھتے ہوں۔ کسی دوسرے کے اختیار دینے اور سپرد کرنے سے نہیں بلکہ (وہ) خود اور بذاتہ وکیل ہو) وہ وکیل مطلق ہے۔

ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔

ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ امور کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کر دے۔

دوم، وہ جو پورا نہ کرے۔

وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام اشیاء ہیں اور وہ تمام کے اہتمام میں لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر دخل حاصل ہے۔

شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ وکیل اسے کہتے ہیں جس کے ذمے کوئی کام لگا دیں اور عمل دخل کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ خداوند تعالیٰ نے خود بخود ہی بندوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور دنیا کی ابتداء و انتہا میں بندوں کے کاموں کیلئے خود ہی سرپرست بن چکا ہے وہ اس طرح کہ بندے جس چیز کے محتاج ہیں وہ انہیں عطا کرتا اور سب کی ضروریات اپنی عنایت و کرم سے پوری کرتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی اپنا کام اس کے حوالے کرے یا اسے اپنا وکیل بنائے اور وکیل ایسا بھی ہوتا ہے جس کی قدرت جس کام کیلئے وہ بنا ہوتا ہے پوری نہیں اترتی۔ وکیل مطلق جس کے حوالے تمام کام ہوں اور جو تمام کاموں کیلئے کافی دوانی ہو اور کرم و عنایت سے ہر کام پورا کرے، صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنے تمام کام اس کے حوالے کرے اور خود کلیتہً اس پر متوکل ہو جائے اور اس کی استعانت اور مدد پر اعتماد کرتے ہوئے غیر سے بالکل کٹ جائے۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد رکھا جائے۔ اکثر طور پر توکل کا استعمال رزق کے بارے میں ہوتا ہے مگر مفہوم اور معنی عام ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیفوں و در ماندہ لوگوں کے کام کرنے میں سعی کرے ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے مطالب و مقاصد پورا کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے گویا کہ ان کا وکیل وہی ہے۔ نیز خدائے تعالیٰ کو نفس کے خلاف اپنا وکیل بنائے اور حقوق الہی اور اس کے اوامر و نواہی کے پورا کرنے میں اپنے نفس کا دشمن بنا رہے۔

اور اسی نام سے بندے کا نصیب بھی ظاہر ہے کہ تمام امور اسی کے سپرد کئے جائیں اور ہر کام میں اسی پر توکل کیا جائے اور دوسرے انسانوں کی مدد کرے اور ان کی حاجت روائی میں گریز نہ کرے کیونکہ ہر ایک خدا کی جانب سے ایک دوسرے کا وکیل ہے۔

الْقَوِيُّ

يَا قَوِيُّ (اے قوت والے) ☆ اعداد: 116 - خاصیت: جلالی اللہ قویا ہے کیونکہ اس کی طاقت سب سے برتر اور مضبوط ہے یعنی اس کی ذات اور صفات میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں۔ وہ اپنے افعال اور اختیارات میں ہر لحاظ سے قوت والا ہے کیونکہ اس کی قوت ہمیشہ ایک سی رہتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی اور ہر کسی پر حاوی ہے لیکن اللہ کے سوا ہر شے ضعیف اور ناتواں ہے اس لئے صرف اللہ ہی قوی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوت مخلوق کو عطا کر رکھی ہے وہ عارضی اور فانی ہے کیونکہ وہ جب چاہئے جس سے چاہے اس سے اپنی عطا کردہ قوت چھین سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اللہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قوی کے بارے میں قرآنی آیات

نسب ذیل ہیں:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (پ 12 ہود 66)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب طاقتور اور غلبے والا ہے۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (پ 17 حج 40)

ترجمہ: اور البتہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک

اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (پ 17 حج 74)

ترجمہ: انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق

تھا بے شک اللہ قوی ہے عزیز ہے۔

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (پ 27 حدید 25)

ترجمہ: بے شک اللہ قوت والا ہے غلبے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (پ 28 مجادلہ 21)

ترجمہ: بے شک اللہ قوت والا ہے غلبے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 10 انفال 52)

ترجمہ: بے شک اللہ قوت کے ساتھ شدید عذاب دینے والا ہے۔

شمس المعارف میں ہے کہ قوی وہ ذات مستحکم جو پوری قوت رکھتا ہو یقین کر لیا جائے۔ قوت اور قدرت یہ دونوں اپنے موصوف کی صفتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) اللہ تعالیٰ نے جس امر کا ارادہ کیا، اسے اپنی حکمت سے وجود کی حیثیت دے کر ایجاد کیا اور وجود شے پر پر قوت احسان کر کے اس کے مزاج میں بھی ایک مناسب قوت ودیعت کی جس کی وجہ سے توحید اور امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو عظمت اور رفعت کے ساتھ پیدا کر کے اپنی عظمت و جلال کی اس پر تجلی کی اور توحید پر قائم رہنے

کی اسے قوت دی پھر لوح کو پیدا کر کے اسے بھی توحید کا حجم دیا پھر آسمان و زمین پیدا کر کے ان کو بھی توحید کا حکم فرمایا جو توحید کی تاب لا سکے وہ دریائے جبروت میں سرگزشت ہو گئے۔ ان سرگشتگان کو پھر اللہ کریم نے انوار الہی کی تب و تاب سے انہیں توحید کی دولت دی جس کے باعث یہ سرگشتہ و گم ہو گئے۔ اس نے اپنے انوار سے ان کو ایک نور بخشا تب انہوں نے توحید کی نفس اور اجسام کی صورت میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ کی ہیبت سے آسمان و زمین، پہاڑ، دریا اور ہوا سب کے سب اپنے محل اور مقام پر قائم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کیلئے رات اندھیری اور دن روشن ہے۔ جنت درخشاں اور دوزخ مشتعل ہے۔ کان سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں۔ زبانیں گویا اور حواس حرکت کرتے ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت، قدرت نامہ کاملہ بالغہ پر اور متانت شدت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کہ قوت بالغہ کاملہ رکھتا ہے قوی ہے اور اس حیثیت سے کہ شدید القوت ہے متین ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف اس طرح بیان فرمایا (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ) یعنی بڑی سخت قوت اور طاقت والا یہ معنی قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قدرت کا ذکر آگے آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ عجز، بے بسی، ضعف اور فراواندگی سے منزہ و مبرا ہے۔ بعض کہتے ہیں قوی متین بمعنی خالق قوت و متانت ہے۔ اس اعتبار سے فعیل بمعنی مفعول ہوگا۔ جب یہ حقیقت بندے پر منکشف ہوگئی تو چاہئے کہ تمام کاموں میں قوت و نصرت اسی سے چاہئے اور اپنے آپ کو بلکہ سب کو بلکہ تمام چیزوں کو اسی کا مسخر و مطیع جانے اور جرأت و بے ادبی کی حالت میں اس کی قوت و قدرت سے ڈرے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پر قوی و غالب ہو۔ اس بارے میں سخت مضبوط ہو کر یقین میں قوی اور متین بن جائے۔ شرع کے احکام جاری کرنے میں سستی اور کامی کو بالکل قریب نہ آنے دے۔

الْمَتِينُ

يَا مَتِينُ (اے مضبوط طاقت والے)

اعداد: 500 ☆ خاصیت: جلالی

متین کا مطلب کمال قوت والا ہے یعنی طاقت میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کے مقابلے میں طاقت میں ہر دوسری چیز کم ہو۔ اس کی مضبوطی کو کوئی روکنے والا نہ ہو اور نہ ہی اس کی قوت کو ضعف آئے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ ہر صفت میں کمال صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لئے وہی ذات متین ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَأْمَلِي لَهُمْ فَنَإِن كَيْدِي مَتِينٌ (پ 9 اعراف 183)

ترجمہ: اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر زبردست مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا متین ہونا قوت کی شدت پر دلالت کرتا ہے اگر وہ اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہے تو زبردست طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر دہراتا ہے۔

وَأْمَلِي لَهُمْ فَنَإِن كَيْدِي مَتِينٌ (ب 29 قلم 45)

ترجمہ: اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر زبردست مضبوط ہے۔

متین اللہ تعالیٰ کا اسم اس لئے بھی ہے کہ وہ مستقل بالذات ہے۔ قائم بالذات خود ہے۔ اور کسی دوسری ذات کا محتاج نہیں۔

قرآن مجید میں یہ اسم قوت کے ساتھ بھی آیا ہے

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (پ 27 ذریت 58)

ترجمہ: بے شک اللہ ہی رزاق ہے قوت والا زبردست مضبوط ہے۔

متین وہ ذات ہے جسے قوت میں اتنا کمال حاصل ہو کہ اس کے کسی کام میں بھی کوئی معارض و مقابل نہ ہو سکے اور اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہ ہو اور کبھی اس کی قوت میں ضعف نہ آئے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کیونکہ ہر صفت میں کمال صرف اسی کو حاصل ہے اور قوت قدرت کاملہ کو ثابت کرتی ہے اور متانت شدت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کامل القوت اور جامع القدرت ہے۔

ایک اور قول کے مطابق قوی وہ ذات ہے جسے اپنے افعال میں مشقت و کلفت اور تعب لاحق نہ ہو۔ قوی اور متین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قدرت میں بالغ و تام کو ”قوی“ کہتے ہیں اور قدرت میں مضبوط اور شدید کو متین بولتے ہیں۔

اس اسم پاک سے تخلق کرنے والوں کو عقائد میں پختگی، اعمال میں مواظبت حاصل کرنی چاہئے۔ باوجود ہر قسم کی طاقت و حکومت وغیرہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کو کمتر اور ذلیل و کمزور سمجھنا چاہئے۔ (معارف الاسماء)

اس اسم کے تخلق کے بارے میں سعادت دارین میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے قوی ہونے کا یقین ہے وہ ہر چیز میں اس کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی طاقت و قدرت سے ہر دوسری قوت و طاقت سے غائب ہو جائے گا کیونکہ ہر شے کی طاقت اسی سے ہے۔ اس اسم پاک سے قربت حاصل کرنے سے ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ تدبیر و تقدیر کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا احسان نظر آتا ہے۔ مخلوق کا ڈر اور دنیا کے غم و الم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس سلسلہ میں تم کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں اور کسی صورت اس تعلق میں کمزوری

نہیں آتی جو اس کی عظیم قوت اور اس کی مضبوطی کو پہچان لے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی پر اعتماد و یقین رکھتا ہے۔ اس اسم سے قربت حاصل کرنا، اس کے تعلق و تعلق سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس میں تاکید معنوی پائی جاتی ہے۔

الْوَالِي

يَا وَليُّ (اے دوستی والے) ☆ اعداد: 46 - تاثیر: جمالی

الْوَالِيُّ لفظِ ولا سے بنا ہے جس کا مطلب محبت، دوستی، نزدیکی رشتہ داری، مدد اور ملکیت ہے۔ یہ لفظ کثیر المعانی ہے۔ اس طرح الولی کے معنی محبت کرنے والا، دوستی کا حق ادا کرنے والا اور مدد کرنے والا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ولی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور دوستوں کے دشمنوں کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے سے مراد دوست اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مومنوں اور متقیوں کا دوست ہے اس لئے اسے اس صفت سے پکارا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے (اللہ تعالیٰ مومنوں اور متقیوں کا دوست ہے)۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

(پ 3 بقرہ 257)

ترجمہ: اللہ اہل ایمان کا دوست ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں

لاتا ہے۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ

آمَنُوا ط وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ○ (پ 3 آل عمران 68)

ترجمہ: بے شک تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی

قریب تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے اور یہ نبی اور ان پر جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کا دوست ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (پ 25 جاثہ 19)

ترجمہ: اور اللہ اہل تقویٰ کا دوست ہے۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 25 شوریٰ 9)

ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لیا ہے۔ پس اللہ ہی والی ہے اور وہ مردہ چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ 1 بقرہ 107)

اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار ہے۔

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (پ 6 نساء 173)

ترجمہ: اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ط أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۖ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

(پ 15 کہف 26)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ جتنا عرصہ وہ ٹھہرے اللہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کیلئے ہے۔ کیا خود دیکھتا ہے اور کیسا خوب سنتا ہے اس کے سوا ان کیلئے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

(پ 10 توبہ 74)

ترجمہ: پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کیلئے بہتر ہے اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دینے والا ہے اور زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔

وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (پ 5 نساء 45)

ترجمہ: اللہ اپنے ولیوں کیلئے کافی ہے اور اللہ مددگار بننے میں کافی ہے۔
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ط (پ 7 انعام 70)

ترجمہ: اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی اور سفارشی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چیز معاوضے میں دینا چاہیں تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○ (پ 7 انعام 51)

ترجمہ: اور انہیں قرآن کے ذریعے ڈرائیں جن لوگوں کو یہ خوف ہو کہ انہیں اپنے رب کی طرف سے جمع کیا جائے گا۔ اس کے سوا ان کیلئے نہ کوئی دوست اور سفارشی ہوگا تا کہ وہ متقی ہو جائیں۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ○

(پ 21 سجدہ 4)

ترجمہ: تمہارے لئے اس کے کوئی اور دوست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے کیا پھر بھی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ○

(پ 15 بنی اسرائیل 111)

ترجمہ: اور اسی طرح کہو کہ تمام حمد اللہ ہی کیلئے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں

اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے اور اس کی بڑائی کے لئے ہر وقت تکبیر کہتے رہو۔

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

نَصِيرًا ۝ (پ 5 نساء 75)

ترجمہ: اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔

دنیا میں اعتقادی لحاظ سے دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک اہل ایمان اور دوسرے منکرین ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہی ہر لحاظ سے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب اہل ایمان کو منکرین ایمان تنگ کرتے ہیں ان سے زندگی کا اسباب چھینتے ہیں ان سے جنگ کرتے ہیں گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نیچا اور بے یار و مددگار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا کارساز بنتا ہے۔ دشمنوں سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی یعنی دوست ہے، کارساز ہے۔ لہذا جو بندہ اسے اس صفت سے پکارتا ہے وہ اسے اپنا دوست اور کارساز بنا لیتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ولی بمعنی محبت و ناصر حق سبحانہ تعالیٰ مومنوں و متقیوں کا محبت ہے۔ ان کی مدد فرماتا اور ایمان والوں سے دوستی لگاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی بمعنی متولی یعنی امورات کی سرپرستی کرنے والا بھی آتا ہے۔ حق تعالیٰ صالحین کے امور کا لطف و اصلاح کے ساتھ متولی اور کارساز ہے کیونکہ انہوں نے اسی پر توکل کیا ہوتا ہے۔ اپنے سارے کام اسی کے حوالے کئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سب امور کا

متولی ہے اور جس جس چیز کے محتاج ہیں ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے جیسے دنیا میں روزی پہنچانا اور آخرت میں نجات و سرفرازی عطا کرنا ولی بمعنی قریب بھی آتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے مخلص بندوں کے قریب ہے۔ چنانچہ فرمایا:

اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ بندے کو چاہئے کہ اپنے ایمان کے تمام شعبوں کو مکمل کر کے اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کی دوستی کے مزید لائق بنائے۔ تمام کاموں میں اس سے مدد و نصرت چاہے اور اس کی سرپرستی و محبت پر شکر گزار رہے۔ اس کے قریب سے آگاہی حاصل کرے دل کو غیر کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدائے سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے دوستوں سے دوستی کرے اس کے دین کی اشاعت میں مدد کرے، اس کے دوستوں کی بھی مدد کرے۔ مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے میں پوری کوشش سے کام لے۔ مخلوق کے انتظامات کرنے میں چستی دکھائے تاکہ وہ بھی اس اسم سے مشرف ہو جائے اور اس کا نام بھی ولی اللہ ہو جائے۔

ولایت کے نشانات میں سے ایک نشان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق و نصرت ہمیشہ اس کے ساتھ رکھے، اسے ذلیل و خوار نہ کرے۔ یہاں تک کہ بندہ اگر معصیت و برائی کا ارادہ بھی کرے تو اسے بچالے اور اگر اچانک کسی گناہ میں پڑ بھی جائے تو اسے فوراً توبہ و انابت کی توفیق دے اور برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے آئے یہ معنی ہے اس حدیث کا (اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ) جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو گناہ اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

ولایت کے نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اسے اپنے دوستوں کے دلوں میں جگہ دیتا ہے کیونکہ ان کے دل خدا کی نگاہ کا مرکز ہوتے ہیں اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کے دلوں میں پاتا ہے تو اس کا پر تو اس پر بھی پڑتا ہے۔

بندوں میں سے ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار کرے اور ان کو

مدد دے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑ دے اور اللہ کے کام میں مدد دے اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے وہی بندوں میں سے ولی ہے۔

الْحَمِيدُ

يَا حَمِيدُ (اے حمد والے) ☆ اعداد: 62 - تاثیر: جمالی

حمید، حمد سے مشتق ہے چونکہ حمد کے لائق صرف وہی ذات ہے اس لئے اسے حمید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تعریف کا مستحق ہو کیونکہ وہ ہر کمال اور خوبی سے متصف ہے۔ غرضیکہ حمید وہ ہے جس کی صفت و ثناء بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی حمید ہے کیونکہ ازل سے ابد تک اپنی صفت و ثناء کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور اس کے بندے بھی ہمیشہ ثناء گو ہیں اور اس کا تعلق ان صفات جلال، بلندی اور کمال سے ہے جو ذکر کرنے والوں کے ذکر کی طرف منسوب ہوتی ہیں کیونکہ حمد کا مفہوم ہے، صفات کمال کا صفات کمال کی حیثیت سے ذکر کرنا۔

اللہ تعالیٰ کی صفت حمید کے بارے میں آیات حسب ذیل ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

(پ 2 بقرہ 267)

ترجمہ: اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور اپنی کمائی میں سے ناقص چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ اگر تمہیں کوئی ناقص چیز

دے تو تم نہ لو گے جب تک کہ تم اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ط وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (۱۲)

(پ 21 لقمان 12)

ترجمہ: اور بلاشبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی یہ کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بلاشبہ اس کا شکر کرنا اسی کیلئے بہتر ہے اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ غنی ہے حمد کیا گیا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (پ 28 تغابن 6)

ترجمہ: یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا بشر ہمیں راہ ہدایت پر چلائیں گے پس وہ منکر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بھی ان سے توجہ ہٹائی اور اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (پ 27 حدید 24)

ترجمہ: جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور جو منہ پھیر لے تو بیشک اللہ وہ ہے جو غنی ہے حمد کیا گیا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ط (پ 17 حج 64)

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ ہی غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(پ 22 فاطر 15)

ترجمہ: اے لوگو تم سب ہی اللہ سے مانگنے والے ہو اور اللہ وہ ہے جو غنی ہے حمید ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (پ 13 ابراہیم 8)

ترجمہ: اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جو کچھ زمین سے ہے وہ سب کا سب ناشکری کرنے لگے تو پھر بھی اللہ بے پروا ہے تعریف کیا گیا ہے۔

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

(پ 5 نساء 131)

ترجمہ: تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

الرَّاسِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

(پ 13 ابراہیم 1)

ترجمہ: اس کتاب پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی کی طرف جو اس کی راہ ہے اس پر نکال کر لے آئیں وہ غلبے والا تعریف کیا گیا ہے۔

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (پ 22 سبأ 6)

ترجمہ: اور قرآن عزت والے حمد والے کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ط
 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ○ (پ 25 شوریٰ 28)

ترجمہ: اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد ان پر بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز ہے تعریف کیا گیا ہے۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

(پ 30 بروج 8)

ترجمہ: اور ان کو مومنوں کا اللہ پر ایمان لانا اچھا نہ لگا تھا اللہ عزیز ہے حمید ہے۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
 الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○ (پ 12 ہود 73)

ترجمہ: فرشتے بولے کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے۔ حضرت ابراہیم پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔

تَنْزِيلٍ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (پ 24 حم 42)

ترجمہ: یہ قرآن کو حکمت والے حمد والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حمید، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے اور اب تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہے گا۔ اور یہ معنی جلال و کمال کی صفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال ہیں ذکر کیا جائے۔

حمد و محمدہ بمعنی صفت کرنا اور صفت کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی صفت کرتا اور ازل میں اپنے کلام سے اپنی ثنا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اپنی آیات قدرت بکھیر کر ہمیشہ اپنی صفت کرتا رہے گا۔ (لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ) ترجمہ: میں تیری ثنا کی گنتی نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے خود اپنی ذات کی ثنا کی ہے۔ یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت خود کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور حضرات اولیاء کی بھی ثنا کرنے والا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہیں ایمان احسان اور عرفان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی ثنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس کی صفت و ثنا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) ترجمہ: نہیں ہے مخلوقات میں سے کوئی چیز مگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے یا حمید بمعنی وہ ذات جو تمام حمدوں کی مستحق ہے کیونکہ وہ ہر کمال سے موصوف ہے اور ہر نعمت عطا کرنے والا ہے اور ہر حمد و ثنا اس کی ذات اقدس کی جانب رجوع کرتی ہے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ تمام اوقات و حالات میں ہمیشہ حق کی تعریف کرے اور اس امر کی کوشش کرے کہ دوسروں کو بھی کمال تک پہنچائے اور انہیں بھی نعمتیں عطا کرے تاکہ خدا کے نزدیک محمود و مدوح بن جائے اور اس کے بندوں کی نگاہوں میں بھی محمود و مدوح وہ ہے جس کی صفات، اخلاق و عادات، اعمال و اقوال اور عادات و اطوار اچھے ہوں۔ ان میں نقصان و سرکشی کا شائبہ تک نہ ہو تو ایسی کامل ہستی وہ سید رسل ہیں جن کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ ہستیاں جو اپنے مقامات و مراتب کے مطابق درجات قرب پر فائز ہیں جیسے انبیاء، اولیاء علماء و صلحا کہ ان میں سے ہر ایک اندازہ کمال و فیضان کے مطابق محمود و مدوح ہے اور حمید مطلق اللہ تعالیٰ ہے جل جلالہ و عم نوالہ

بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء و علماء ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کتنے ہی بکثرت ہوں مذمت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔

الْمُحْصِي

يَا مُحْصِي (شمار کر کے احاطہ کرنے والا)

اعداد: 148 ☆ خاصیت: جلالی

مُحْصِي کا لفظ حصار سے بنا ہے جس کا مطلب گھیر لینا ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور ہر چیز کی حدود، انتہا، تعداد اور کیفیت اس کے علم میں ہے۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں کیونکہ انسانی علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس لئے اس کی ذات نے ہمارے ہر طرف ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اس کی یہی صفت محصى ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (22 یسین 12)

ترجمہ: بے شک ہم فوت شدہ کو زندہ کریں گے ان کے آگے اور پیچھے کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کیلئے حساب لینا مشکل نہیں بلکہ جو کام انہوں نے کئے ہیں انہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے یعنی شمار کے اعتبار سے ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا کہ:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ (پ 16 مریم 93-94)

ترجمہ: تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب رحمن کے بندے بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی گن رکھی ہے۔

”مُحْصِيٌّ“ وہ ذات ہے جو اپنی معلومات کا پورے طور پر احاطہ کرے اور محصی مطلق وہ ہے جس کے علم میں ہر معلوم کی حد، اس کی گنتی، غرضیکہ ہر حالت کا پورا نقشہ ہو چونکہ انسان اپنی معلومات میں اس قسم کا علم پہنچانے سے عاجز ہے اس لئے اس کو محصی نہیں کہا جائے گا۔“

ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ:

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۚ (پ 29 جن 28)

ترجمہ: تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کے احاطہ میں ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ہر شے کا عداد و شمار اس کے علم میں ہے۔ آسمان کے تارے، زمین کے ذرے، سمندر کے قطرے، درختوں کے پتے، نفوس اور نفوس کے انفاس، اشخاص کے افعال و حرکات و سکناات غرض کہ ہر ایک چیز جو شمار میں آنے والی ہے اللہ

تعالیٰ ان سب کو گن لینے والا شمار کرنے والا ہے۔ اعداد و شمار کے متعلق ”مُحْصِي“ کا وہی تعلق ہے جو معلومات سے ”علم“ کا ہے۔

اس بات کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے۔

وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (پ 30 بئاء 29)

ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے لکھ رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے کی حد و انتہا اور اس کی تعداد و کیفیت موجود ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ انسان بعض اشیاء کے علم کا تو احاطہ کر سکتا ہے لیکن اکثر اشیاء کے احاطہ سے وہ عاجز ہوتا ہے اور ان سے جاہل ہوتا ہے کیونکہ احاطہ علم پر موقوف ہے اور علم انسانی محدود ہے جبکہ علم ربانی کی کوئی حد نہیں۔ یہی باعث ہے کہ انسان بہت سی اشیاء کو بھول جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی بھولے گا لیکن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ظاہر کر دے گا۔

اس کے بارے میں یہ آیت ہے:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ط أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ

(پ 28 مجادلہ 6)

ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا کیونکہ اللہ نے انہیں محفوظ کر رکھا ہے جسے وہ بھول گئے ہیں۔

علامہ نبھانی کا قول ہے محصى سے مراد عالم ہے لیکن جب علم کو معلومات کی طرف اس طرح منسوب کریں کہ تمام معلومات کو شامل ہو اور شمار کرے اور ان کا احاطہ کرے اسے احصاء کہا جاتا ہے اور محصى مطلق وہ ذات ہے جس کے علم میں ہر چیز کی حقیقی تعریف اس کی تعداد اور حد واضح ہو۔

اصل میں اس صفت کا تعلق چیزوں کو شمار کرنے سے ہے یعنی کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ان کی لمبائی چوڑائی اور کیفیت کیا ہے۔

بندہ کیلئے اس میں یہ درس ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اس نے آج کتنے افعال بد کئے ہیں جن کا ترک کرنا ضروری ہے۔

بندے کے اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ اس صفت علم کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے جس قدر ہو سکے کمال پیدا کرے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اعمال گنتا رہے۔ قبل اس کے کہ اس کے اعمال کو گنا جائے۔ محاسبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اس محاسبے میں سستی سے کام نہ لے بلکہ کوشش کرے تاکہ اپنے اعمال و احوال کی باریکی اور اپنے ظاہر اور باطن سے آگاہ رہے۔

اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں عقل کی قوت کو زیادہ کر دیتا ہے۔

أَمْبِدِي

يَا مُبْدِي (اے اول بار پیدا کر نیوالے)

اعداد: 56 ☆ خاصیت: جلالی

مبدي کا لفظ ابد سے بنا ہے جس کا مطلب نئی چیز کو وجود میں لانا ہے چونکہ ہر چیز کا اس کی خلقت سے پہلے وجود نہ تھا مگر اللہ نے اسے پہلی مرتبہ وجود دیا اس لئے وہ مبدي ہے۔ لوگوں کو ابتداً پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے

والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل ٹھہرنا پھر وہاں بچے کو خوراک پہنچنا، اس کے بعد بچے کا پیدا ہونا پھر بچے کے اندر قوت اور صلاحیت کا پیدا ہونا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یعنی انسان کو سالم اور صحیح انسان بنانا اللہ تعالیٰ کی صفت مبدی کا کمال ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اظہار ہوا ہے۔

إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (پ 11 یونس 4)

ترجمہ: بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا۔

أَمْنُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
(پ 20 نمل 64)

ترجمہ: بھلا کون تخلیق کے سلسلے میں پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِيُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ (پ 20 عنکبوت 19)

کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا فرمائے گا بے شک اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

(پ 21 سجدہ 7)

ترجمہ: اسی نے ہر چیز کو کیا خوب طریقے سے پیدا کیا ہے اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ (پ 30 بروج 13)

ترجمہ: بلاشبہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔

ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبدی ہے کیونکہ وہ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے تمام اشیاء کو عدم سے وجود دیا اور پیدا کیا۔ ہر چیز کی ہیئت، صورت اور بناوٹ جدا جدا ہے اور اول بار جس طرح کسی کو اللہ نے بنا دیا ہے اس جیسا اسی چیز کو پہلی مرتبہ کوئی نہیں بنا سکتا جبکہ پہلے اس کا وجود نہ ہو اس لحاظ سے اسے مبدی کہا جاتا ہے۔

اسماء الحسنیٰ غزالی میں لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے موجد۔ لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد نہ گزر چکی ہو تو اس کو ابداء کہتے ہیں اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد گزر چکی ہو تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہوگا۔

ایک اور قول کے مطابق ابداء کے معنی لغت میں نئی شے کو وجود میں لانے کے ہیں اور چونکہ مخلوقات کی خلقت سے قبل اس کا وجود نہ تھا اس لئے خدا کا نام مبدی ہوا اور اسی باعث انسان کو مبدی نہیں کہا جاتا کہ وہ ہمیشہ اپنی صنعت و حرفت میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ اپنے سے اول کی نقل کرتا ہے اور جب کسی شے سابق کو توڑ دینے کے بعد بعینہ اسی طرح وجود میں لایا جاتا ہے تو اسے اعادہ یعنی لوٹانا بولتے ہیں جس سے معید بنا ہے یعنی ہر شے کو اس کی حالت اول پر لوٹانے والا۔ اسی اسم سے یہ بات بھی حل ہوگئی کہ قیامت کے روز اسی جسم کو لوٹا جائے گا کوئی نیا جسم نہ ہوگا۔

اس اسم کا ذکر انسان میں یہ خاصیت پیدا کرتا ہے کہ اس کا ذکر جس کام کا بھی آغاز کرے وہ اللہ کا تصور ذہن میں لاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اسم توکل کی خوبی پیدا کرنے کیلئے بہت ہی بے نظیر ہے۔

الْمُعِيدُ

يَا مُعِيدُ (اے دوبارہ پیدا کرنے والے)

اعداد: 124 ☆ تاثیر: جمالی

معید وہ ذات ہے جو کسی شے کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسے پہلے کی طرح زندہ کرنے پر قادر ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موت آئے گی اور پھر زندہ کرے گا اس لئے اسے معید کہا جاتا ہے۔ یہ نام قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے مشتق ہے۔

إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (پ 11 یونس 4)

ترجمہ: بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ كُمْ مَّنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط قُلِ اللَّهُ
يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَآنِي تُوَفَّكُونَ (پ 11 یونس 34)

ترجمہ: فرمائیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرے پھر اسے دوبارہ لوٹا دے۔ فرما دیجئے کہ مخلوق کی ابتدائی پیدائش اور اس کا اعادہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے پھر تم کدھر جاتے ہو۔

أَمْنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

(پ 20 نمل 64)

ترجمہ: بھلا کون ہے جو تخلیق کے سلسلے میں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق

دیتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ۝ (پ 20 عنکبوت 19)

ترجمہ: کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا فرمائے گا، بے شک اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (پ 21 روم 11)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا پھر لوٹ کر اس کی طرف جانا ہوگا۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ
الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ
(پ 21 روم 27)

ترجمہ: اور وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اور اس طرح کرنا اس پر بالکل آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی شان اعلیٰ ہے وہ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۙ (پ 30 بروج 13)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ
خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۗ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنََّّا كُنَّا فَعَلِينَ ۝ (پ 17 انبیاء 104)

ترجمہ: جس دن آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح بوریاں لپیٹی جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم بنا دیں گے۔ یہ ہم پر وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ معید اعادت سے بنا ہے بمعنی کسی چیز

کو واپس کرنا، عدم سے وجود میں لانا اور طرح طرح کی مصنوعات اور عجیب چیزوں کو اپنے فیض سے باہر لانے والا اور عدم کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لانے والا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس کی قدرت تمام کو شامل ہے وہ ہستی جو اشیاء کو عدم سے وجود میں لاسکتی ہے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

غرضیکہ وہ ذات جس نے ہمیں اولاً خاک سے پیدا کیا اور اس طرح شائستہ اور پاک پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں مرنے کے بعد درست اور ٹھیک طور پر پیدا فرمادے تو اس کی قدرت کے آگے ابتداً پیدا کرنے سے عجیب تر نہیں ہے اور معید کو پروردگار تعالیٰ کے انعامات، فوائد، اپنے الطاف و افضال پر جو وہ بندے پر کرتا ہے پھر بندے کی بعض کوتاہیوں و مجبوریوں کی بنا پر عدم و انحطاط کی جانب لے جاتا ہے پھر عفو و کرم و احسان سے بندے کی جانب دوبارہ رجوع فرماتا ہے، پر بھی حمل کیا گیا ہے۔ سنت الہی اسی طرح جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا پھر لے لیتا ہے تاکہ نعمت کی قدر پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اس معنی کے مطابق مبدی کا معنی ہوگا انعامات کو پیدا کرنے والا یعنی بندے کو وجود اور لوازم وجود عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ لہذا بہر تقدیر اور بہر صورت بندے کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے اور ہر حالت میں اس کی رضا کا متلاشی رہے اور اس زندگی کی نعمت کے شکر یئے کے طور پر جو اسے اس جہاں میں نصیب ہوئی ہے آخرت کی زندگی کو سازگار و تابناک بنائے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ خیرات کے ابتداء کرنے اور احسانات کی بنیاد رکھنے میں سعی و کوشش کرے اور جو کچھ اس کی کوتاہی اور بے اعتدالی کی بنا پر اس سے ضائع ہو چکا ہے واپس لانے کی کوشش کرے۔

معید میں چونکہ دوبارہ واپس لوٹانے کا فلسفہ مضمحل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارنے سے ہر ایسا کام جس کا تعلق لوٹنے سے ہوگا فوراً ہوگا۔

الْمُحْيِي

يَا مُحْيِي (اے زندگی دینے والے)

اعداد: 68 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ محی ہے، وہی ہر شے میں زندگی اور روح پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ صفت نہیں کہ وہ کسی چیز میں سوائے اللہ کے حکم کے زندگی ڈال دے۔ المحی کا لفظ احیاء سے ہے جس کا مطلب زندگی دینا ہے۔ اس لئے اس کا مطلب زندگی عطا کرنے والا ہوگا۔ زندگی کا عطا کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے وہ محی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت احیاء کا بیان مندرجہ ذیل آیات میں ہوا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{لا} (پ 17 ج 6)

ترجمہ: یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بلاشبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^ط إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ^ح وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^و

(پ 21 روم 50)

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی علامتوں کو دیکھو وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ^ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ^{لا}
(پ 23 یسین 79)

ترجمہ: فرمادیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی ہر چیز کی پیدائش کو جاننے والا ہے۔

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(پ 25 شوریٰ 9)

ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لیا ہے پس اللہ ہی ہے جو مردہ چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَىٰ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ 24 حم سجدہ 39)

ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کو تو اس حال میں دیکھے کہ وہ خشک بے سبز ہو تو پھر جب ہم اس پر بارش کا پارنی برسا دیتے ہیں تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک اسی نے زمین کو زندہ کیا، جو مردے کو زندہ کرتا ہے بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۗ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

(پ 25 جاثیہ 24)

ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے جس میں ہم نے مرنا جینا ہے۔ زمانے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

(پ 25 دخان 8)

ترجمہ: اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

محی بمعنی جسم میں زندگی کو پیدا کرنے والا، محیت بمعین زندگی کو جسم سے دور کر دینے والا۔ یاد رہے کہ زندہ کرنا اور مارنا دو قسم کا ہے۔ ایک صوری و جسمانی دوسرا دلوں کو ایمان و معرفت سے زندہ کرنے والا اور کفر و ظلمت سے مارنے والا کہ یہ روحانی و معنوی زندگی و موت ہے۔ دونوں طرح کی زندگی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندے کو چاہئے کہ اس زندگی کی نعمت کے شکرانے میں مشغول رہے۔ اس فانی زندگی کو حیات ابدی حاصل کرنے میں صرف کرے اور کسی بھی سبب کو حیات و موت میں موثر حقیقی نہ جانے۔

اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو معارف الہیہ کے ساتھ زندہ کرے اور نفس کی قوت غضبیہ و شہویہ کے مارنے میں لگا رہے۔ پھر طالبوں و مریدوں کے دلوں کو انوار ہدایت سے زندہ کرنا اور گمراہی کی ظلمتوں سے ان کے نفوس کو مارنا کہ شیخ و مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو یہ بھی اسی باب میں سے ہے اور بھوکوں کو غذا دینا جو ابدان کے باقی اور زندہ رہنے کا سبب ہے نیز کافروں کے خلاف جہاد کرنا جو ناپاک لوگوں کو نیست کرنے کے مترادف ہے، بھی ان دو عظیم الشان اسماء کے ساتھ متخلق ہونے میں داخل ہے۔

الْمُحِيتُ

يَا مُحِيتُ (اے مارنے والے)

اعداد: 490 ☆ خاصیت: جلالی

الْمُحِيتُ کا لفظ موت سے ہے جس کا مطلب مارنے والا ہے۔ اس کا عام معنی تو زندگی کو ختم کر دینا ہے لیکن جب اس لفظ کا اطلاق صفات باری پر کیا جاتا ہے تو اس

سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زندگی کا خالق ہے اسی طرح موت کا بھی خالق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور قیامت آجانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس موت کو بھی ختم کر دے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی کو موت نہ ہوگی۔

موت کی مختلف کیفیات ہیں۔ موت کی پہلی کیفیت عدم کا طاری کرنا ہے یعنی تخلیق سے پہلے کا وقت ہے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کو وجود نہ دیا تھا کائنات پر عدم کی حالت تھی گویا موت کا سناٹا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ تھا اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (پ البقرہ 28)

ترجمہ: تم خدا کے کس طرح منکر ہوتے ہو کیونکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر تم پر موت طاری کرے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

موت کی دوسری صورت ہر ذی روح پر وارد ہوتی ہے جس سے انسان پر موت آتی ہے۔ اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان پر موت وارد ہوتی ہے اس کے بارے میں حسب ذیل آیات ہیں:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ (پ 3 بقرہ 258)

ترجمہ: اے محبوب آپ نے اسے نہیں دیکھا جو اپنے رب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (پ 11 توبہ 116)

ترجمہ: بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝ (پ 17 حج 66)

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا بلاشبہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (پ 18 مومنون 80)

ترجمہ: زندگی اور موت دینا اسی کے اختیار میں ہے اور رات دن کی گردش اسی کے قبضے میں ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ

(پ 21 روم 40)

ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۙ (پ 25 جاثیہ 26)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے پھر وہی تمہیں مارتا ہے پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جس کے متعلق شک نہیں ہے تم سب کو جمع کرے گا لیکن ان کی اکثریت لاعلم ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ممیت شان قدرت سے تعلق رکھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کو زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ممیت ہے کیونکہ وہی حیات اور موت کا مالک ہے، موت اس کی مخلوق ہے، ملک الموت اسی کے احکام کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ممیت ہے اور موت و حیات پر اسی کا قادرانہ حکم نافذ ہوتا ہے، موت کو اس کے دامن جلال تک پہنچنے کا یارا نہیں۔

اس اسم کی رو سے بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ ہر شے میں مولیٰ کا تابعدار بن جائے اور تمام امور خدا تعالیٰ کے سپرد کرے اور آرام و تکلیف کو اسی کی جانب سے سمجھے اور اسی سے تکلیف کے دفعیہ کی درخواست کرے۔

الْحَيُّ

يَا حَيُّ (اے ہمیشہ زندگی والے)

اعداد: 18 ☆ خاصیت: جلالی

حی وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بہ نفس نفیس موجود ہو۔ اس لئے حی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے چونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔

ایک اور قول کے مطابق حی حیات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحی اس لئے ہے کہ وہ لوازم حیات، علم و قدرت سمع و بصر اور ارادت و کلام والا ہے۔ وہ حیات

ذاتیہ کا مالک ہے۔ اسی نے ان کمالات کا مظاہرہ عالم ظہور میں دکھلایا ہے۔
حضرت امام بونی کا قول ہے کہ حیات کے معنی سراہی کے ساتھ گویائی کے
ہیں۔ وہی ظاہراً اور باطناً حرکت ہے اسی سے لطف حرارت اجرائی اہواء حرارت نفس و
معدن سر اور تدریج قدیم سر طور تریابی ملکوت اور حیات جمادات وغیرہ کی ہے۔ حکمت
اور قدرت الہی ظاہر ہوتی ہے۔ اثبات توحید اور اقرار اللہ کا یہ راز دار ہے۔ حی کے
فاعل مدرک کے بھی آتے ہیں۔ بشرط اسم کا ذکر اگر اپنی سانس جاری رکھے اور
کھانا کم کھائے کیونکہ سیر شکمی کے باعث نور و حکمت کی گنجائش نہیں ہوتی۔

علامہ یوسف نبھانی کا قول ہے کہ الحی وہ ذات ہے جو فاعل اور بہت علم والی
ہو۔ یہاں مل کہ جس میں فعل و علم بالکل نہ ہو وہ مردہ ہے اور علم و ادراک کا کمتر درجہ
یہ ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو جانتا ہو اور جو اپنا شعور بھی نہ رکھے وہ جماد ہے، مردہ
ہے۔ پس کامل و مطلق زندہ وہ ذات ہے جس کے علم میں تمام معلومات اور جس کے
فعل میں تمام موجودات ہوں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو
تمام امور انجام دیتی ہے اور ادراک کرتی ہے کیونکہ جس میں نہ کوئی ادراک ہو اور نہ
کوئی فعل انجام دیتی ہو، وہ مردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے موت و فنا محال ہے۔

حی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ط (پ 3 آل عمران 2)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ قائم ہے۔

یہی بات ایک اور آیت میں یوں بیان ہوئی ہے کہ:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (پ 24 مومن 65)

ترجمہ: وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس اس کے دین کو اخلاص

کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو رب العالمین ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ اور جاوید ذات ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کا نظام قائم ہے اور حقیقت میں وہی معبود برحق ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكَفَىٰ بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝ (پ 19 فرقان 58)

ترجمہ: اور آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کریں اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہونا کافی ہے۔

یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بھروسہ صرف اس ذات پر کیا جائے جو زندہ و جاوید ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَمِيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝ (پ 3 آل عمران 27)

ترجمہ: اے اللہ تو رات سے دن کو ظاہر کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے اور زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔

غرضیکہ الْحَيُّ وہ ذات ہے جو حیات دائمہ کے ساتھ متصف ہو جسے کبھی کوئی آفت لاحق نہ ہو جسے ازل وابد کبھی فنا نہ ہو جس کے وجود کے بغیر اس عالم کا وجود

باقی نہ رہتا ہو۔

بندے کا اس میں یہ حصہ ہے کہ درجہ شہادت حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ اور رزق پاتے ہیں۔
ایک اور قول یہ ہے کہ اس اسم میں بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایسا بن جائے جیسا کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، جیسے جی چاہے تصرف کرے۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ط (پ 16 ط 110)

ترجمہ: اور زندہ قائم رہنے والے کے آگے چہرے جھکے ہوں گے۔

ازل وابد سے اللہ تعالیٰ شانہ ہی زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آسکتی نہ ہلاک اور زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ حیات ایک صفت ہے جو علم و فعل ارادی کا موجب ہے جس میں کامل مطلق وہ ہوتا ہے کہ تمام مدرکات اس کے ادراک کے نیچے اور تمام موجودات اس کے فعل کے تحت ہوں تاکہ اس کے مدرکات سے کوئی مدرک باہر اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ رہے۔ وہ خدا تعالیٰ ہے تو وہی جی مطلق ہے۔ اس کے سوا جو جی و زندہ ہے اس کی حیات اور اس کے ادراک فعل کے بقدر ہے۔

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ جی وہ ہے جو فعل کی اعلیٰ طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحب ادراک ہو حتیٰ کہ جس میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ میت (مردہ) ہے اور ادراک کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو۔ پس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو وہ جماد اور میت ہے۔ جی کامل و مطلق ہے جس کے ادراک کے تحت میں تمام مدرکات اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں یہاں تک کہ کوئی قابل ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ رہے اور یہ ساری باتیں خاص اللہ کیلئے ہیں۔ لہذا وہ جی مطلق ہے اور اس کے سوا جو شے جی ہے اس کی حیات اس کے ادراک اور فعل کے موافق

ہے اور ایسی تمام اشیاء قلت میں محصور ہیں۔ واضح ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متفاوت ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تفاوت کے موافق ہیں جیسا کہ ملائکہ، انسان اور چوپائیوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

اس اسم سے متخلق و موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کی یاد سے زندہ رہے تاکہ پھر کبھی مرنہ سکے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق ملتا ہے وہ بڑے خوش باش ہیں۔

جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔

الْقِيَوْمُ

يَا قِيَوْمُ (اے ہمیشہ قائم رہنے والے)

اعداد: 156 ☆ خاصیت: جلالی

قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کیلئے اس کی محتاج ہو۔ اس لئے اللہ قائم ہے، دائم ہے موجود ہے، لازوال ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج (پ 3 بقرہ 255)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ قائم ہے۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ط (پ 16 ط 111)

ترجمہ: زندہ قائم اللہ کے سامنے سب چہرے جھک جائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے قائم ہے۔ یعنی جو ذات ہمیشہ کیلئے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لئے معبود ہونے کا حق بھی صرف اس کو پہنچتا ہے۔

شمس المعارف میں ہے کہ اسم قیوم لفظ قیام سے اسم مبالغہ ہے اور قائم و قیوم وہ ذات مستجمع الکمال ہے جس سے تمام موجودات قائم نہیں بغیر وجود قیوم کے کسی چیز کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ ہی قیوم ہے۔ اس لئے کہ اس کا قوام ذاتی ہے اور ہر چیز کا قوام اس کے ہاتھ میں ہے۔

اسم قیوم کی تجلی دنیا و آخرت میں ظاہر ہے۔ اس کا ظاہر ایک دائرہ ہے جو وجود میں ظاہر ہے۔ اسی نے ملکوت آسمان و زمین کے عوالم اپنی قیومیت سے قائم اسی نے عقول اور عالم ملکوتی اطوار کی تدبیر بھی اسی کی قیومیت قائم ہے۔ اسی نے عقول اور عالم ملکوتی فطرت کو قائم کیا اور عہد لیا اور تمام اجسام و ارواح و جنت و دوزخ وغیرہ کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ مشہود و شہود جمع کے ساتھ قائم ہے۔ سال دنوں سے دن ساعات سے ساعات درجوں سے درجے دقیقوں سے اور دقیقے ثانیوں سے مرتب و قائم ہیں۔ اللہ قیوم لطائف عوالم میں ذات سے ظاہر ہے اور یہی طریقہ قائم ہے۔ علقہ نطفہ سے قائم ہوا علقہ سے گوشت و ہڈیاں اور عضلے اور عضلے روابط سے اور اغشیہ شباک سے اور شباک عروق سے اور عروق گوشت خون سے قائم ہوا اور خون کی صفت قیومیت سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اختراعی یہ ہے کہ غذا جسم سے اور پانی رحمت سے اس کی ذاتی صفت ہے اور ان سب چیزوں سے قائم مجموعہ کا نام انسان ہے یعنی انسان اپنے عوالم سے قائم ہے جس کی وجہ اعمال علم سے قائم ہیں اور طلب علم دراصل طلب ترک سے ہے قائم اور دوائر عالم مع اطوار و احکام و افعال و دوائر مقام صرف راز قیومیت سے قائم ہیں۔ اسم قیوم دار آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس

دنیا میں اس راز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کرسی میں ودیعت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آسمان وزمین کو اٹھائے ہوئے ہے۔

ایک اور قول ہے کہ الٰہی جو ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ سے صفت حیات سے موصوف ہے۔ نہ کبھی عدم اس کے سابق حال ہوا اور نہ کبھی موت اس کی لاحق حال ہوگی۔ دیگر مخلوقات کیلئے ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ کا فرمان روا ہے۔

سعادت دارین میں القیوم کے بارے میں ہے کہ جوہر اگرچہ خود بخود قائم ہوتا ہے اور کسی ایسے محل سے بے پروا ہوتا ہے جو اسے قائم رکھے بخلاف اغراض و اوصاف کے (کہ وہ اپنے قیام و وجود میں کسی جوہر کے تابع ہوتے ہیں) لیکن ان امور سے مستغنی نہیں ہوتا، جو اس کے وجود کیلئے ضروری ہیں۔ پس وہ امور اس کے وجود کیلئے شرط ہیں، سو جوہر بھی خود بخود قائم نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے قیام میں دوسرے کے وجود کا محتاج ہے۔ اگرچہ کسی مکان و محل کا محتاج نہیں۔ اب اگر وجود میں ایسا موجود ہے جس کی ذات ہی اس کے وجود کیلئے کافی ہے اور اس کا قیام کسی غیر سے نہیں اور اس کے دائمی وجود کیلئے کسی اور کا وجود شرط نہیں تو یہ مطلقاً قائم بنفسہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہر موجود اس کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ اشیاء کا وجود اور دوام وجود اس کے بغیر متصور ہی نہیں، وہ قیوم ہے کیونکہ اس کا قیام اس کی ذات سے ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس سے وابستہ ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ
الْأَمْرُ دَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَإِذَا
اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملہ میں مغموم ہوتے تو سر انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ کلمات کہتے ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ اور جب دعا میں

زیادہ کوشش فرماتے تو کہتے ”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ“۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حاجت سے بے چین ہوتے تو یہ دعا مانگتے يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ (اے زندہ اور قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ دعا مانگتا ہوں) (ترمذی جلد دوم کتاب الدعوات حدیث 1453)

ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جگر گوشہ رسول سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو پڑھنے کیلئے فرمایا:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طُرْفَةَ عَيْنٍ

ترجمہ: اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کا

فریادی ہوں مجھے میرے نفس پر ایک چشم زدن کیلئے بھی مت چھوڑنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيُّ يَامُحِيْبِيْ يَامُمِيْتِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

ترجمہ: اے زندہ تو انا جب کوئی بھی زندہ نہ رہے گا اس وقت بھی تو ہی

زندہ ہوگا اے زندگی اور موت دینے والے اور اے جلال و اکرام والے

(زریں)

صوفیاء نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی اس صفت سے پکارتا ہے اللہ اس کے نہ ہونے والوں کاموں کو قائم کر دیتا ہے اور اسے اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسی اعراض اور اوصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں۔

دوم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔ جیسے جوہر لیکن جوہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے جو اس کے وجود کیلئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قیام میں گو محل کی محتاج نہیں ہیں مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بذاتہ مکلفی ہے اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کیلئے شرط ہے وہ مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو تو قیوم ہے کیونکہ اس کا اپنا قیام بذاتہ ہے اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔

قیوم یعنی اپنی ذات سے قائم اور اپنے غیر کو قائم اور زندہ رکھنے والا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اشیاء کا وجود بقا اس کی ذات کے بغیر ممکن و متصور نہیں ہو سکتا اور لوگوں کی بقا اس کی قیومیت سے وابستہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیوم قیوم کا مبالغہ ہے اور قیوم مصلح امور کو کہتے ہیں اور اسے جو لوگوں کے امور کو صلاح و تدبیر کی جانب لاتا ہے اور جو صلاح و درستی کا راستہ بھولنے والا اور بندوں کے مسائل معاش و مفاد کو درست کرنے والا ہے جو شخص جان لیتا ہے کہ اشیاء کو قائم رکھنے اور امور کی اصلاح کرنے والا وہ ہے جو وہ خود تدبیر کرنے کی مشقت سے نجات پا جاتا اور اپنی زندگی کو راحت میں کر لیتا ہے اور اس کے سایہ توکل و تفویض میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس صفت سے بندے کا حصہ اس قدر ہے کہ جتنا وہ غیر خدا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بندے کیلئے اس صفت سے یہ بھی حصہ ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور ان کے امور کی اصلاح کرتا ہے۔

الْوَّاحِدُ

يَا وَاحِدُ (ہر چیز کو اپنے ہاں پانے والے)

اعداد: 14 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے اور واحد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر شے ہر وقت حاضر رہے اور کوئی بھی شے کسی وقت اس کے سامنے سے غائب نہ ہو یعنی واحد وہ ذات ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کرے تو اسے اپنے سامنے موجود پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک بے پروا قسم کا غنی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور اسے کسی چیز کو پانے کیلئے کسی کو کہنا نہیں پڑتا۔

امام بونی کا قول ہے کہ واحد وہ ذات کامل ہے جس سے ایسی بات فوت نہ ہو جو اس کیلئے صفات الہیہ میں سے ضروری ہو۔ واحد، واحد مطلق اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی معبود اور موجود نہیں ہے۔

سعادت دارین میں ہے کہ واحد وہ ذات جس کے پاس ہر لازمی چیز موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کمال لازمی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں، اس اعتبار سے وہ واحد ہے۔ وہی واحد مطلق ہے۔ اس کے سوا دوسرے اگرچہ کچھ صفات کمال اور ان کے اسباب رکھتے ہیں لیکن دیگر سے محروم ہیں۔

صفت واحد کا مطلب قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے لیا گیا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (پ 5 نساء 64)

ترجمہ: پھر جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آئیں اللہ

سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کیلئے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مِّمَّ بَقِيَعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (پ 18 نور 39)

ترجمہ: اور کفر کرنے والوں کے عملوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی خشک ویرانے میں سراب ہو اور پیاس والا اسے پانی سمجھ لے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں تو وہاں کچھ بھی نہ پائے مگر اللہ کے ہاں موجود پائے تو اس نے اس کا حساب پورا کر دیا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي ۗ ط (پ 30 الضحیٰ 8)

ترجمہ: اور آپ کو ضرورت مند پا کر غنی کر دیا۔

پس اللہ تعالیٰ اس لئے واجد ہے کہ موجود حقیقی اور ہستی مطلق اسی کو حاصل و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لئے واجد ہے کہ جملہ موجودات پر اسے احاطہ حاصل ہے۔

انسان کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی ذات میں وجدان و حضور کی کیفیت پیدا کرنے کی سعی کرے یعنی کوئی کام مرضی مولیٰ کے بغیر نہ تو کرے اور نہ اسے اس کی منشاء کے بغیر ترک کرے تاکہ اپنی مراد اور مقصود کا واجد ہو اور بفضل اللہ تعالیٰ ماسوا اللہ سے مستغنی ہو جائے۔

واجد وہ ہے جس کیلئے کوئی شے نایاب ہو اور وہ فاقد (تنگ دست) کا مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ہاتھ نہ آئی ہو جو اس کے وجود کیلئے ضروری نہیں اس کو فاقد نہیں کہا جاتا اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات سے اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اس کو واجد (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کیلئے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو اور جو امر صفات الہیہ اور ان

کے کمال کیلئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کیلئے موجود ہے۔ پس وہ اس لحاظ سے واجد ہے اور واجد مطلق ہے اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں۔

شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ واجد موجود سے بنا ہے وجود بمعنی ہستی اور مطلوب کو پانا۔ وجد اور وجدہ بمعنی دولت مند ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واجد الوجود ہے۔ کوئی مراد اور کوئی مقصود اس سے گم نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز بھی اس کے وجود کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے کہ کسی چیز اور کسی شخص کی جانب محتاج نہیں اور نہ وہ کسی کا نیاز مند ہے۔ اس کا غیر جو بھی ہے وہ ایک لحاظ سے شے کو پانے والا اور دوسرے لحاظ سے شے کو گم کرنے والا ہے۔ بعض چیزوں سے بے نیاز ہے اور بعض کا محتاج ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وجد بمعنی علم بھی آیا ہے۔ تمام چیزیں جس صفت اور جس کیفیت میں بھی ہیں اس کے علم میں ثابت اور موجود ہیں۔ پھر واجد غنی اور علیم میں یہ فرق بیان کیا جاسکتا ہے کہ غنی میں دو چیزیں ہیں ایک تو جس چیز کو وہ چاہئے وہ اسے حاصل ہو اور غیر کی جانب محتاج نہ ہو۔ پہلے اعتبار سے واجد ہے دوسرے اعتبار سے غنی۔ اسی طرح علم میں انکشاف و حصول ہے۔ پہلی حیثیت سے علیم ہے دوسری حیثیت سے واجد ہے۔ واللہ اعلم۔

بندے کو چاہئے کہ حق کی مراد کے تابع رہے اور اسی کا اپنے آپ کو محتاج جانے اور اس کے علم سے آگاہ رہے۔ اس صفت سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ ضروری کمالات کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرے تاکہ اپنی مراد کو پالے اور اپنا مقصود حاصل کرے اور ماسوائے حق سے خدا سے خدا کے فضل کے ساتھ بے نیاز ہو جائے۔ جو شخص اس نام کو بہت پڑھے اس کا دل غنی ہو جائے گا اور جو چیز اللہ سے مانگے ضرور ملے گی۔ اہل طریقت کو اس اسم کے ذکر سے معرفت نفس حاصل ہوتی ہے۔

اِمْلَاجِدُ

يَا مَاجِدُ (بزرگی اور عزت والے)

اعداد: 48 ☆ تاثیر: جمالی

ماجد کا مطلب انتہائی عزت و شرف والا ہے۔ سب سے زیادہ بزرگی اور عزت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمام انسانوں کی عزت اور بزرگی اس کی ذات سے وابستگی کی بنا پر ہے۔

ماجد مجد سے مشتق ہے جس کے معنی انتہائی عزت و شرف کے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کا نام اس باعث ہے کہ وہ تمام موجودات میں سب سے بلند قدر ہے اور سب سے زیادہ شرف کا مالک ہے بلکہ تمام موجودات کا شرف اسی کی ذات سے وابستہ ہے اور یہ اسم دراصل مجید کے معنی میں ہے لیکن مجید کے معنی میں اس سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ مجد لفظ کا ذکر ترمذی کی ایک طویل حدیث میں ہوا لیکن یہاں صرف متعلق اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ وَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنَّعْمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو مہربانی فرماتا ہے اپنے عزوجل کے ساتھ اور فرمایا یہی پاک ہے وہ ذات جس نے لباس بزرگی کا پہنا اور اسی کے ساتھ کریم ہوا۔ پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح نہیں لائق مگر اسی کیلئے۔ پاک ہے وہ ذات جو

فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بزرگی اور کرم والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات صاحب جلال اور صاحب کرم ہے (ترمذی جلد دوم کتاب دعوات حدیث

(1345)

بندے کا اس میں یہ حصہ ہے کہ مخلوق سے ارادہ اٹھا کر حقائق سے رابطہ قائم کرے۔ اس طرح بلند ہمتی اور اچھے حال سے وہ بزرگ ہوگا۔

ماجد بمعنی مجید ہے جس طرح عالم بمعنی علیم ہے لیکن مجید میں مبالغہ و تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بالغ و کامل ہیں لیکن کبھی الفاظ میں مبالغے اور تاکید سے خبر دی جاتی ہے اور کبھی اصل معنی پر اکتفا کر دیتے ہیں جو کہ اصل ذات میں ہوتا ہے کسی اور لفظ کے دلالت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کیلئے باعزت کر دیتا ہے۔

الْوَّاحِدُ

يَا وَاحِدُ (اپنی ذات میں اکیلا) اعداد: 19 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ واحد ہے اور واحد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اس جیسا کوئی نہ ہو صرف وہی اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہو۔ اس کی صفات بے مثل ہوں یعنی واحد وہ ذات ہے جو کسی بھی معاملہ میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو البتہ ہر کوئی اس کا محتاج ہو اور وہ اپنی مخلوق کی ہر حاجت کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے واحد ہے اور ہر کوئی اس کے کرم کا محتاج ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ واحد وہ ہے جو نہ تقسیم ہو، نہ دو ہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے وال چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزو لا یتجزے) اور جو تقسیم نہ ہو اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح

نقطہ کا کوئی جزو نہیں اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے اور جو چیز دو نہ ہو سکے یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ مثلاً سورج کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ وہما منقسم ہو سکتا ہے لیکن اس کی نظیر نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہو پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے وہ ازلاً وابداً واحد مطلق ہے۔

وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۙ

(پ 2 بقرہ 163)

ترجمہ: اور تمہارا معبود وہی معبود واحد ہے، نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی رحمان ہے رحیم ہے۔

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (پ 6 نساء 171)

ترجمہ: بے شک اللہ معبود واحد ہے وہ پاک ہے اس کیلئے کوئی اولاد نہیں۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ (پ 6 مائدہ 73)

ترجمہ: اور کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود ہے۔

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

(پ 7 انعام 19)

ترجمہ: فرمادیتے کہ بے شک وہ معبود واحد ہے اور بے شک میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ سُبْحٰنَهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ 10 توبہ 31)

ترجمہ: اور انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم تھا اس کے سوا اور کوئی

معبود نہیں وہ ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے پاک ہے۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ
وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (پ 14 نحل 22)

ترجمہ: تمہارا معبود واحد ہے ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں انکار ہے اور وہ متکبر ہو گئے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ
فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ۝ (پ 14 نحل 51)

ترجمہ: اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا لو بے شک وہ تو واحد معبود ہے لہذا اسی سے ڈرتے رہو۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ (پ 16 کہف 110)

ترجمہ: بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(پ 17 انبیاء 108)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے تو کیا تم اس کو تسلیم کرتے ہو۔

فَالِهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ

(پ 17 حج 34)

ترجمہ: پس تمہارا معبود واحد معبود ہے اسی کیلئے سر خم تسلیم ہو جاؤ اور تواضع کرنے والوں کیلئے خوشخبری ہے۔

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۖ (پ 23 صافات 4)

ترجمہ: بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَّ

وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (پ 21 عنکبوت 46)

ترجمہ: اور یہ کہو کہ جو ہم پر اترا اور جو تم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسے تسلیم کئے ہوئے ہیں۔

يَصَاحِبِي السَّجْنِ ءَ اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط

(پ 12 یوسف 39)

ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک خدا بہتر ہے جو واحد ہے قہار ہے۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 13 رعد 16)

ترجمہ: فرمادیتے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد ہے زبردست ہے۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ۝ (پ 13 ابراہیم 48)

ترجمہ: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیئے جائیں گے اور ایک اللہ کے سامنے آجائیں گے جو قہار ہے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنذِرٌ مِّمَّنْ وَّمَا مِنْ اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؕ

(پ 23 ص 65)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو واحد ہے زبردست ہے۔

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صُطِفِيْ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَسُبْحٰنَهُ ط

هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 23 زمر 4)

ترجمہ: اگر اللہ چاہتا کہ وہ اپنے لئے کسی کو بیٹا بنائے تو وہ مخلوق ہی میں

سے جسے چاہتا جن لیتا وہ پاک ہے وہ اللہ واحد ہے قہار ہے۔

واحد بمعنی ایک وحدت ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے اور

اپنی صفات کمال میں بھی یگانہ ہے۔ یاد رہے یہ وہ ایک نہیں جو کہ عدد کی ابتداء ہوتی ہے کیونکہ عدد محدود ہوتا ہے اور ایک انتہا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ سبحانہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور ضدوں کو جمع کرنے والا بھی وہی ہے۔ عرف میں واحد کے دو معنی آتے ہیں ایک وہ ذات جو جز جز اور بعض بعض نہ ہو سکے جیسے جو ہر فرد دوسرا معنی ہے وہ ذات جو بے مثل اور بے مثال ہو جس طرح آفتاب جس کی نظیر نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر پیدا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ ایسا منفرد اور موجود ہے جس کے وجود کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اس کے وجود کی نظیر ممکن نہیں ازلاً وابدأ واحد مطلق وہی ہے بندہ کبھی واحد ہوتا ہے جبکہ انسانوں میں کوئی شخص اس کی خصلتوں میں سے کسی خصلت میں اس جیسا نہ ہو کسی وقت بھی اس کی مثل اور کوئی نہ ہو باوجودیکہ دوسری خصلت میں اس جیسا کوئی دوسرا موجود ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی واحد علی الاطلاق نہیں ہے اور جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال میں واحد ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں تو چاہئے کہ اس کی جانب متوجہ رہے اور کسی بھی غیر کو اس کا شریک نہ بنائے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ ممکنات کے اندر فضل و کمال میں متوحد اور یگانہ بنے۔ یہ بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی یکتا رہے جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہیت میں ایک ہے۔ بندے کو چاہئے کہ یکجہت و یک روح اور یک دل ہو کر ذات واحد کی جانب متوجہ رہے تاکہ وحدت کے فیض سے مشرف اور توحید کی گہرائی میں ڈوب جائے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ ایک ہی زبان سے کہے۔ ایک ہی جانے ایک ہی دیکھے اور ایک کو ہی تلاش کرے جو کچھ دیکھے اس کی طرف سے دیکھے اور اسی کی طرف سے جانے۔

از بہر آں یکے دو جہاں وادہ ام بباد
عیلم مکن کہ حاصل ہر دو جہاں یکے ست

ترجمہ: میں نے اس ایک ذات کیلئے دونوں جہان کو قربان کر دیا مجھے عیب نہ لگا کہ دونوں جہان کا حاصل اور خلاصہ وہی ایک ذات ہے۔
منقول ہے کہ حضرت شبلی قدس سر اللہ اللہ العزیز ایک رنگریز کی دکان کے پاس سے گزرے جو کہ یہ آواز لگا رہا تھا لوگو! میرے پاس ایک ہی رنگ باقی رہ گیا ہے۔
حضرت شبلی یہ سن کر وجد میں آگئے اور فریاد کرنے لگے کہ ایک کے سوا اور کیا باقی ہو سکتا ہے۔

واضح ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو جامع ترمذی و عوات بہیقی اور شرح السنۃ میں آئی ہے اس میں اسم الاحد نہیں آیا لیکن جامع الاصول میں الواحد الاحد دونوں اسم آئے ہیں۔ ان دونوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے احد اور صفات کے اعتبار سے واحد ہے۔ بعض اس کا الٹ بیان کرتے ہیں اور کبھی یوں بھی کہتے ہیں کہ واحد بمعنی ایسی ذات جس کی جزیں جزیں نہ ہو سکتی ہوں اور احد ایسی ذات جس کی نظیر ممکن نہ ہو۔ (شرح مشکوٰۃ)

الْأَحَدُ

يَا أَحَدُ (اے یکتا و یگانہ) ☆ اعداد: 13 - خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ احد ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یکتا اور یگانہ ہے۔ یہ صرف اس کی ذات ہی ہے جو احد ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اس لئے احد کا لفظ کسی اور کیلئے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ احد ہے اس کے مثل کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یعنی آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اور اسلام کے عقیدہ توحید میں بھی اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احد تسلیم کیا جائے کیونکہ وہ معبود برحق ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہی

اصل میں ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تخلیق کے اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا وہ تخلیق کرنے میں بھی احد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ وہی صرف ہمارا اکیلا خدا ہے۔ اس کی ذات ہر لحاظ سے یکتا اور ایک جیسی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو احد تصور کرنا مسلمانوں کے عقیدہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔

اہل تصوف کے نزدیک احدیت کا مقام انتہائی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس شان احدیت کا مشاہدہ اہل باطن ہی کرتے ہیں اور احدیت کی تعلیم پر بہت زور دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں دو انگلیوں سے اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد احد تو جب شمار الیہ اور ہے تو اس کیلئے بوقت اشارہ ایک انگلی ہی سے اشارہ کیا جائے لہذا اہل توحید کیلئے لازم ہے کہ احدیت کی تسلیم سے مکمل کریں اور دل میں احدیت کے مسئلے پر اپنے دل میں نیت افعال و اعمال میں اخلاص اور صدق پیدا کیا جائے اور ان کی مواضبت حفاظت بندہ کو اسم احد کے انوار سے فیض یاب کر سکتی ہے۔

شیخ محقق عبدالحق نے فرمایا ہے کہ فضل و کمال میں یگانہ روزگار ہو کر رہے جس طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک الوہیت میں یکتا ہے اسی طرح یہ فرائض عبودیت ادا کرنے کیلئے بھی یکتا ہونا چاہئے۔

اہل لغت نے اگرچہ احد اور واحد میں تھوڑا سا امتیاز کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ احد وہ ہے کہ جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی اس کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ صفات کیلئے واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مگر بعض علماء نے یوں بھی کہا ہے کہ واحد وہ ذات ہے کہ جسے دو نہیں کیا جاسکتا اور احد وہ ذات ہے جس جیسا کوئی اور نہیں بن سکتا۔ یعنی کوئی دوسری ذات

اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس انفرادیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنا اللہ سے دوستی قائم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔

الْصَّدُ

يَا صَدُّ (اے بے نیازی والے)

اعداد: 134 ☆ تاثیر: جمالی

صمد کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل نہیں۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے۔ صمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو۔

ایک قول کے مطابق صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے اور ضروریات کیلئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی کا ایک اور مطلب یوں بھی بیان ہوا ہے کہ صمد یعنی ایسا سید و سردار جس کے تمام مطالب و آرزوئیں اس کی اس درگاہ کی جانب رخ رکھتی ہوں۔ صمد بمعنی قصد بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور آفات سے منزہ اور تمام کمالات کا جامع ہے۔ اس اعتبار سے صمد بمعنی مصمد ہوگا اور وہ چیز جس کا اندر خالی نہیں ہوتا یہ لفظ مصمد میں ایک لغت ہے۔ اس اسم کی روشنی میں بندے کو چاہئے کہ ہمیشہ اسی کی درگاہ کی جانب دوڑنے کا قصد کرے۔ اپنے تمام مقاصد و حاجات اسی سے حاصل کرے اور اسے

تمام نقائص اور آفات سے منزہ جانے۔ اسی سے مدد اور اپنا کمال چاہئے اور اپنا چہرہ اس سے ہٹا کر دوسری طرف نہ کرے۔

صمد کے بارے میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف حاجتوں میں رجوع اور مرغوبات میں قصد کیا جائے اور جس ذات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دینی و دنیاوی مشکلات کے حل کا مرکز بنائے اور اس کے ہاتھ و زبان سے مخلوق کی حاجت براری فرمائے۔ یقیناً اس کو اس وصف کا فیضان نصیب ہوا لیکن مطلق وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کرے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس سے بالاتر کوئی نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔

حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصمد وہ سید ہے جو سیادت میں کامل ہو۔ وہ مالک شرف جو شرف میں کامل ہو وہ عظیم جو عظمت میں کامل ہو، وہ حلیم جو حلم میں کامل ہو، وہ علیم جو علم میں کامل ہو، و حکیم جو حکمت میں کامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ جملہ انواع شرف و سیادت میں کامل ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی صمد ہونے کی شان نہیں رکھتا۔ اس کا کوئی کفو نہیں۔ اس کی کوئی مثل نہیں واحد القہار وہی ہے۔

حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الصمد وہ حی القيوم ہے جسے زوال نہیں۔

غرضیکہ الصمد وہ ہے جو پیدا شدہ نہ ہو جس سے کوئی پیدا نہ ہو کیونکہ ہر ایک پیدا کیلئے موت ہے۔ ہر ایک مرنے والے کیلئے ورثہ ہے، اللہ تعالیٰ کیلئے نہ موت ہے نہ وارث، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں اور کوئی اس کی مثال نہیں۔

اللہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و نبوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی زبان اور ہاتھوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کراتا ہے تو اس کو اس اسم کے معنی سے اس نے حصہ بخشا ہے لیکن صمد مطلق وہ ہے کہ تمام حوائج میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ ہے۔

اس اسم سے متعلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ محتاج لوگوں کی کارسازی اور طالب کی حاجات کے پورا کرنے میں کوشش کرے۔ بری عادتوں اور لذات و شہوات کی جانب جھکنے سے نفرت کرے تاکہ تمام حاجات بندگان خدا کا مصدر و مرجع بن جائے اور تمام آفات و نقائص سے محفوظ و مامون ہو جائے اور احکام دین کی رعایت کرنے میں پختہ۔ و سخت ہو جائے نیز علم و یقین کے راستے میں متمکن و مستقیم بن جائے۔

المختصر صمد اللہ کی وہ صفت اور شان ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے اور ان کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے اور ان کی ذات کو دوسروں کیلئے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔

الْقَادِرُ

يَا قَادِرُ (اے زبردست قدرت والے)

اعداد: 305 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے باختیار ہے جو چاہے کر لے۔ اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے اور جو چیز موجود ہو اسے یکدم ختم کرنا بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کلام الہی میں اس صفت کے اظہار کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(پ 7 انعام 37)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو نشانی چاہے اتارے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانے پر پوری طرح قادر ہے۔ ایک اور مقام پر تخلیق پر قادر ہونے کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ ط فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا

كُفُوْرًا ۝ (پ 15 اسرا ئیل 99)

ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسا پیدا کر دے اور اس نے

ان کیلئے عرصہ کی حد مقرر کر دی ہے جس میں شک نہیں ہے پس ظالموں نے ناشکری کے طور پر اس کا انکار کر دیا۔

یہی بات ایک اور مقام پر یوں بیان کی گئی ہے کہ:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ (پ 23 یسین 81)

کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے۔ ہاں وہی خالق ہے اور علم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝ (پ 26 احقاف 33)

ترجمہ: کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور ان کی تخلیق میں اسے ذرا بھی تھکن نہ ہوئی وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ (پ 29 قیامہ 40)
ترجمہ: کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے۔
إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۗ (پ 30 طارق 8)

ترجمہ: بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جملہ ممکنات کی اسی کی قدرت کا جلوہ ہے۔ جملہ تغیرات ارضی و سماوی روحی و مادی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے سب کی طاقتیں ہیچ ہیں اور اس کی قدرت کے

سامنے سب کے دعوے ہیچ ہیں۔

اس کی طاقت کے اظہار کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ قادر ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ اس کی قدرت کا جلوہ ہر چیز سے عیاں ہے۔ اللہ قادر ہے کہ تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے موت کی وادی میں اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، زمین و آسمان اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی قدرت اتنی وسعت والی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ اسم جلالی ہے اس کے اعداد 305 ہیں۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا اپنے نفس پر قادر ہو جاتا ہے یعنی اس کا نفس پوری طرح اس کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور اس طرح اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کے بعد قادر مطلق کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قادر وہ ہے جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے اور اس کیلئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی وقت قیامت برپا کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کر دے۔ اگر برپا نہیں کرتا تو اس لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی میعاد اور وقت مقدر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا اور قادر مطلق وہ ہے جو ہر موجود کو از سر نو بناتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی امداد سے مستغنی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے لیکن وہ ناقص ہے کیونکہ وہ صرف بعض ممکنات کو حاوی ہوتی ہے اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے جبکہ اس کے مقدور کے تمام اسباب وجود مہیا ہو جاتے ہیں۔

شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ قادر حقیقی وہ ذات ہے جو ہر موجود کا اختراع کر سکتی

ہے اور اس اختراع اور بنانے میں وہ یگانہ اور بے نیاز ہو۔ اسے کسی کی مدد لینے کی محتاجی نہ ہو۔ ایسی ذات صرف خداوند تعالیٰ جل جلالہ ہے۔ بندے میں اگرچہ قدرت ہے مگر خدا کے عطا کرنے سے ہے وہ بھی بعض چیزوں میں بعض حالات میں ناقص قدرت کے تحت پھر بندہ جن چیزوں کو بناتا ہے وہ خدا کی قدرت کے تابع ہیں۔ لہذا بندہ اس لائق ہے کہ اسے قادر نہ کہا جائے گا بصورت مجاز اور کسی خاص چیز کیلئے ثابت ہوا کہ قادر علی الاطلاق صرف وہی ہے جو شخص پہچان لیتا ہے کہ بطریق کمال قادر علی الاطلاق وہی ذات ہے جس کو چاہے کر سکتا ہے چاہے تو نیست کو ہست کر دے۔ چاہے تو ہست کو نیست، تو بندے کو چاہئے کہ ہمیشہ اس کے قہر سے ڈرتا رہے اور اس کے لطف کا امیدوار رہے۔ اس کے حکم و ارادے کے تحت اپنے آپ کو رکھے جب یہ بھی بندے کو معلوم ہو جائے کہ مولائے قدوس انتقام لینے پر قادر ہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے انتقام نہ لے اور اسے رنج نہ پہنچائے۔ اس اعتقاد کے تحت کہ خدا کی قدرت اور اس کا انتقام نفس کیلئے میرے انتقام لینے سے زیادہ سخت اور زیادہ کامل ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کی صورت یہ ہے کہ بندہ نفس کو شریعت کی مخالفتوں سے روک کر رکھے۔ شیطان کی گمراہیوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنی طبعیت اور خواہش کو شہوتوں اور لذتوں کی جانب میلان کرنے سے روکے۔

اَلْمُقْتَدِرُ

يَا مُقْتَدِرُ (اے اقتدار والے) اعداد: 744 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ مقدر ہے یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اقتدار اور طاقت والا اللہ ہی ہے۔ تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی بندہ اور کوئی مخلوق اس کے حکم اور توفیق کے بغیر کسی کام پر اختیار اور کوئی قدرت نہیں رکھتی کیونکہ ہر چیز پر اللہ کی

طاقت مسلط ہے۔ اس لحاظ سے تمام موجودات کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ مقتدر قدر سے بنا ہے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب قدرت رکھنے والا ہے۔

البتة الْمُتَّقِدِرُ میں بمقابلہ اسم قادر مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قدرت تامہ و کاملہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ میں ہر لحاظ سے باختیار ہے جو چاہے کرے اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے اور وجود کو ختم کرنے میں اسی کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا۔ کوئی انسان اور کوئی مخلوق اس کے حکم اور توفیق کے بغیر کسی کام کا اختیار نہیں رکھتی کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مسلط ہے۔ تمام موجودات کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (پ 15 کہف 45)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

أَوْ نُورِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (پ 25 زخرف 42)

ترجمہ: ہم آپ کو ان کا وہ انجام دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے پس ہم ان پر مقتدر ہیں۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (پ 27 قمر 42)

ترجمہ: انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح غلبے والا صاحب اقتدار پکڑتا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ لَّ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ

مُقْتَدِرٍ (پ 27 قمر 54-55)

ترجمہ: بے شک اہل تقویٰ باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچائی کے اعلیٰ مقام جو ذی وقار بادشاہ کے پاس ہیں کے قریب ہوں گے۔

اس اسم کے ذاکر کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کرواتا ہے اور ایسے کاموں میں جب اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کی فوراً مدد ہوتی ہے اور وہ کام سرانجام پا جاتے ہیں۔

الْمُقَدِّمُ

يَا مُقَدِّمُ (اے مقدم) ☆ اعداد: 184 - خاصیت: جلالی

اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اور انہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یعنی مقام اور قرب میں آگے کر دینا مقدمہ کہلاتا ہے اس لحاظ سے اللہ مقدم ہے کیونکہ وہ بعض کو بعض پر مقدم کر دیتا ہے۔

ایک اور قول ہے کہ مقدم وہ ذات ہے جو بعض اشیاء کو بعض پر وجود میں مقدم فرماتی ہو جیسا کہ اسباب کو مسببات پر، باپ کو بیٹے پر مقدم کیا جاتا ہے یا اپنی قربت اور عزت میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہو جیسے انبیائے کرام اور صالحین کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی اور مؤخر وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں کو اپنے قرب سے دور فرماتی اور بعضوں سے مؤخر کرتی ہے اور گناہگاروں کی سزا میں تاخیر فرماتی ہے اور وہ صرف ذات خداوندی ہے جسے چاہے دنیا و آخرت میں درجات عالیہ عطا فرما کر مقدم فرما دے اور جسے چاہے مؤخر فرما دے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

صاحب شمس المعارف نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ حاکم اعلیٰ جب کسی کو اپنے قرب میں مقام عطا فرماتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ نے فلاں شخص کو مقدم کیا ہے۔ یہ تقدیم کبھی مکانی ہوتی ہے اور کبھی درجات میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر مقدم کر رکھا ہے۔

قرآن مجید میں مقدم کے لفظ کا مفہوم بیان ہوا ہے کہ:

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝ (26 ق 28)
 ترجمہ: اللہ فرمائے گا کہ میری بارگاہ میں جھگڑا نہ کرو میں تو پہلے ہی تمہیں
 وعید سے باخبر کر چکا ہوں۔ یہاں مقدم کا لفظ پہلے سے باخبر کرنے کے
 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

سعادت دارین میں لکھا ہے کہ مقدم سے مراد وہ ذات ہے جو قریب کرے اور
 دور کرے جس کو اس نے قریب کیا اسے آگے کیا جس کو دور کیا اسے پیچھے کر دیا۔ اس
 میں ایک مقصود مرکز لازمی ہے جو غایت ہو، اسی کی نسبت آگے ہونے والا آگے ہو
 اور پیچھے ہونے والا پیچھے ہو۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے نزدیک مقدم وہ ہے
 جو اس کے قریب ہے، ہر پیچھے والا، اپنے سے آگے والے کی بہ نسبت پیچھے اور اپنے
 پیچھے والے کی بہ نسبت آگے ہوتا ہے اور آگے پیچھے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مراد
 یہ کہ وہ مرتبہ میں کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنے والا ہے۔

مقدم تقدیم سے بنا ہے بمعنی آگے کرنا، تاخیر، پیچھے ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ذات
 ہے جو اپنے دوستوں کو اپنی درگاہ عزت کے نزدیک کرتا اور اپنے قرب کی درگاہ کا
 راستہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح دین کے دشمنوں کو پیچھے ڈالتا اور دور پھینکتا ہے اور ان کے
 اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے تو جسے اس نے نزدیک کیا اسے گویا اس نے آگے
 کیا اور جسے اس نے دور کیا اسے شرف و رتبے سے پیچھے کر دیا۔ یاد رہے تقدیم و
 تاخیر کبھی تو جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی زمانے کے اعتبار سے اور کبھی شرف و رتبہ
 کے لحاظ سے سب کو خدا کی طرف سے رتبہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
 نے اس جہان میں وجود عطا فرما کر پہلے ظاہر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سب انبیاء کے بعد مگر قیامت کے دن اس کا الٹ ہوگا اسی طرح حضور علیہ السلام
 کی امت کی نسبت دوسری امتوں کا حال ہوگا جیسا کہ فرمایا ”نَحْنُ الْآخِرُونَ
 السَّابِقُونَ“ ہم سب سے آخر ہیں دنیا میں، سب سے آگے ہوں گے یعنی

آخرت میں قرآن مجید میں فرمایا ”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ“ اور سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ یہی لوگ مقرب ہوں گے۔ جب بندے نے جان لیا کہ تقدیم و تاخیر خدا کی طرف سے ہے تو چاہئے کہ اپنی قوت و طاقت سے اظہار بیزاری کرے۔ اپنے عمل پر اعتماد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اپنی نگاہ منحصر کر دے۔ اس اسم سے متخلق نہ ہونے والے کو پیچھے کرے۔ ایسے لوگوں کو بھی پیچھے ڈال دے جو خیر سے لوگوں کو روکنے والے ہیں اس کے برعکس ان لوگوں کو مقدم و معظم رکھے جنہیں خدائے تعالیٰ نے بھی مقدم اور مقرب بنایا ہے اور ان لوگوں کو پیچھے جانے اور حقیر سمجھے جنہیں خدائے سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے کیا اور دور ڈال دیا ہے۔ (شرح مشکوٰۃ)

جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھے گا اس میں نیک کام کرنے کی خصلت پیدا ہو جائے گی۔ دینی فرائض ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔

أَمْوَأَخِرُ

يَا مَوْأَخِرُ (اے پیچھے کرنے والے)

اعداد: ۸۴۶ ☆ خاصیت: جلالی

مؤخر کا مطلب اپنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ اللہ اس اعتبار سے مؤخر ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اب بھی راہ راست کی طرف آجائیں۔ اس طرح گناہگاروں کی سزائیں تاخیر کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ مؤخر ہے۔ مؤخر کا مطلب مہلت دینا بھی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط

(پ 13 ابراہیم 10)

ترجمہ: وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ط إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ لا (پ 13 ابراہیم 42)

ترجمہ: اور یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ بے شک وہ انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

یہی بات سورت نوح میں یوں بیان ہوئی ہے کہ:

يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (پ 29 نوح 4)

ترجمہ: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور مقررہ وقت تک تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع دے گا۔ بے شک اجل جب آتی ہے تو ٹلتی نہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کاش کہ تم یہ جانتے ہوتے۔

پس ان آیات کی روشنی سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤخر ہے کیونکہ بعض چیزوں کے خاتمہ اور انجام کو مؤخر کر رکھا ہے جس میں اس کی قدرت کاملہ کی حکمت شامل ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مقدم و مؤخر وہ ہے جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کرتا ہے اس کو مقدم کرتا ہے جس کو دور ہٹاتا ہے اس کو مؤخر

کرتا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہ راست پر چلانے کیلئے مقدم کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دور ہٹا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخر کر دیتا ہے۔

مثلاً ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدم کیا، یعنی اس کو دوسرے شخص کے آگے رکھا۔

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے اور کبھی متبہ میں۔ اور بہر حال پیچھے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لابدی ہے جو اصلی غرض و غایت ہو جو مقدم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لابدی ہے جو اصلی غرض و غایت ہو جو مقدم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اور جو متاخر ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہے۔

اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے پھر انبیاء کو، پھر اولیاء کو اور ہر متاخر اپنے ما قبل کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کی نسبت سے مقدم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو تو آخر وہ ذات بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کیلئے اکسایا ہے یا جس نے صراط مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مقدم اور مؤخر ہے اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اس اسم کی سب سے بڑی خہ وصیت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے سے برائی دور ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا دل نیک کاموں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس اسم کا ذکر ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں دل سے چاہتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔

الْأَوَّلُ

يَا أَوَّلُ (اے سب سے اول) اعداد 37 معتدل

اللہ اول ہے، اس سے اول کچھ نہ تھا بلکہ وہ بذات خود ہی تھا اور نہ اس کا کوئی آغاز ہے کہ کسی کو معلوم ہو کہ وہ کب سے ہے۔ یاد رکھو کہ جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا اس لئے ہر لحاظ سے وہی اول ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس صفاتی نام سے یاد کرنے سے انسان کو اولیت حاصل ہوگی۔

ایک اور قول کے مطابق الْأَوَّلُ کا معنی ہے سب سے پہلے۔ یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلے یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا کیونکہ ساری موجودات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اس لئے وہ سب سے اول ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(پ 27 حدید 3)

ترجمہ: وہی اول اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

غرضیکہ اول وہ ذات ہے جو ہر شے پر مقدم ہو اور آخر وہ ذات ہے جو تمام موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہ جائے۔ اس کی اولیت ازلی ہے کہ اس کے وجود اور ہستی کی کوئی ابتداء نہیں اور اس کے بقاء کی کوئی انتہا نہیں۔

قرآن مجید میں اول کا لفظ ہر پہلی مرتبہ کیلئے بھی ہے مگر ہر قسم کے اولین سے اللہ تعالیٰ ہی اول ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ؕ
(پ 4 آل عمران 96)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ
خَلْقِ نَعِيدُهُ ۗ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (پ 17 انبیاء 104)
أَفَعِينَابِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۗ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ؕ
(پ 26 ق 15)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ ۗ (پ 26 حشر 2)

ان آیات میں بعض کاموں کا ذکر ہوا ہے جو پہلی مرتبہ ہوئے اور ان کا
فاعل یعنی اللہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ اول ہے۔
حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اول کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایسا
اول، ازلی ہے جس کے وجود کی ابتداء اور جس کی ہستی کا آغاز نہیں وہ ایسا آخر دائمی و
ابدی ہے کہ اس کی بقا کیلئے کوئی انتہا نہیں۔ اس کا دوام کبھی ختم نہ ہوگا یا اول کا معنی یہ
ہے کہ تمام اشیاء سے اس کا وجود پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا جبکہ اس
کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی اور وہ ایسا آخر ہے کہ فنائے خلق کے بعد بھی باقی رہے
گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ) ”جو کچھ بھی
زمین کی سطح پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب ذوالجلال والا کرام کی ذات
ہی باقی رہنے والی ہے) یا وہ اول ہے وجود کے اعتبار سے آخر ہے سلوک کے اعتبار
سے سب کی ابتدا اس سے ہے۔ سب کی انتہا آخر کار اس ذات تک ہے یا اللہ تعالیٰ
احسان کے اعتبار سے اول اور غفران کے لحاظ سے آخر ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے عارف
بندوں کو ہدایت و احسان کی راہ پر ڈالنے میں اول اور اپنی یگانگی سے جلد واقف کرنے
والا بھی وہی ہے اور اس لحاظ سے آخر ہے کہ اپنے لطف و امتنان کے کمال سے

بندگان عارفین کے کام پورے کرتا ہے پس ابتدائے صرف کے لحاظ سے اول اور کمال لطف کے لحاظ سے آخر ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی ہدایت سے نوازا انتہا میں بھی وہی اس کیلئے کافی ہوگا۔

حضرت امام بونی رضی اللہ عنہ نے اول و آخر کے تحت لکھا ہے کہ اول کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قدیم ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اس کا وجود اتفاق نہیں ہے۔ اس کے اول ہونے سے یہ امر بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غیر نہیں ہے اور اس کی ازلیت کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ نیز اس کی ابدیت دائمی ہے۔ اللہ واحد مشابہت سے بری اور اس کی احدیت برتر از ہمہ ہے۔ اللہ احد کی احدیت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی توحید اس کے سوائے کوئی اور بیان کر سکتا ہی نہیں۔ اسی لئے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کیلئے اپنی معرفت کی صرف ایک راہ رکھی ہے کہ اس کی معرفت کے ادراک سے بندہ عاجز رہے۔

بعض صوفیائے کرام نے کہا ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اس اسم کے ذاکر کو لازم ہے اپنے خطرات کو ہمیشہ میزان اصول اور قواعد میں ظاہر اور باطناً وزن کرتا رہے۔ دنیا پر نظر رکھے اور مقام آخرت کو دیکھتا رہے اور اس آیت میں غور کرے التائبون المحامدون۔

اگر ایمان میں کمی ہوئی تو اسفل السافلین میں گر پڑے گا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ تیرے لئے اولیت اور اخرویت جمع کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ نتیجہ نکلے گا۔ مسلمانوں کیلئے فرمایا ثَلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۔ ان دونوں اسماء کا کوئی ذکر خاص نہیں بلکہ یہ اسم اعتقاد صحیح کرنے کے ہیں۔ مرید ابتداء میں ان دونوں اسماء کا ذکر کرے گا تا کہ اپنی ذات میں توحید دیکھنے لگے۔

غرضیکہ اس اسم سے اسے یاد کرنے سے نیکی میں انسان اول ہو جاتا ہے اور اللہ

کی رضا کے کاموں میں سب سے مقدم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر عبادت کو اول وقت میں بجالانے کا عادی ہو جاتا ہے۔

الْآخِرُ

يَا آخِرُ (اے آخر والے) ☆ اعداد: 80 - خاصیت: جلالی

اللہ کی ذات ہی آخر ہے جو تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد آخر میں باقی رہے گی، اسے کبھی فنا نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائیوالی ہے اور اس کی آخرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ آخر کا مطلب ہے سب سے پیچھے رہنا یعنی جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے رکھنے ہی سے باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے آخر ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(پ 27 حدید 3)

ترجمہ: وہی اول اور وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اول و آخر کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اول کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے اور آخر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اول اور آخر نہیں ہو سکتی بلکہ جب تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے اول ہے کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود بذاتہ

ہے اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا اور جب ترتیب سلوک پر نظر کی جائے اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے تو وہ آخر ہے کیونکہ اس کی ورگاہ عارفین کے مدارج ترقی کی سب سے آخری منزل ہے اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے اور آخر منزل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ اولیاء کے سیر و سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے پس اول اسی کی طرف سے آغاز ہے اور آخر اسی کی طرف انجام اور انتہا ہے۔

ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كَلَّ شَيْءٌ هَالِكًا إِلَّا
وَجْهَهُ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (پ 20 قصص 88)

ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اصل حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے مگر اس کی ذات ہی آخر رہنے والی ہے۔

حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اول و آخر کی یوں شرح بیان فرمائی ہے کہ اول وہ ذات ازلی ہے جو ہر چیز سے اول ہے اور آخر بھی وہی ہے جو ہر چیز سے آخر ہے۔ یہ دونوں اسماء اگرچہ متناقض ہیں اور یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز اول بھی ہو اور آخر بھی ہو لیکن جب ترتیب وجود اور سلسلہ موجودات اسی کے وجود سے موجود ہیں اور سالکوں کے سلوک کی ترتیب پر نظر کرو گے تو اللہ ہی کو آخر پاؤ گے کیونکہ ارتقا کا آخری مقام وہی ہے جس کی جانب عارف ترقی کرتا ہے اور جو معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پہلے ملتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ابتدائی سیڑھی

ہے۔ سلوک کی اضافت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور وجود کی اضافت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی مبداء اول ہے اور اسی کی طرف کل امور رجوع کئے جاتے ہیں۔ ابتداء ہوں یا انتہا موجودات کی طرف نظر کرنے سے ان میں قدرت الہی صاف نظر آتی ہے کیونکہ ان کا وجود اللہ تعالیٰ ہی کے وجود سے ہے۔ وہی سب چیزوں کا موجد ہے اور خود کسی وجود سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ مقامات عارفین پر نظر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہی آخر میں ملتا ہے جبکہ فرمایا ہے **إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ** وجود کی اضافت کے لحاظ سے وہی اول ہے اور سعود کی اضافت سے وہی آخر ہے۔ یہ حقیقت معلوم ہونے پر یقین کامل کر لو وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے۔ اس کی اولیت اس کی صفت ذاتی ہے اور اس کے وجود کی توحید ہے اور اس کی اخرویت اس کی خلق کیلئے صفت قائم ہے جو بقا دیتا ہے اور فنا کرتا ہے۔ وہ فنا اشیاء کے وجود سے بھی قبل موجود تھا۔ اس کی ولایت ترتیب مقامی اور تعدادی نہیں ہے۔ اس لئے اس کی اولیت و آخریت میں کسی غیر کی شرکت ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ امر ایسا ہے جس کی جانب عارفوں کے عوارف منتہی ہوتے ہیں۔ وہی اول و آخر ہے۔ ہر اس امر سے جس کا اس نے ارادہ کیا اور اس کی قدرت مقدرہ سے اس کی قدامت کی اور اس کی اخرویت اس کے استحالة عدم کی خبر دے رہی ہے۔ (شمس المعارف)

الظَّاهِرُ

يَا ظَاهِرُ (اے ظاہر) ☆ اعداد: 1106 - خاصیت: جلالی

الظاہر سے مراد وہ ذات جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے فائق اور برتر ہے اور ظہور چونکہ وجود کی فرع ہے تو جب حق تعالیٰ کا وجود سب موجودات پر فائق اور مقدم ہے اس کا ظہور بھی سب پر فائق ہے کہ اس سے زیادہ اس عالم میں کوئی چیز

ظاہر نہیں کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظاہر ہے اسی کی صفات اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے اور اس کی حکمت و قدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ذرہ میں نمایاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(پ 27 حدید 3)

ترجمہ: وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور

وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کا وجود اور اس کی ہستی غالب نشانیوں کے ساتھ زمین و آسمان میں ظاہر موجود ہے۔ وہ باطن بھی ہے کہ اس ذات مقدس کی حقیقت اس کے جلال و کبریا میں پوشیدہ ہے یا وہ نعمت کے ساتھ ظاہر رحمت کے ساتھ باطن ہے نیز اپنی قدرت کے ساتھ ظاہر اور غور کے لحاظ سے باطن ہے۔ دل کی آنکھوں سے ظاہر ہے ظاہری آنکھوں سے باطن ہے۔ ظاہر ہے بغیر قرب کے اور باطن ہے حجاب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہونا اس کی شدت ظہور کی وجہ سے ہے اور اس کا ظہور سبب بن چکا ہے۔ اس کے پوشیدہ ہونے کا اس کا نور اس کے نور کا حجاب ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے مخفی اور اپنے نور کے نور کی وجہ سے حجاب میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ایسا ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر تر کوئی چیز نہیں اور وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی باطن نہیں۔ ان دو اسماء سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ اپنے حال کی درستی کا اہتمام کرے۔ اپنی اول حالت میں غور کرے۔ اپنی آخری حالت میں فکر و تدبر کرے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے، عالم کے حدوث و فنا کو جانے اور دل اس سے نہ لگائے اور ظاہر اشیاء کو نظر تدبر سے دیکھے۔ ان سے اپنے صانع (اللہ تعالیٰ) کا راستہ تلاش کرے اور دین کے کام میں پیش پیش اور سب سے آگے رہے۔ دنیا کے کاموں میں پیچھے اور دور رہے۔ اپنے آپ کو

شریعت کے احکام سے ظاہر کرے اور اسرار حقیقت کے ساتھ باطن رہے۔ اسی طرح ظاہراً مخلوق کے ساتھ رہے اور باطناً خدا کے ساتھ جیسے کہ کہا گیا ہے (الصوفی کائن و بائن) صوفی ساتھ بھی ہوتا ہے اور جدا بھی ہوتا ہے یعنی ظاہراً لوگوں کے ساتھ اور باطناً ان سے الگ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہے بلکہ کائنات کا موجود ہونا ہی اس کے ظاہر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کیونکہ ہر چیز اس کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ ظاہر ہے اپنی ذات سے، اللہ ظاہر ہے اپنی صفات سے، اللہ ظاہر ہے ہر چیز کے بنانے سے، اللہ ظاہر آفاق کی نشانیوں سے غرضیکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھئے کہ اس نے کارخانہ حیات اپنے ظہور ہی کیلئے بنایا ہے۔

حدیث پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے جس میں اللہ کی صفت ظاہر بیان ہوئی ہے کیونکہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی جس میں ظاہر کا ذکر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ، خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ خَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ

”یا اللہ ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب ہمارے پروردگار اور سب چیزوں کے پروردگار، تورات، اور انجیل اور قرآن اتارنے والے، دانہ اور گٹھلی کو زمین سے اگانے والے میں ہر ایک شے (جو تیرے قبضہ میں ہے) کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی شے نہ تھی تو آخر

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَ
 أَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
 وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ
 وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ
 ہے تیرے بعد کوئی شے نہیں تو ظاہر ہے
 تجھ سے اوپر کوئی شے نہیں تو باطن ہے
 تجھ سے پرے کوئی شے نہیں۔ میرا قرض
 اتار دے اور مجھے تنگدستی سے نجات
 اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ دے۔

لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ (پ 10 توبہ 48)

ترجمہ: بے شک وہ پہلے بھی فتنہ پھیلانے میں سرگرم رہے اور آپ کے
 کئی کاموں میں تبدیلی کی۔ یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر
 ہو گیا اور وہ اسے نہیں چاہتے تھے۔

الْبَاطِنُ

يَا بَاطِنُ (اے ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ)

اعداد: 62 ☆ تاثیر: جمالی

باطن کا لفظ باطن سے بنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت پوشیدہ ہو اور حس
 میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور نہ ہی یہ مادی آنکھیں
 اسے دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس کی ذات تک عقل و فکر اور خیال سے نہیں پہنچا
 جاسکتا۔ وہ ذات لامحدود ہے اور انسان کی عقل محدود ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود کو
 مخفی کر رکھا ہے اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس
 صفت کو یوں بیان کیا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
(پ 27 حدید 3)

ترجمہ: وہ اول اور آخر اور باطن ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
الْم تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۝ (پ 21 لقمن 20)
ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے
شک اللہ نے اسے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہر و پوشیدہ
نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔

فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بَسُورًا لَهُ بَابٌ ۝ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قَبْلِهِ الْعَذَابُ ۝ (پ 27 حدید 13)

ترجمہ: پھر ان کے درمیان ایک دیوار مع دروازے کے بنا دی جائے گی
اس دروازے کے باطن میں رحمت اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ

(پ 8 الانعام 151)

ترجمہ: اور بے حیائی کے ظاہر اور باطنی کاموں کے پاس نہ جانا۔
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ (پ 8 اعراف 33)

ترجمہ: آپ فرمادیتے تھے کہ بے شک میرے رب نے بے حیائی ظاہر اور
پوشیدہ گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کر دیا ہے۔

ظاہر ایک شے کیلئے ظاہر اور دوسری شے کیلئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت
سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر
اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہونا اور اکات کی

طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے تو وہ باطن ہے اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف نہ کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے۔

اللہ کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے۔ شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملے گا جو عالم، قادر، سمیع اور بصیر ہے اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائے گا اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین جو چیز ستارے، سورج، چاند، حیوان، نباتات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مدبر کا پتہ دے رہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص اندازے پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزو بلکہ جس اختیاری یا جبری صفت و حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق، اپنے مالک، مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے۔ اسی طرح ہر چیز اس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت دے رہی ہوں اور بعض نہ دیتی ہوں تاہم سب کو ان شہادتوں میں یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت ظہور کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی

مثال یہ ہے کہ جو اشیاء حواس کے ذریعہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ۔ روشن اور ظاہر سورج کا نور ہے جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن کر رہی ہے وہ خود نہ روشن ہوگی مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر مخفی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سرخ و سیاہ رنگ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور یہ لوگ رنگیں اشیاء کے ساتھ روشنی کا قائم ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں جب ان کو سایہ اور اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے اور دن میں کیا تھی۔ گویا نور کی غیر موجودگی میں نور کے وجود کا پتہ لگتا ہے اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے۔

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیائے عالم پر پڑتی دیکھتا ہے اور سورج اس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا حتیٰ کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کیلئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہ چیز ہے بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے اور اگر خدا کا بعض امور کیلئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے تو آسمان و زمین اور ہر چیز جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائے گی اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائے گا اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائے گا لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات میں متفق ہیں اور سب ایک ہی نظم و نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظروں سے مخفی ہے۔

قربان جائے اس ذات پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں سے نہاں اور اپنے شدت ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہو جانا چاہئے کیونکہ خود انسان جس امر کی بدولت انسان کہلاتا ہے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب و مرتب افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے تو وہ ظاہر ہے اور اگر حق کے ادراک کے ذریعے سے طلب کیا جائے تو وہ باطن ہے کیونکہ جس طرف اس کے ظاہری بشرہ بلکہ اس کے تمام اجزاء بدل جائیں تو بھی وہ وہی انسان رہے گا جو پہلے تھا اور تعجب نہیں کہ انسان کے بدنی اجزاء بچپن میں اور ہوتے ہوں اور پھر بڑھاپے میں اور ہوتے ہوں کیونکہ وہ طول زمان سے گھٹتے مٹتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزا جو غذا کے ذریعے سے پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کیلئے ظاہر ہے جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اہل باطن میں شمار ہونے لگتا ہے اور اس پر پوشیدہ اسرار اور حقائق کھل جاتے ہیں یعنی مشاہدے کا خاصا تعلق اس صفت کے ساتھ ہے۔ معرفت تلاش کرنے والوں کیلئے یہ اسم نہایت ہی اعلیٰ قسم کا کا تحفہ ہے۔

الْوَالِي

يَا وَالِي (اے کارساز اور مالک) ☆ اعداد: 47 - تاثیر: جمالی

مادہ ولایت یا ولایت ہے اس کے مختلف معنی ہیں حاکم مقرر ہونا، متصرف ہونا، مدد دینا، کسی جگہ پر تسلط پانا، کسی شخص سے محبت کرنا، انتظام سنبھالنا، انتظام کرنا۔ ان

تمام معنی کو پیش نظر رکھا جائے تو الوالی وہ ذات والا صفات ہے جو سب سے بلند اور سب سے برتر ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتی ہے۔ پوری کائنات پر اسے تصرف کا حق حاصل ہے اور تمام موجودات پر اس کا تسلط ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات کو مشکلات میں مدد بہم پہنچاتی ہے۔ اسے ہر طرح کے فعل پر اور ہر طرح کی جواب طلبی پر قدرت تامہ حاصل ہے اور اسی کی حکومت تمام کائنات پر ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت میں کوئی اس کائنات کا حاکم نہیں، انسانوں کے دلوں پر بھی وہی حکمران ہے اور ان کے معاملات کی رہنمائی کا حق بھی اسی کو حاصل ہے اور پھر وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے یعنی ایک ایسا حاکم کہ جس کی قدرت بھی مکمل، جس کا تصرف بھی کامل، جس کا حق سب پر فائق، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کسی سے زیادتی کرے نہ بلا وجہ انتقام لے نہ پکڑنے میں جلدی کرے اور اس کی ذات میں اور اس کے احکام میں حتیٰ کہ اس کی گرفت اور جواب طلبی میں بھی بندوں کیلئے محبت کا جذبہ شامل ہو تو ایسی ذات کو الوالی کہتے ہیں۔

ایک اور قول کے مطابق والی وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کے سارے امور کی تدبیر کرے اور اس تدبیر کی اسے قدرت تامہ ہو اور اسی کی قدرت تامہ جہان میں کام کر رہی ہو جب تک یہ ساری طاقتیں جمع نہ ہوں اس کو والی نہیں کہا جاسکتا اور یہ معنی سوائے احکم الحاکمین، مالک الملک عزاسمہ، وجل مجدہ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے لہذا حقیقت میں والی فقط اسی کی ذات ہے کیونکہ کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ (سورۃ الرعد، آیت ۱۱)

ترجمہ: اور اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ والی ہے۔ اسی کو تولیت امور حاصل ہے اور اسی کا تصرف جمہور پر مسلم، نصرت و استقامت، سلطنت و قدرت، تدبیر و تصرف اسی کو حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی صحیح ترین معنی میں والی ہے، ہر شے پر اسی کی قدرت فرمانروا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ والی وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبر اور متولی ہے اور ولایت تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے اور جب تک اس کیلئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے۔

شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ والی کا لفظ ولایت سے بنا ہے یعنی واؤ کی زیر سے بمعنی تصرف کرنا اور قبضہ کرنا۔ اس لفظ کو واؤ کی زیر سے بھی پڑھا گیا ہے بمعنی دوستی کرنا اور حکومت چلانا سیبویہ نے کہا کہ ولایت یعنی واؤ کی زیر سے مصدر ہے اور واؤ کی زیر سے اسم ہے والی وہ ہوتا ہے جو جملہ امور ات کرنے والا اور سب کا مالک ہوتا ہے۔ لفظ ولایت تدبیر قدرت اور فعل کو ظاہر کرتا ہے جب تک یہ تینوں معانی کسی میں جمع نہ ہو جائیں اسے والی نہیں کہہ سکتے۔ والی امور علی الاطلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کیونکہ وہ اولاً تدبیر کرنے والا ہے اور اس تدبیر کرنے میں یگانہ ہے اور ثانیاً احکام کو نافذ کرنے والا ہے۔ اشیاء اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بندے کو چاہئے کہ امر و نہی میں فرمانبرداری ظاہر کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اپنے اوپر لازم جانے اپنے وجود کی مملکت کو حسن تدبیر و تنقید احکام شریعت سے مضبوط کرے۔ شیاطین و جن و انس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم سے اپنے وجود کی مملکت کا والی بنے۔ اس پر حکمرانی کرے۔

اس اسم پاک سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ خود کو مملوک اور اپنی اشیاء کو ملک رب العالمین سمجھتا رہے۔ احسان و خیر کا موقع غنیمت سمجھے اور قانون الہی کا پابند رہے۔

المختصر کہ اللہ ہر ایک کا والی ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے سوا

ہمارا کوئی والی نہیں۔ اس اسم کے ذاکر مرید باصفا، خلفائے طریقت، اولیاء اللہ اور قطب و ابدال ہوئے ہیں کیونکہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو اس حد تک اپنا والی سمجھتے ہیں کہ اپنی ہر چیز اور معاملہ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لئے جب اللہ کو اس اسم سے پکارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔

الْمُتَعَالِي

يَا مُتَعَالِي (اے بلند و برتر) ☆ اعداد: 551 - خاصیت: جلالی

علمائے لغت کا کہنا ہے کہ متعالی علو سے بنا ہے جس کا مطلب بلند ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریائی میں سب سے بلند و بالا ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک ہے۔ اس کی بلندی ہماری عقل اور فہم سے بھی بالاتر ہے۔ سعادت دارین میں ہے کہ اس کا معنی کسی قدر مبالغے کے ساتھ وہی ہے جو علی کا ہے اور العلی سے مراد وہ ذات ہے جو تمام موجودات سے بلند ہے۔ تمام مکانوں سے ارفع اور تمام جسموں پر حاوی ہے لیکن المتعالی وہ ذات ہے جس کا تعلق صرف اجسام، مکانات اور محسوسات سے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی بلندی جو چاہے تصورات میں ہو اور چاہے اوصاف میں وہ ان سب سے بلند ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں علو اور بلندی کا گمان ہوتا ہے وہ سب اسی کی عطا کردہ ہے بلکہ تمام بلندیوں والوں کو سرنگوں کرنا اور اپنے سامنے جھکانا اس کا وصف ہے۔

ایک اور قول کے مطابق متعالی کا مطلب ہے سب سے زیادہ بلند قدر نیز سب والیوں کا والی تمام نقائص و آفات سے بلند۔ یاد رہے کہ لفظ عالی اور متعالی میں اعلیٰ سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام قرآن مجید میں سورت رعد میں یوں آیا ہے:

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ (پ 13 رد 9)
ترجمہ: وہ عالم الغیب ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے سب سے بڑا عالی
مرتبہ ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہونے کی وجہ سے متعالی
ہے۔ اس کیلئے یہ لفظ قرآن پاک میں تعالیٰ کی صورت میں آیا ہے جس کا مطلب بھی
بلند و برتر ہے۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ع (پ 15 بنی اسرائیل 43)
ترجمہ: وہ پاک ہے اور جو یہ کہتے ہیں اس سے بالا ہے اس کا مرتبہ عالی
بڑی شان والا ہے۔

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (پ 16 طہ 114)
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
(پ 18 مومنون 116)

ترجمہ: اللہ عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود
نہیں وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۗ (پ 29 جن 3)
اور بلاشبہ ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے
اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ع (پ 7 انعام 100)

ترجمہ: اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا حالانکہ اسی نے ان کو
پیدا کیا اور بغیر علم کے اس کیلئے بیٹے اور بیٹیاں بنالیں وہ پاک ہے اور
بلند ہے جیسا کہ انہوں نے سوچا ہے۔

اسی طرح مشرکین نے اپنے خیالات اور صفات میں نہ جانے کس کس کو شامل کر رکھا تھا اور وہ علو اور سر بلندی ان میں بھی دیکھتے تھے اور پھر پروردگار کی تعریف بھی کرتے تھے۔

فَلَمَّا اتَّهَمَا صَالِحًا جَعَلَالَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهَمَا ۚ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ 19 اعراف 190)

ترجمہ: پس جب اللہ انہیں صالح لڑکا عطا کر دیتا ہے تو ان دونوں کو جو دیا گیا ہے اسے اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ ان کے اس طرح شرک کرنے سے بالاتر ہے۔

اتى امرُ اللهِ فلا تستعجلوه ۗ سبحانه وتعالى عما يشركون (پ 14 نحل 1)

ترجمہ: اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے وہ ان کے شرک سے بالاتر ہے۔

أَمْ نِيَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا مِّمَّ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ ءِإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (پ 20 نمل 63)

ترجمہ: بھلا کون ہے جو تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راہ دکھلاتا ہے اور کون ہے جو رحمت کی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (پ 20 قصص 68)

ترجمہ: اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے اور جو پسند کرتا ہے ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و

بالا ہے۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ ۚ

بِئَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (پ 24 زمر 67)

ترجمہ: اور قیامت کے روز تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک

اور بالا تر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو تسلیم کرنا ضروری ہے،

اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہ ہوگی۔

مختصر یہ کہ وہ ذات جو ہمارے وہم و گمان سے بھی اور ہمارے خیال و قیاس

سے بھی بلند ہے بلکہ تمام بلندیاں جس کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور ہر بڑی شان والا

جس سے اپنے لئے شان کی بھیک مانگتا ہے وہ ”متعالی“ ہے۔

اس اسم پاک سے تخلق کرنے والوں کو خشوع و خضوع جسمی و قلبی کا التزام کرنا

چاہئے اور بارگاہ قدس کے حضور عاجز و درماندہ رہنا چاہئے لیکن اس کی ہر دم اطاعت

کیلئے کمر بستہ رہیں اور اپنی ہمت کو پست نہ ہونے دیں۔

پس کائنات میں سب سے بلند و برتر اللہ تعالیٰ ہے جو شخص اسے اس صفت سے

پکارتا ہے وہ اسے دنیا میں بلند و برتر، عالی مرتبت اور صاحب عزت بنا دیتا ہے۔

الْبَبُّ

يَابَّرُ (اے نیکی والے) ☆ اعداد: 202 - تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ بذات خود سراسر نیکی والا ہے اس کی ذات، صفات، افعال اور

اختیارات سے حکمت اور نیکی عیاں ہوتی ہے۔ اس لئے اسے بَر کہا جاتا ہے۔ اس

کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر قسم کی نیکی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کیونکہ کوئی نیک عمل اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتا۔ اس لحاظ سے بھی وہ بڑ ہے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر نیکی کا مظہر بناتا ہے انہیں ابرار کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ہر قول اور فعل سے نیکی پھوٹی ہے۔

اللہ تعالیٰ بڑ ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر گونا گوں احسان فرماتا ہے۔ دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہی ہے جس نے انواع بڑ و احسان کو بیان فرمایا اور ورع و تقویٰ کی پابندی کا حکم دیا۔ لہذا اصل نیکی کندہ، نیکی دہندہ وہی ہے۔

یہ لفظ باکی زیر سے بھی پڑھا گیا ہے بمعنی نیکی کرنا باکی زیر سے بھی پڑھا گیا ہے بمعنی نیکی کرنے والا فی الحقیقت نیکی کرنے اور احسان جتلانے والا اللہ جل جلالہ، و عم نوالہ ہی ہے کوئی نیکی و احسان نہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا متولی ہے۔ خدا کا فضل و احسان مخلوق پر حصر و بیان کی حد سے باہر ہے۔ جیسا کہ فرمایا (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) ترجمہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمت شمار کرنے لگو تو نہیں شمار کر سکتے۔

بڑ کے معنی محسن، اور بڑ مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسانات ظہور میں آتے ہیں اور بندہ اسی قدر بڑ ہے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین استاذ اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے بات چیت کی تو انہوں نے پایہ عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بلندی منزلت سے متعجب ہوئے اور عرض کیا الہی! یہ بندہ کون سے عمل کی بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا۔

یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی بر الرحیم ہے جس نے عاجزوں کو ابرار کا خطاب عطا فرمایا۔ ان کو نعیم کا عطیہ دیا۔ ان کو تخت رفعت پر بٹھا دیا۔ ان کو معرفت ربانی سے ممتاز فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝ (پ 27 طور 28)

ترجمہ: بے شک اس سے قبل ہم اسی کو پکارتے تھے بلاشبہ وہ نیکی کی توفیق دینے والا رحم فرمانے والا ہے۔

رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

(پ 4 آل عمران 193)

ترجمہ: ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے تمام برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں ابراروں کے ساتھ موت دے۔

نَزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۝ (پ 4 آل عمران 198)

ترجمہ: وہاں اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابراروں کیلئے بہت بہتر ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝

(پ 29 دھر 5)

ترجمہ: بے شک ابرار شراب طہور کے ایسے پیالے پیئیں گے جن میں کافور ملا ہوگا۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ (پ 30 انفطار 13)

ترجمہ: بے شک ابرار نعمتوں میں ہوں گے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ يُشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

(پ 30 مطفقین 18-22)

ترجمہ: ہاں ہاں بے شک نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے اور اس کا ادراک کیا ہے کہ علیین کیا ہے وہ ایک مہر کیا ہوا نوشتہ ہے جس پر اللہ کے مقربین حاضر رہتے ہیں۔ بلاشبہ ابرار اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔

وَبَرًّاۙ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (پ 16 مریم 14)

ترجمہ: اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے تھے اور وہ جابرنا فرمان نہ تھے۔

وَبَرًّاۙ بِوَالِدَتِيۙ وَلَمْ يَجْعَلْنِيۙ جَبَّارًا شَقِيًّا (پ 16 مریم 32)

ترجمہ: اس نے مجھے والد کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے جابر اور بدنصیب نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ہی بر الرحیم ہے جس نے سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کو ”کرام بَرَّة“ (عزت والے، نیکو کار فرشتے) سفیروں کے ساتھ نازل فرمایا۔ بے شک اسی کی ذات دائم الاحسان اور کثیر الرحم ہے۔ اس کا استعمال صرف اسم رحیم کے ساتھ ہوا۔

شمس المعارف میں ہے کہ لفظ بَرَّ کے معنی حق کے ہیں نیز لفظ بَرَّ اسم مطلق ہے جس سے تمام خوشیاں اور احسان معلوم ہوتے ہیں۔ بندہ بھی اپنی نیکی کے لحاظ سے بَرَّ کہتا ہے خاص کر اپنے والدین اور اساتذہ سے بھلائی کرتے وقت بر کہلایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد ایک شخص کو عرش کے پایہ کے پاس دیکھ کر تعجب کیا اور پوچھا اے پروردگار! یہ بندہ مرتبہ تک کس طرح پہنچا۔ جواب آیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اپنے والدین سے بہتر سلوک سے پیش آتا تھا۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتابیں دے کر احسان کیا۔ ان رسولوں اور

کتابوں کو قبولیت بھی عنایت کی اور انسان کو عمل کرنے کی ترغیب سمجھائی اور خواہشوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد احسان و اکرام کئے ہیں۔ برزخ میں اس کے احسان یہ ہیں کہ مسلمان اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں کھاتی پھرتی ہیں۔ پھر مردوں کو اپنے کرم و احسان سے زندہ کرے گا اور صراطِ مستقیم پر ثابت رکھے گا تاکہ دوزخ میں گرنے پڑیں۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے ایمان کو ابتداءً سلام دائیں جانب سے اور قرآن کریم کو آگے سے حاصل کیا اور سنت پر عمل کیا، پھر اس کا کرم ہوگا حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا جس کے بعد کوئی پیاسا نہ رہے گا، پھر یہ احسان ہے کہ جنت میں داخل کر کے اپنے دیدار کا بہت بڑا احسان فرمائے گا اور مزید احسان یہ ہے کہ اس نعمت میں ہمیشہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ کیا کم ہے کہ اپنے کلام میں اس نے ذاکر کا خادم بنایا فرمایا ہے (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ) تمام احسانات الہی اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کئی دن آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کھانا نہ کھایا۔ جب انہوں نے پوچھا بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے تو عرض کیا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کی نظر کسی چیز پر ہو اور میں کھالوں تو عاق ہو جاؤں گا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا خوف نہ کرو تم کو کھانے کی اجازت ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ والدہ کے ساتھ کھانا نوش فرماتے رہے۔

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو دیگر امتوں پر قیامت کے دن شاہد بنایا اور استغفار کرنے والوں کے بُرے اعمال کو فرشتوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ جو اس سے نیکی چاہے اس سے نیکی کرے خصوصاً فقراء اور مساکین سے پورے خلوص کے ساتھ نیکی کرے تاکہ عجائب ملکوت کے کشف کا سبب بن سکے اور اپنی نفسانی خواہشوں سے مخالفت کرے جو نیک نیتی کے

ساتھ متفرق ریاضتوں کے باعث رب کی معرفت کا ذریعہ ہو کیونکہ نفوس سے اپنے اعمال صالح کے ذریعہ نیکی کرو گے تو اس کے اوصاف تم پر ظاہر ہوں گے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) روح کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہے کہ حقوق الہی ادا کرتے رہو، امانت ادا کرو جو تم پر واجب ہے اور نماز پبوقتہ پڑھنے رہو کیونکہ یہی اساس شراعی اور اسی سے موجودات میں اسرار قدرت کے کشف ہوں گے اور اس کے سبب سے دنیاوی غلامی اور جسمانی ظلمت سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔

ذاکر کو لازم ہے ایسی چیزوں کو ترک کر دے جو نفس کو محبوب ہوں کیونکہ استعمال اشیاء دراصل ہلاکت روح و پاکیزگی ہے۔ عقل سے ہمیشہ کام لو اور نفس کو پاک و صاف بناتے رہو تا کہ فہم علم نصیب ہو کر علوم باطنی اور حقائق ایمانی تم پر جلوہ گری کریں جن کے باعث تم دریائے عظمت اور مشاہدہ انوار میں تیرا کی کر سکو گے۔

متذکرہ بالا خوبیاں دراصل امہات اور اساس اعمال ہیں جب ان امہات کے ساتھ ہر اسم حاصل کرو گے تو کل مقامات اور راہ سلوک کے ساتھ بے چوں و چرا باغات معارف میں داخل ہو گے جہاں تم پر حقائق کی جلوہ گری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان سے جنت میں رہو گے۔

جنت ماؤں کے پیر کے نیچے ہونے میں ماں سے یہی امہات مراد ہیں۔ اسم کا ذاکر والدین کے ادب کی طرف شریعت اسلامیہ کے موافق شروع کرو اور ظاہر و باطن میں شریعت کی مخالفت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ راہ شریعت پر چلنے والے کو پسند کرتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے: ابتدائی زمانہ میں جب میری عمر دس سال تھی میں رات کو سوتا نہ تھا۔ میری والدہ نے ایک شب مجھے قسم دی کہ میں ان کے بچھونے پر لیٹوں۔ میں اس طرح لیٹا کہ میرا ہاتھ ان کے سر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ اس حالت میں دس ہزار مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ جو میرا معمول تھا

پڑھا اور ان کے جاگنے کے خیال سے اپنا ہاتھ ان کے سر کے نیچے سے نہ نکالا۔
اپنے مرشد سے نیکی کرنا بڑا درجہ رکھتا ہے اور یہی بقاء کا سبب ہے۔ مرید کیلئے
لازمی ہے کہ مرشد سے کوئی پوشیدہ نہ رکھے۔ تاج العارفین شیخ ابوبکر قرشی سے حکایت
ہے میں اس لمحے تونس میں تھا کہ آپ کا ایک مرید باقلا لئے آیا اور عرض کیا حضرت
اس کا کیا کروں۔ فرمایا افطار کیلئے رکھو۔ میں نے کہا باقلا بھی ایسی چیز ہے جس میں
آپ سے دریافت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر مرید ایک بات بھی پوشیدہ رکھے تو کبھی
فلاح نہیں پاسکتا۔

بندے کو چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کی نعمت اور نیکی پر اس کا شکر ادا کرے۔ خلق
خدا سے نیکی و احسان کرے خصوصاً ان سے جن کا حکم دیا جیسے ماں باپ رشتے دار،
ہمسائے اور باقی اہل حقوق بلکہ مستحقین و غیر مستحقین سے نیکی کرے۔ بیان کرتے
ہیں ایک شخص غوث الثقلین حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس کچھ مال زکوٰۃ لے کر آیا اور عرض کیا میں مستحق و نامستحق کو نہیں جانتا۔ ان
کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ آپ فرمائیں کہ میں یہ مال کس کو دوں۔ فرمایا مستحق و
غیر مستحق دونوں کو دے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے وہ کچھ عطا کرے جس کا تو مستحق ہے
اور وہ کچھ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں ہے۔

اس اسم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے اس اسم سے پکارتا
ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ہر شعبے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمادیتا ہے۔

التَّوَابُ

يَا تَوَّابُ (اے توبہ قبول کرنے والے)

اعداد: 409 ☆ خاصیت: جمالی

توابع کا لفظ توبہ سے ہے جس کا مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
توابع وہ ہے جو بندوں کیلئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ اس کی نشانیاں
دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور جو ان کو
طرح طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا ہے اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ پر لاتا ہے۔
یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں تو
دھمکی سے خوف کھاتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ
قبول کر لیتا ہے۔

قرآن پاک میں اسم پاک ”تَوَّابٌ“ دس مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ نور میں (وَإِنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) باقی آٹھ مقامات پر (تَوَّابٌ رَحِيمٌ) اور ایک مقام پر تَوَّابًا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ (پ 30 نور 3)
ترجمہ: پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے بخشش
مانگیں۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

(پ 18 نور 10)

ترجمہ: اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اور بے شک اللہ توبہ قبول
کرنی والا ہے، حکمت والا ہے۔

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(پ 1 بقرہ 128)

اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم سے درگزر کر بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (پ 2 بقرہ 160)

ترجمہ: مگر جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور میں بڑا تواب ہوں، رحیم ہوں۔

فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
(پ 4 نساء 16)

ترجمہ: پھر اگر وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو ان دونوں سے منہ موڑ لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ (پ نساء 64)

ترجمہ: اور پھر جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آئیں پس اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کیلئے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (پ 1 بقرہ 37)

ترجمہ: پھر جب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے تو اس پر ہم نے اسے معاف کر دیا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ (پ 1 بقرہ 54)

ترجمہ: تمہارے بنانے والے کے قریب تمہارے لئے یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ (پ 11 توبہ 104)

کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم والا ہے۔

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(پ 11 توبہ 118)

ترجمہ: تب اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تواب ہے جسکی بنا پر وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق بخشتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے پھر جب تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا کئے رکھتا ہے تو وہ گناہ سے باز رہتا ہے مگر پھر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ اسے پھر توبہ کی توفیق بخشتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ پھر اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح ہر انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ تواب نہ ہوتا تو پھر ہماری زندگی کیسے گزرتی۔

توبہ کا معنی ہے گناہ سے لوٹ آنا۔ اصل معنی رجوع ہے جب اس کی نسبت بندے کی طرف کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے رجوع کر لینا اور اگر اس کی نسبت خدائے تعالیٰ کی جانب ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کیلئے رحمت اور توفیق کا ارادہ پھر اللہ تعالیٰ ہی توبہ کے اسباب پیدا کرتا اور

بندے کو اس کی توفیق دیتا اور خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ڈر اور خوف کی چیزیں اس کے سامنے لاتا اور معاصی کے نتائج کی برائی پر متنبہ کرتا ہے۔ پس بندہ توبہ اور ندامت کے ذریعے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر فضل و کرامت سے رجوع فرماتا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ ہمیشہ امید کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ناامیدی کا دروازہ بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے، گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے عبرت کے دونوں کان کھلے رکھے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے اور موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرے کہ حکم کی بجا آوری کرے۔

حکایت: عیسیٰ بن عیسیٰ وزیر اپنے درباریوں کے جگمگٹے میں جا رہا تھا اور لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا رہا تھا جس طرح کہ وزیروں کی عادت ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے۔ اس وقت ایک بڑھیا راستے پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کتنی مرتبہ کہو گے کہ یہ کون ہے؟ سنو، یہ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی آنکھ نے دور کر دیا ہے اور اس حال میں مبتلا کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن عیسیٰ نے یہ بات سن لی اور اپنے محل کی طرف واپس آ گیا۔ وزارت چھوڑ دی توبہ کی دولت سے مشرف ہوا اور مکہ معظمہ میں آ کر خانہ کعبہ کا مجاور بن گیا۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی لغزشوں پر درگزر کرے۔ اگر وہ عذر خواہی اور توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرے اور کرم و انعام کے ذریعے ان کی طرف رجوع کرے۔

جو شخص چاشت کی نماز کے بعد یہ دعا سودفعہ پڑھتا ہے (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، بے شک تو التواب الرحیم ہے۔ اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہیں۔ اس لئے اس کا توبہ قبول کرنا بھی ضروری ہوا۔ اسم تواب کے معنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَاءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا (۰) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْمَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(پ 4 النساء 17-18)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے
ایسا کام کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ
قبول کر لیتا ہے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ
قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برائی کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی پر
موت آنے والی ہو جاتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہماری توبہ۔ ایسی توبہ
قبول نہیں اور نہ ہی کفر پر مرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے
لوگوں کیلئے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

(پ 25 شوریٰ 25)

ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ
معاف کر دیتا ہے۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ (پ 24 مومن 3)

ترجمہ: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا
ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ترک کرنا، گزشتہ پرندامت کا اظہار کرنا،
آئندہ بڑے فعل کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، تدارک مافات کرنا ہے تو پھر ایسی توبہ
کی قبولیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پہلو میں درد مند اور رحم آمیز دل

نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ دن میں سو بار گناہ کرے اور پھر توبہ کرے (لیکن شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت گناہ کا ارادہ نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ سو بار ہی توبہ قبول کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
(پ 28 التحريم، آیت 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے حضور توبہ کرو جو توبتہ النصوح کہلاتی ہے یعنی سچی توبہ۔ شاید کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

توبۃ النصوح یعنی خلوص دل سے توبہ یہی ہے کہ اس فعل کے دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو میں اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے مغفرت کی طالب ہوتی اور میں اس کی توبہ قبول کرتا اور یہ اس لئے کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو خدا تعالیٰ کی بہت سی صفات کا اظہار نہ ہو۔ مثلاً صفت توابیت، عفو و کرم، رحمن و رحیم وغیرہ۔ یہی مقصود اس حدیث قدسی کا ہے جس میں ارشاد ربانی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے جب اپنے ظہور کا ارادہ کیا تو انسان کو پیدا کیا۔

یعنی اگر مخلوق پیدا نہ کرتا تو خدا کے جاننے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا اور نہ اس کی صفت خلقت ظاہر ہوتی اور جب مخلوق نہ ہوتی تو بقیہ صفات کا بھی اظہار نہ ہوتا۔

اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور ہر حال میں خدا سے رجوع کرے اور اپنے ماتحتوں اور دوستوں کے عذر قبول کرے اور ان کی غلطیاں یکے بعد دیگرے معاف کرتا رہے۔

الْمُنْتَقِمُ

يَا مُنْتَقِمُ (اے بدلہ لینے والے)

اعداد: 630 ☆ تاثیر: جلالی

الْمُنْتَقِمُ کا مطلب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے، دین کے دشمنوں، سرکشوں اور کافروں سے خوب بدلہ لیتا ہے اس لحاظ سے وہ منتقم ہے۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منتقم وہ احکم الحاکمین ہے جو نافرمانوں اور سرکشوں کو عذاب کی تنبیہ کرتا اور عذاب سے قبل مہلت اور فرصت دیتا ہے۔ اس عرصہ میں ان کو خوف بھی دلاتا ہے تاکہ اپنے کرتوت سے باز آجائیں۔ یہ طریقہ انتقام جلد عذاب دینے سے زیادہ دردناک ہے۔ لوگوں کو انتقام اس طرز لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یا سب سے بڑے اپنے دشمن نفس سے انتقام لیں۔ انتقام کا وقت وہ ہے جب وہ گناہ کا مرتکب ہو یا عبادت الہی میں خلل ڈالتا ہو۔

منتقم وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی یہ سخت گیری اس وقت ہوتی ہے جب وہ اتمام حجت کر چکتا ہے اور نافرمانوں کو باز آنے کیلئے مہلت و قدرت دے لیتا ہے۔ ایسا انتقام فوری عذاب کی بہ نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے تو نافرمان پورے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا۔

انسان اللہ کے بدلہ لینے کی تاب کہاں لاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرتا ہے اور درگزر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جب لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے

ہیں اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، حسد کی بنا پر انہیں تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ برائیوں کو چھوڑ دیں مگر جب کسی بندے کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ حد سے گزر کر حد کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ انسان کو بار بار سمجھاتا بھی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ انسان نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آئے اور نظام کائنات میں برے اثرات پیدا کرے تو اسے عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اور ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ اس لئے اگر کوئی نیک انسان دوسروں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کو اس صفت سے پکارے تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس پر ظلم کرنے کا بدلہ لیتا ہے۔ اس لئے اس اسم کا ورد صرف اس صورت میں کرنا چاہئے جبکہ بات حد سے گزر جائے۔

سورۃ آل عمران، ماندہ، ابراہیم اور زمر میں ذواتنقام آیا ہے اور ان چاروں مقامات پر اسم عزیز کے ساتھ تو یہ ظاہر ہے کہ مجرم کو سزا دینے کیلئے غلبہ و طاقت کی ضرورت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ (پ 3 آل عمران 4)

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کیلئے شدید عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (پ 7 ماندہ 95)
ترجمہ: اور جو پھر گیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝
(پ 13 ابراہیم 47)

ترجمہ: پس ایسا خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ پورا نہیں

کرے گا بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ط أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ

(پ 24 زمر 37)

ترجمہ: اور جسے اللہ ہدایت کی راہ پر لگا دے تو اسے اور کوئی بہکانے والا نہیں کیا اللہ غلبے والا بدلہ لینے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بندوں سے انتقام لینا انہیں ڈرانے اور مہلت دینے کے بعد نہایت سخت و شدید ہو جاتا ہے اور ان سے بدلہ لینے میں جلدی کرتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ کافروں، سرکشوں سے ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے انتقام لیتا ہے مگر عاصی اور فاسق لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے سزا دیتا ہے، چاہتا ہے تو درگزر کر دیتا ہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ع

(پ 25 زخرف 25)

ترجمہ: تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا پس دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

فَلَمَّا اسْفُونا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ لا

(پ 25 زخرف 55)

ترجمہ: پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور تمام کو غرق کر دیا۔

بندہ کا مبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے اور تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے تو اس کو سزا دینی چاہئے جیسے کہ بایزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اوراد و وظائف میں سستی کی تو میں نے اس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اس کو پانی نہ پینے دیا اور پیا سے مارا۔

بندے کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انتقام سے بچتا رہے۔ معاصی سے اجتناب کرے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کی صورت یہ ہے کہ حدود احکام شرع کی پوری پوری حفاظت کرے۔ نرمی اور چشم پوشی کو قریب نہ آنے دے بلکہ دشمنان دین سے انتقام لے۔ انسان کا دشمن ترین اس کا نفس امارہ ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ جب وہ معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کرے یا عبادت میں کوتاہی کرے تو اس سے انتقام لے اور اسے سزا میں ڈالے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے نفس نے ورد و وظیفہ میں سستی کی تو میں نے اسے سزا میں ڈالا۔ وہ اس طرح کہ پورا ایک سال اسے کھانے پینے کی چیز نہ دی۔

بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھے اور ان سے انتقام لے اور جہاد اسی انتقام کا ایک نمونہ ہے اور اپنے نفس سے اس کے گناہوں پر مواخذہ کرتا اور اسے سزا دیتا رہے۔ نفس میں جس قسم کا عیب ہو اسی قسم کی سزا بھی ہو اور یہ سزائے نفس وہ ہے جسے اصطلاح صوفیاء میں ریاضت و مجاہدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

الْعَفْوُ

يَا عَفُوُّ (اے درگزر کر نیوالے) اعداد: 156 ☆ تاثیر: جمالی

الْعَفْوُ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے اس لفظ کے معنی غفور کے قریب قریب ہیں لیکن اس میں درگزر کرنے کی کثرت ہے کیونکہ غفر کا مطلب پردہ پوشی اور چھپانا ہے پس غفور وہ ہے جو گناہوں کو چھپائے اور

ان پر پردہ ڈالنے اور عفو کا مطلب گناہوں کو مٹا دینا ہے۔
 عفو وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تقصیرات سے درگزر کرتا ہے اور غفور کے
 قریب قریب ہے لیکن عفو میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ عفران میں پردہ ڈالنے کے معنی
 شامل ہیں اور عفو میں مٹا دینے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی بہ نسبت
 ابلغ ہے۔

سیمات کو معاف کرنے والا، معاصی سے درگزر کرنے والا۔ اس لفظ کا معنی غفور
 کے معنی کے قریب ہے لیکن غفور سے یہ زیادہ ابلغ ہے کیونکہ لفظ عفران ستر و کتمان کے
 معنی سے خبر دیتا ہے۔ پس عفار کا معنی ہوا گناہوں کو چھپانے والا اور عفو مٹانے کو
 ظاہر کرتا ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا امیدوار رہتا ہے۔
 لہذا کسی مجرم کی پیشانی پر در کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے (اسے مردود قرار نہیں دے سکتے)
 شاید کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتے ہوئے بخش دے اور اسے شرع اور احکام دین قائم
 کرنے کی توفیق عطا کر دے۔

قرآن کریم میں یہ اسم پانچ مقامات پر آیا ہے۔ چار جگہ اسم غفور کے ساتھ اور
 ایک جگہ اسم قدیر کے ساتھ۔ ان استعمالات سے اس لفظ کی معنویت کے سمجھنے میں
 مزید مدد ملتی ہے اور عفو و درگزر کے مراتب کا بھی علم ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (پ 5 نساء 43)

ترجمہ: بے شک اللہ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا

(پ 5 نساء 99)

ترجمہ: تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ درگزر
 فرمانے والا بخشنے والا ہے۔

ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (پ 17 ج 60)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جس نے تکلیف پہنچنے کے مطابق اپنا بدلہ اسی مثل لیا پھر اگر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کو ضرور مدد فرمائے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنَّكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝

(پ 28 مجلد 2)

عفو درگزر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ گنہگار کو گناہ کی سزا دینے سے چھوڑ دیا جائے یعنی اسے مہلت دے دی جائے کہ وہ اپنی حالت درست کر لے اور سنبھلنے کے موقع سے فائدہ اٹھائے اور یا یہ مطلب کہ اسے معاف کر دیا جائے یعنی اس کی سزا ساقط کر دی جائے جو اس کے گناہوں کا لازمی تقاضا تھی۔ یا یہ مفہوم کہ بندہ سے عمل کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو ساقط کر دیا جائے اور کمزور عمل کو بھی قبول کر لیا جائے۔

عفو درگزر کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیا جائے۔ غفور کے ساتھ اس اسم کے استعمال سے شاید اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ غفران کا معنی ڈھانپ دینا ہے۔

اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کو یکسر مٹا دیا جائے۔ غفور کے ساتھ اس لفظ کے اضافے سے یہ مفہوم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ غفور ہے کہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ”عفو“ ہے کہ صرف پردہ ہی نہیں ڈالتا بلکہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے۔ مزید یہ کہ وہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں بلکہ گناہوں کے کانٹوں کو نیکیوں کے پھولوں میں تبدیل کرتا ہے۔

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

قَدِيرًا (پ 6 نساء 149)

ترجمہ: پھر عفو کے ساتھ قدر کا استعمال شاید یہ بتانے کیلئے ہے کہ

پروردگار کا یہ عفو و درگزر کسی کمزور کی مہربانی نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے جو ہر وقت گرفت اور پاداش کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرنا چاہے تو کوئی اسے سزا دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا (پ 9 اعراف 95)

ترجمہ: پھر ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا حتیٰ کہ درگزر کیا۔

اس اسم سے بندہ کا حصہ مخفی نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کر رہا ہے اور ان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ کبھی ان کو توبہ پر اکساتا ہے اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے کیونکہ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور گناہ معاف کرنے کا یہ انتہائی درجہ ہے۔

اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تقصیرات و جرائم جو تیرے ساتھ کئے، ان سے درگزر کرے تاکہ درجہ الْكَاطِمِينَ الْغِيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے) کو پالے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کیلئے فرشتے معین فرمائے ہیں لیکن قیامت کے روز جس بندے کے ساتھ خدا تعالیٰ عفو و کرم کا ارادہ فرمائیں گے اور اس کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دیئے جائیں گے تو وہ اعمال نامے صاف ہوں گے یعنی ان پر کچھ لکھا ہوا نہ ہوگا جس سے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۝ (التوبہ)

اور وہ، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی
توبہ قبول کرتی اور بہت سوں کو معاف
کرتی ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّكَ عَلِيٌّ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اے اللہ! ہم کو ایسے ہی لوگوں سے کر
دیجئے تحقیق تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس میں بندے کا نصیب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی غلطیوں سے درگزر
کرے اور اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے بلکہ اس کے ساتھ احسان اور
سلوک کرے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی کثرت کے باوجود ان
کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے باوجود انہیں رزق عطا کرتا ہے اور ان کی
برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل فرماتا ہے۔

ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے
شب قدر مل جائے تو اس وقت کیا دعا کروں، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
دعا سکھلائی:

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

ترجمہ: یا اللہ تو عفو ہے معافی دینا تجھے بہت پیارا ہے لہذا مجھے معاف فرما دے۔
کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس اسم کا
ذاکر ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے اور اس کی ہر قسم کی کوتاہیوں سے درگزر فرما
کر معاف فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ
کیوں نہ ہوں وہ پھر بھی ہمیں معاف فرما دیتا ہے بشرطیکہ خلوص دل سے اس سے
معافی طلب کی جائے۔

الرَّؤْفُ

يَارَوْفُ (اے شفقت کرنے والے)

اعداد: 286 ☆ خاصیت: جمالی

رؤف کا لفظ رافت سے بنا ہے اس کا مطلب انتہا درجے کی مہربانی اور شفقت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال شفقت کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ رؤف ہے۔ ایک اور قول کے مطابق بھی رؤف رافت سے مشتق ہے جس کے معنی زیادتی رحمت کے ہیں اور بعض نے رحمت کو عام اور رافت کو خاص بتایا ہے کیونکہ رحمت کے معنی میں دفع ضرر کے علاوہ افعال و انعام بھی شامل ہیں یعنی طبیعت کی ایسی نرمی اور مہربانی جس پر دوسرے کی تکلیف اور نقصان انتہائی شاق گزرے اور وہ دفع ضرر اور ازالہ مکروہات کیلئے بے چین ہو جائے۔ رحمت کا بھی تقریباً یہی مفہوم ہے لیکن اس میں عموم ہے اور رافت میں خصوصی یعنی رحمت ایک بارش ہے جو سب پر برستی ہے اور ہر کوئی بقدر ظرف اس سے حصہ پاتا ہے لیکن رافت کا مورد نقصان و ضرر کے مواقع ہیں۔ مزید براں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کافر و مومن میں امتیاز نہیں کرتی بالخصوص دنیا میں کہ مومن بھی رزق پا رہا ہے اور کافر بھی۔ نعمتوں سے شاد کام جس طرح مومن ہو رہا ہے ویسے ہی کافر بھی مگر رافت مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ دیکھئے کس طرح مومن کے حالات میں تغیر احکام میں تغیر کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً حالت صحت و طاقت میں نماز کی کیفیت اور ہے اور بیماری میں ہمت اور طاقت کے مطابق حتیٰ کہ بیماری میں روزے قضا کرنے اور حج مؤخر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم مشروع کر دیا گیا۔ حالت سفر میں نماز میں

تخفیف کردی گئی اور روزے میں تاخیر روارکھی گئی ہے۔ حالت جنگ میں پہنچنے والا زخم زاد آخرت بنا دیا گیا اور شہادت کو زندگی قرار دی گئی۔ یہ سب پروردگار کی صفت رافت کا ظہور ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ (پ 2 بقرہ 207)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے فروخت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔

تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا ۝ بَعِيدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ (پ 3 آل عمران 30)

ترجمہ: وہ چاہے گا کہ کاش میرے عمل اور اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (پ 2 بقرہ 143)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤف ہے، رحیم ہے۔

مِنْ ۝ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط إِنَّهُ
بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (پ 11 توبہ 117)

ترجمہ: باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جانے کے قریب تھے تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا رحم والا ہے۔

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ط
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (پ 14 نحل 7)

ترجمہ: اور وہ تمہارے سامان اٹھا کر شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی شفقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے ہو، بے شک تمہارا رب شفقت فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ط فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ

(پ 14 نحل 47)

ترجمہ: یا انہیں اس وقت پکڑ لے جبکہ وہ خوفزدہ ہو چکے ہوں بے شک تمہارا رب رؤف ہے، رحیم ہے۔

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ (پ 17 حج 65)

ترجمہ: اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے اگر اس کا حکم ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا رحم والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ ع

(پ 18 نور 20)

ترجمہ: اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور بلاشبہ اللہ شفقت والا رحم والا ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ ع

(پ 28 حشر 10)

ترجمہ: اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کیلئے بغض نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

قرآن پاک میں دو مقامات پر ”رؤف بالعباد“ یعنی رؤف کا استعمال انفرادی طور پر ہوا ہے جبکہ سات مقامات پر (رؤف رحیم) مرکب حالت میں۔ گویا رؤف رحیم بھی رحمن الرحیم کے معنی میں برابر ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رحمن

الرحیم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے مگر ان ہر دو اسماء کا اطلاق مومنین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی فرمایا گیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کی عظمت آشکار ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (پ 11 توبہ 128)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول پاک تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں۔ مومنوں پر مہربانی اور رحم کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ رؤف رحیم عنفویت کے ساتھ ہیں اور نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤف رحیم خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ وہ رؤف ہیں کہ اس کی شفقت کا احسان تمام مخلوق پر بلا کسی استحقاق اور بلا کسی درخواست کے عام ہے۔ ان حالات کے ساتھ احسان و نوازش انعام و پرورش فرمانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

بندے کو چاہئے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے اور اس سے پہنچنے والی تکلیف کی بنا پر اس سے اچھا برتاؤ ختم نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اور معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم
نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

جو ایسا کرے گا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ایسا برتاؤ کرے کیونکہ

کریموں سے بڑھ کر کریم اور مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت اور مہربانیاں کرنے

والا ہے۔ اس لئے جو شخص اسے رؤف کہہ کر پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی مہربانیوں کے

دروازے کھول دیتا ہے۔

ایسے مریدین اور سالکین جو اللہ کی محبت میں بے پناہ پریشانیاں برداشت کر رہے ہوں تو اس حالت میں اس اسم کو پڑھنے سے پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور منزل پر پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب کشف اس کے اسرار دیکھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اس اسم کو رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس اسم کی معرفت اور اسرار کھول دے گا۔

مَالِكُ الْمَلِكِ

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ (اے ملکوں کے مالک)

اعداد: 212 ☆ خاصیت: جلالی

مالك الملك وہ ذات ہے جو اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور اس کے فیصلہ اور حکم کو کوئی رد کرنے والا نہ ہو۔ وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی سے جو چاہے، جیسے چاہے نافذ کرے، ایجاد کرے، معدوم کرے، باقی رکھے، فنا کرے۔ یہاں ملک سے مراد مملکت ہے اور مالک کا معنی ہے قدرت والا۔ تمام موجودات ایک ہی مملکت ہے۔ اگر زیادہ ہوں تو بھی وہی ان کا مالک ہے۔

مالک وہ ہے جو مکمل قوت رکھتا ہے اور تمام موجودات اس کی مملوک ہیں۔ وہی سب کا مالک و مختار ہے اور قادر مطلق ہے۔ تمام موجودات ایک مملکت ہے جن میں سے بعض سے مربوط ہیں جیسے انسان جو ایک ہے لیکن جس کے اعضاء مختلف ہیں لیکن تمام اعضاء ایک ہی وجود کے حکم میں ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اجزاء اعضاء انسانی کی طرح ہیں جو مقصود کی مدد کرنے میں ایک ہیں اور یہی کمال ملک ہے جس کی وجود الہی بسبب تعظیم متقاضی ہے۔ رابطہ واحدہ دراصل اللہ کی ملکیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ

مالک ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی مملکت اس کے بدن میں ودیعت ہے اور اس کی مشیت انسان کے صفات قلب و جوارح میں نافذ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔

جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے نہ اس کے قبضے میں کوئی زمین ہوتی ہے نہ باغ، نہ دکان۔ وہ ایک پھوٹی کوڑی کا مالک بھی نہیں ہوتا اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کی دکان جاتی ہے نہ مکان اور نہ روپیہ۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو مالک و مکان اور باغ کا مالک ہو جاتا ہے اور صرف انہی چیزوں کا نہیں بلکہ سینکڑوں چیزوں کا مالک بن جاتا ہے۔ کیا وہ یہ چیزیں ساتھ لایا ہے؟ اور کیا اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو کیا پھر وہ ان چیزوں کا مالک ہوا؟ اگر وہ ان چیزوں کا ملک ہوتا تو انہیں ساتھ لے جاتا۔ دوسروں کیلئے ہرگز نہ چھوڑتا اور اگر واقعی مالک ہوتا تو انہیں اپنے ساتھ لاتا۔ معلوم ہوا کہ مالک حقیقی کوئی اور ہی ہے نہ انسان نہ اس کے باپ دادا اور نہ بیٹے پوتے۔ اصلی مالک وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ البتہ اس کے کارندے بدلتے رہتے ہیں۔ گویا اس ساری کائنات کا مالک وہی ٹھہرا کیونکہ اصل مالک تو وہ ہوتا جس کی ملکیت کو سلب نہ کیا جاسکے اور جب انسان کی ملکیت اس کے مرتے ہی سلب کر لی جاتی ہے تو مالک نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہے اور چند روزہ ہے۔

مالک الملک یعنی اس کا حکم اور مشیت اس کے ملک میں نافذ ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بعض اشیاء کو وجود بخشتا ہے؛ بعض کو نیست و نابود کرتا، بعض کو باقی رکھتا اور بعض کو فنا کر دیتا ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ 1 بقرہ 107)

ترجمہ: کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اسی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔

وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (پ 2 بقرہ 247)

اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے اور اللہ واسع ہے، علیم ہے۔

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 6 مائدہ 17)

ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کی بادشاہت ہے وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَالِيهِ الْمَصِيرُ
(پ 6 مائدہ 18)

ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ملک ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط (پ 6 مائدہ 40)

ترجمہ: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ کیلئے ہے۔

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ط وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۚ (پ 7 مائدہ 120)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان پر بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ط عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ (پ 7 انعام 73)

ترجمہ: جس دن وہ صور پھونکے گا تو اسی کی حکومت ہوگی۔ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہ حکیم ہے، خبیر ہے۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

(پ 9 اعراف 158)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ (پ 18 نور 42)

ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ط (پ 19 فرقان 26)

ترجمہ: اس دن سچی بادشاہی رحمن کی ہوگی۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (پ 18 فرقان 2)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا

يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ط (پ 22 فاطر 13)

ترجمہ: یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے بادشاہت اسی کی ہے اور جنہیں تم

اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَانصُرْفُونَ ۝

(پ 23 زمر 6)

ترجمہ: یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے مملکت اس کی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کس طرف پھرے جا رہے ہو۔

وَتَبْرَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْمَقٰلَعَةِ ۚ وَالِيَهٗ تُرْجَعُوْنَ (پ 25 زخرف 85)

ترجمہ: اور وہ برکت والا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس پر ان کی بادشاہی ہے اور قیامت کا علم اس کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (پ 26 فتح 14)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی مملکت اسی کی ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ مغفرت کرنے والا بڑا ہی رحیم ہے۔

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالِي اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

(پ 27 حدید 5)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ ہی کی ہے اور تمام امور کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (پ 28 تغابن 1)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ مملکت اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کیلئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهٖ الْمُلْكُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۗ

(پ 29 ملک 1)

ترجمہ: وہ بڑی برکت والا ہے جس کے اختیار میں مملکت ہے اور وہی ہر

چیز پر قادر ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مالک الملک وہ ہے جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے جسے چاہتا مارتا ہے۔

اس اسم میں ملک کے معنی مملکت ہیں اور مالک کے معنی پوری قدرت والا اور تمام موجودات ایک مملکت ہیں جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گویا ایک جہت سے وہ اشیاء بکثرت ہیں مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بدن انسانی ہے جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی غرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے اور عالم کے اجزاء اس کے اعضاء ہیں جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہونا ممکن ہو وہ حاصل ہو جائے اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے۔

انسان کا اس اسم پاک میں نصیب یہ ہے کہ اسی ذات پاک کا غلام بن کر رہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی عزت سمجھے۔ غیر اللہ سے اپنی حاجت کسی صورت بھی طلب نہ کریں کیونکہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اسی ذات پاک کا خاصہ ہے اور نفع نقصان کا صرف وہی مالک ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صاحب ملک یعنی دنیاوی اسباب اور ذرائع کا مجازی مالک بنا دیتا ہے اور ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (اے جلال اور عزت والے)

اعداد: 1100 ☆ خاصیت: جلالی

اس اسم میں دو صفات یکجا ہیں ایک جلال اور دوسرا اکرام۔ جلال سے مراد بزرگی جلالیت جاہ و حشم شان و شوکت، رعب، عظمت اور بے حد قوت والا ہے۔ اکرام کا مطلب عطا اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب جلال ذات ہے یعنی دنیا میں جو تعظیم اور عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل جلالیت اسی کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۚ (پ 27 رحمن 27)

ترجمہ: اور آپ کے صاحب جلال اور اکرام والے رب کو بقاء ہے۔

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۚ (پ 27 رحمن 78)

ترجمہ: آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب جلال اور

صاحب اکرام ہے۔

وہ ذات ہے جو تمام جلال و کمال کی واحد سزاوار ہو اور تمام کرامت و مکرمت اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی سزاوار فی ذاتہ ہے اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کو پہنچتی ہے۔ خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے وہ شمار نہیں کی جاسکتی۔

شمس المعارف میں ہے کہ اکرام کے معنی انعام ہیں یعنی ہر مطیع اور گنہگار مومن و کافر پر اس کی مسلسل نعمتیں اور افضال و اکرام جاری ہیں جبکہ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** یہیں فرمایا یہ کرم تمام عالم انسانی پر ہے لیکن وہ کرم جو مسلمانوں سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اپنی خدمت کیلئے بنا کر اپنی قدرت کے اسباب سے سکھائے اور حقائق مراتب پر مطلع کیا اور اپنے نبی مکرم کی زبان ان سے وعدہ کرم فرمایا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا کہ اس نے ہمیں اصحاب یمین سے کیا ہے۔ اس کا دنیاوی کرم یہ بھی ہے کہ قلب کو مع اجزا کے معلق کیا ہے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ اجزائے اعمال کو پورا دیا جائے گا اور اس کا جلال تمام اکوان پر حاوی ہے جس کے باعث دنیا میں اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے بعد جنت میں دیدار عام ہوگا اور ناظر کی نظر میں انوار روشنی جگمگ جگمگ کریں گے جن سے آنکھوں میں نئی قوت ادراک پیدا ہوگی جس سے نظر جنت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ کریم کا وجود بذاتہ تاثیر ہے۔

جن و انس کیلئے عظمت و جلال ابتدائی حالتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احوال میں استغراق اور فنائے انتہائی کے امکان ہیں جو اول حال ہے جس پر صفت جلال کی جلوہ گری ہوگی اور متوسط پر بسط ظاہر ہوگا اور جو انتہا میں ہو اس پر ظاہری و باطنی تمکین احوال کی صورت گری ہوگی۔

ابن جلاں حکایت بیان کرتے ہیں: میں اونٹ پر سوار تھا کہ اونٹ کا پاؤں ریت میں دھنس گیا تو میں نے کہا اللہ جل اللہ تو اونٹ نے بھی کہا جل اللہ اونٹ میں یہ کہنے کی قوت دو اسباب سے تھی ایک یہ کہ اونٹ اللہ کا قصد کرنے والا تھا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شاہد ہے **لَوْ كُنْتُمْ فِي جَبَلٍ لَجِئْتُمْ عَلَيَّ** اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اونٹ کثافت کے باوجود جب ابتدائی احوال جلال برداشت نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال جل اللہ اس سے کہلوا دی جو شخص اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل

جانتا ہے۔ وہ اپنے دل و جان اللہ کے سپرد دیتا ہے اور اسی کے تصرف پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری و باطنی دشمنوں سے نجات دیتا ہے

شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ وہ ذات کہ ہر جلال و کمال اس کیلئے ثابت ہے اور ہر کرامت و مکرمت بھی اسی ذات جَلِّ جَلَالٍ وَّعَمِّ نَوَالٍ سے صادر ہے۔ پس جلال اس کی ذات کی صفت ہے اور کرامت اس کے فعل کی کہ اس کی طرف سے اس کے بندوں پر فائز ہوتی ہے بندوں پر اس کے اکرام کی انواع دائرہ حصر و شمار سے باہر ہیں۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے جلال کو جان لیتا ہے وہ اس کی درگاہ میں اظہار تذلل کرتا ہے اور جو بندہ اس کے اکرام کو دیکھتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ صرف اسی کی خدمت گزاری کرتا ہے اور اسی ذات واحد سے سوال کرتا ہے۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات و نفس کیلئے جلال و شرف و کمال پیدا کرے۔ اس کے بندوں پر انعام و اکرام کرے۔ جیسا کہ وہ اس کے انعام و اکرام کا مستحق اور اس کے لائق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر مختلف چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ عقل و فہم، احسان و ادراک، رشد و ہدایت، بعثت انبیاء اور نزول قرآن کے ذریعہ اور وہ نعمتیں جداگانہ ہیں جو دیگر مخلوقات میں مشترک ہیں۔

اسی سے اس اسم کا نصیب بھی ظاہر ہو گیا کہ جس انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا اور تمام دنیا اس کیلئے مسخر فرمائی اور جسے فرشتوں سے سجدہ کرایا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنا چہرہ صرف ذات خداوندی کے سامنے جھکائے کیونکہ اور مخلوق یا اس سے کمتر ہوگی یا برابر ہوگی۔ اس سے بجز خدا کے کوئی اعلیٰ نہیں اور کمتر اور برابر کیسے سر جھکانا اور اس سے عاجزی کرنا اس کی ذات و خواری کا باعث ہے۔

اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت پوشیدہ ہے۔ اس اسم کو ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں ترقی اور

عظمت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں لہذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو دین و دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو تو وہ اس اسم کو بلا ناغہ پڑھے۔

الْمُقْسِطُ

يَا مُقْسِطُ (اے انصاف کرنے والے)

اعداد: 209 ☆ تاثیر: جلالی

مقسط کا لفظ قسط سے بنا ہے جس کا مطلب عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے اس لئے اس لفظ کا اطلاق اس کیلئے ہے۔ قرآن مجید میں قسط کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے جس سے مراد انصاف ہے۔ اس کے علاوہ مقسطین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔

مقسط وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے نجات دلاتا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی شامل کر دے اور یہ اعلیٰ درجہ کا عدل و انصاف ہے جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔

قسوط بمعنی ظلم و جور۔ اقساط بمعنی عدل و انصاف کو پھیلانا، مقسط اسی ہستی کو کہتے ہیں جو انصاف کرے، مظلوم کی دادرسی کرے اور ظالم سے اس کا بدلہ لے۔ اس معنی کا کمال یہ ہے کہ قیامت کے روز ظالم و مظلوم دونوں کو ایک دوسرے سے خوش کرے گا۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قسط وہ عادل ذات ہے جو مظلوم کا ظالم سے بدلہ دلانے میں انصاف کرے۔ اس امر کو عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیتا ہے اس لئے اسے مقسط کہا جاتا ہے۔

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الِيمٍ (پ 3 آل عمران 21)

ترجمہ: اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں
کیلئے عذاب الیم کی خبر ہے۔

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِهِ عَلِيمًا (پ 5 نساء 127)

ترجمہ: یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرو اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو تو
بے شک اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ (پ 5 نساء 135)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کیلئے انصاف دیتے ہوئے انصاف قائم
کرنے والے ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ

(پ 6 مائدہ 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کیلئے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر مضبوطی
سے قائم ہو جاؤ۔

إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(پ 6 مائدہ 42)

ترجمہ: اور اگر ان میں فیصلہ کرو تو انصاف کو مد نظر رکھو۔ بے شک اللہ
تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ (پ 8 انعام 152)

ترجمہ: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو احسن
ہو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور ماپ تول میں پورا انصاف کرو۔

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ ط

(پ 8 اعراف 29)

ترجمہ: آپ کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے
وقت اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف سیدھا رکھا کرو۔ اپنے دین میں اخلاص
کے ساتھ اسی کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم
لوٹو گے۔

إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۗ ط (پ 11 یونس 4)

ترجمہ: بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ
ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیں۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (پ 11 یونس 47)

ترجمہ: ہر امت کیلئے ایک رسول ہے پس جب ان کا رسول ان کے پاس
آیا تاکہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ان پر ظلم نہ
کیا جائے گا۔

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ (پ 11 یونس 54)

ترجمہ: اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے
اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا
جائے گا۔

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (پ 12 سورہ 85)

ترجمہ: اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط

(پ 17 انبیاء 47)

ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن میزان عدل رکھیں گے تو کسی شخص کی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ع (27 حدید 25)

ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان عدل کو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قسط و عدل کی ایک مثال بیان فرمائی ہے:

حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے ہنسنے کی وجہ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَائِيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي أَضْحَكَكَ قَالَ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَثِيَابَيْنِ يَدَيَّ رَبِّ الْعِزَّةِ فَقَالَ

أَحَدُهُمَا يَارَبِّ خُدَلِي مُظْلَمَتِي
 مِنْ هَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ادْعُ عَلِيَّ
 أَخِيكَ مُظْلَمَتَهُ فَقَالَ يَارَبِّ لَمْ
 يَبْقِ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ فَقَالَ
 عَزَّوَجَلَّ لِلطَّالِبِ كَيْفَ تَصْنَعُ
 أَخِيكَ وَلَمْ يَبْقِ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ
 فَقَالَ يَارَبِّ فَلْيَحْمِلْ عَنِّي مِنْ
 أَوْزَارِي ثُمَّ فَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ
 وَقَالَ ذَلِكَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ
 يُحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَنْ يُحْمَلَ
 عَنْهُمْ مِمَّنْ أَوْزَارِهِمْ
 قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُتَظَلِّمِ
 ارْفَعْ بَصْرَكَ فَانظُرْ فِي الْجَنَانِ
 فَقَالَ يَارَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَّةٍ
 وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً
 بِاللُّلُوءِ لِأَيِّ نَبِيِّ هَذَا وَالْأَيِّ
 صِدِّيقِ هَذَا وَالْأَيِّ شَهِيدِ هَذَا
 فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ أُعْطِيَ
 الثَّمَنَ فَيَقُولُ الْعَبْدُ يَارَبِّ وَمَنْ
 يَقْدِرُ عَلَيَّ الثَّمَنَ قَالَ أَنْتَ
 تَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِمَاذَا يَا رَبِّ قَالَ

کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری
 امت میں سے دو آدمی پروردگار کے
 سامنے جھکڑیں گے۔ پس ان میں سے
 ایک کہے گا اے میرے پروردگار اس شخص
 سے مجھ پر ظلم کا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ اسے
 فرمائیں گے اس کے ظلم کا بدلہ دو۔ وہ
 عرض کرے گا اے میرے پروردگار
 میرے پاس تو کوئی بھلائی بھی باقی نہ رہی
 (کیونکہ اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی
 جائیں گی) اللہ عزوجل مظلوم سے فرمائے
 گا اب تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک
 کرتا ہے اب تو اس کے پاس کوئی بھی
 نیکی باقی رہی نہیں۔ وہ عرض کرے گا اے
 میرے پروردگار میرے گناہ اس پر ڈال
 دیجئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس بات
 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے
 لگے اور فرمایا یہ بہت بڑا روز ہوگا اس دن
 لوگ اس کے بھی محتاج ہوں گے کہ ان پر
 دوسروں کے گناہ ڈالے جائیں۔ آپ
 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مظلوم سے
 فرمائے گا ذرا اپنی نگاہ اٹھا کر جنت کی
 طرف دیکھ تو دیکھ کر عرض کرے گا اے

میرے پروردگار میں چاندی کے اور
سونے کے وہ محل دیکھ رہا ہوں جس میں
موتی جڑے ہیں۔ یہ محل کسی نبی یا صدیق
یا شہید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ
محل اسی کا ہے جو اس کی قیمت ادا
کرے۔ بندہ کہے گا اے میرے
پروردگار اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ قَالَ
يَا رَبِّ قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَىٰ خُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَاذْخُلْهُ
الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُصْلِحُ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے پر قادر ہے۔ وہ عرض کرے گا
اے میرے پروردگار کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو اپنے بھائی کو معاف
کردے وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد
فرمائیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ کیونکہ
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنین میں صلح فرمائے گا۔

مقسط کا مطلب عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے اور صحیح عادل بھی اللہ ہی کی
ذات ہے۔ اگر کسی کو صحیح عدل کی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے پکارے ان
شاء اللہ تعالیٰ صحیح انصاف ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو اور اس کے
معاملے میں اسے صحیح انصاف نہ ملنے کی امید ہو تو اس صورت میں اس اسم کو پڑھنے
سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے گا اور اسے صحیح انصاف مل کے رہے گا۔

اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلائے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلائے اور اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلائے۔

الْجَامِعُ

يَا جَامِعُ (اے جمع کرنے والے)

اعداد: 114 ☆ تاثیر: جلالی

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الجامع ہے جس کا مطلب جمع کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی تکمیل کرنے والا، مکمل کرنے والا، سب پر حاوی، سب کو شامل کرنے والا، سب کو اپنے احاطہ اور وسعت اختیارات میں رکھنے والا کے بھی ہوتے ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جامع وہ ہے جو ملتی جلتی چیزوں، جدا جدا چیزوں اور ایک دوسرے کی مخالف چیزوں کو باہم ملا دے۔ ملتی جلتی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان زمین پر جمع کئے ہیں اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔

جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں، ستاروں، ہوا، زمین، دریا، حیوانات، نباتات اور مختلف معاون کو جمع کیا ہے اور یہ تمام اشیاء شکل میں، رنگ میں، ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے، رگ، عضلہ، مغز، جلد، خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے۔ یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں۔

ایک دوسری کے مخالف اشیاء کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے حالانکہ یہ اشیاء باہم متنافر اور ایک دوسرے پر غلبہ کرنے والی ہیں اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے

یہ اعلیٰ درجہ کی صورت ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدا کردہ اشیاء کی تفصیل جانتا ہو اور اس بات کی شرح طویل ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جمع سے بنا ہے بمعنی اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک جیسی مخلوق کو اکٹھا کرنے والا ہے جیسا کہ انسانوں کو اس نے روئے زمین پر جمع کر دیا ہے۔ پھر محشر میں دوبارہ سب کو جمع کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسری کے متبائن و مخالف چیزوں کو بھی جمع کرنے والا ہے یعنی آسمانوں، زمینوں، ستاروں، ہواؤں اور دریاؤں، حیوانات، نباتات اور پتھروں کو جمع کرنے والا ہے اور مختلف معدنوں کو بھی جمع کرنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف شکلیں، مختلف رنگ، ذائقے اور اوصاف رکھتی ہیں مگر اپنی قدرت کاملہ سے اس نے ان سب کو زمین میں جمع کر دیا ہے اور سب کو جہاں میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی طرح حیوانات میں اس نے ہڈیوں، انتڑیوں، رگوں، مغز اور دوسری چیزوں کو جمع کر دیا ہے اور اس نے متضاد اشیاء کو بھی جمع کر دیا ہے۔ جیسے عناصر اور ان کی مختلف کیفیات کو مزاج میں جمع کر دیا ہے۔ یہ جمع کی بلوغت ترین صورت ہے پھر اس نے عارفین کے دلوں کو تقدیر میں میدان شہود کے اندر جمع کر دیا تاکہ وہ پراگندگی کے اسباب درمیانی واسطوں کے دیکھنے اور حادثات سے نجات پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طلب میں ان کی فکر و سوچ کو ایک نکتے پر جمع کر دیا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ ان کے دل ذکر الہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (الْأَبْذِكْرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور علماء کے فضائل و کمالات کو بھی جمع کر دیا اور بعض کالین اولیاء میں علم، سرداری کرامت اور عزت و قدرت کو بھی جمع کر دیا پھر اولین و آخرین کے فضائل حضور سید المرسلین میں جمع کر دیئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وابتاعہ اجمعین۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ

الْمِيعَادَ ۗ (پ 3 آل عمران 9)

ترجمہ: اے ہمارے رب تو اس دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں شک نہیں بے شک مقررہ وقت نہیں بدلتا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۙ (پ 5 نساء 87)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں شک نہیں ہے اور اللہ کی بات ہی ہر کسی سے بڑھ کر سچی ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۙ

(پ 5 نساء 146)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کفاروں کو دوزخ میں سب کو ملا کر اکٹھا کرنے والا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۗ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (پ 12 ہود 103)

ترجمہ: بے شک اس میں اس کیلئے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ ایک دن ہے جب سب لوگ اس کے حضور جمع ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝ (پ 16 کہف 99)

ترجمہ: اور اس دن ہم بعض کو چھوڑ دیں گے جو ان میں سے بعض دوسروں پر حملہ کریں گے اور صور پھونکا جائے گا ہم سب کو جمع کر دیں گے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۙ (پ 25 شوریٰ 29)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی نے ان کے درمیان جانداروں کو پھیلایا ہے اور وہ اپنے چاہنے پر انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ هِيئَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

(پ 27 واقعہ 49-50)

ترجمہ: آپ فرمادیں تمام اگلے اور پچھلوں کو ایک مقررہ دن ضرور جمع کر لیا جائے گا۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ^ط (پ 28 تغابن 9)

ترجمہ: جس دن تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کیا جائے گا وہ تغابن یعنی ہارجیت کا دن ہوگا۔

بندوں میں سے جامع وہ ہے جو نشست و برخاست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نور معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بجھانہ دے۔

صبر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو زہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے اس میں باطنی روشنی نہیں ہے اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے۔

بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عجیب عجیب چیزوں اور مصنوعات کو جمع کر دیا ہے اس میں تفکر و تامل کرتا رہے اس کے غیر متناہی افعال میں بھی غور و فکر کرتا رہے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر علم و عمل نفسانی و جسمانی کمالات اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور اچھی اچھی صورتوں کو جمع

کرے۔ پسندیدہ اخلاق عبادات کے وظائف خیرات اور باقی فضائل و کمالات کو اپنے میں جمع کرے۔ اپنے ارادوں کو یکجا کرے۔ سکون قلب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ملائے رکھے۔

اس اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پاس اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جمع کر کے واپس لے آتا ہے جو اس سے جدا ہو گئی ہوں۔ عالمین کا اس کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اس اسم پر مداومت کرنے والے نیک اعمال کو جمع کرنے والے بن جاتے ہیں جس کی بنا پر باوقار اور صاحب تسکین ہو جاتے ہیں۔

الْغَنِيُّ

يَا غَنِيُّ (اے بے نیاز) ☆ اعداد: 1060 - تاثیر: جلالی
اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے۔ اس لئے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے یعنی اسے مخلوق سے اپنے لئے کسی چیز کی طلب نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لئے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جو دو کرم اور فضل میں سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔

غنا بمعنی بے نیاز ہونا، اغنا بے نیاز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے کہ ذات و صفات اور افعال میں سب سے بے نیاز ہے اور بے نیاز ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بے

نیاز کر دیتا ہے یعنی اپنے بندوں کو بے نیاز کر دیتا ہے لیکن جو ہستی دوسرے کے بے نیاز کرنے سے غنی ہوتی ہے وہ غنی مطلق نہیں ہو سکتی۔ بالفرض اگر اپنے جیسے افراد سے وہ بے نیاز بھی ہو پھر بھی حقیقتاً محتاج ہے اور غنی مطلق صرف حق تعالیٰ و تقدس ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ (پ 3 بقرہ 261)

ترجمہ: اچھی بات کہنا اور خطا معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے حلم والا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (3 بقرہ 267)

ترجمہ: اور جان لو کہ بے شک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى
النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (پ 4 آل عمران 97)

ترجمہ: اس میں مقام ابراہیم واضح نشانی ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن کی جگہ پر آ گیا اور اللہ کی طرف سے لوگوں کیلئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے بشرطیکہ اس کے پاس فر کے اخراجات ہوں اور اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا
(پ 5 نساء 131)

ترجمہ: تو بلاشبہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ (پ 8 انعام 133)

ترجمہ: اور تمہارا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (پ 13 ابراہیم 8)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ

(پ 17 ج 64)

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (پ 19 نمل 40)

ترجمہ: اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (پ 20 عنکبوت 6)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تمام دنیا سے غنی ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (پ 21 لقمان 12)

ترجمہ: اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ

(پ 21 لقمان 26)

ترجمہ: اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک اللہ غنی ہے، حمید ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (پ 22 فاطر 15)

ترجمہ: اور اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (پ 26 محمد 38)

ترجمہ: اور اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (پ 27 حدید 24)

ترجمہ: اور جو منہ پھیرے تو بلاشبہ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔

وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (پ 28 تغابن 6)

ترجمہ: اور اللہ غنی ہے حمید ہے

وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ع (پ 28 ممتحنہ 6)

ترجمہ: اور جو کوئی اس سے منہ پھیرے تو بلاشبہ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔

بندے نے جب یہ جان لیا کہ خدائے سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اس کے حضور میں اپنی نیاز مندی ظاہر کرے اور جب اس نے یہ جان لیا کہ وہ بے نیاز کرنے والا ہے تو سب سے طمع کا تعلق کاٹ لے۔ اگر سوال کرے تو صرف اسی سے سوال کرے۔ اگر نیاز مند بنے تو اسی کا نیاز مند رہے۔ مخلوق سے بے نیاز رہے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ نیاز مندوں کی دستگیری کرے اور جیسے بھی ہو سکے ان کی محتاجی کو دور کرے۔ خدائے تعالیٰ کی جو نعمتیں اور کرم نوازیاں اس پر ہیں فقراء و مساکین پر انہیں تقسیم کرے اور انہیں فیض پہنچائے اور انہیں سوال سے بے نیاز کر دے تاکہ اسم المغنی سے بھی حصہ پالے۔

الْمُغْنَى

يَا مُغْنِيَّ (اے بے نیاز کرنے والے)

اعداد: 1100 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ مغنی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کر دیتا ہے۔ انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا میں تین امور یعنی علم میں غنا، رزق میں غنا اور اقتدار میں غنا شامل ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر جسے چاہتا ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر

دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان اگر اب غریب ہیں، بے سامان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھایا کہ غنی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیونکہ اللہ بذات خود معنی یعنی غنی کرنے والا ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ جس شعبے میں غنی بننے کی ضرورت درپیش ہو اسے معنی کہہ کر پکارے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو غنی کر دے گا۔

معنی وہ ہے جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے بلکہ اغیار کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس شے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے پس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو مطلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کیلئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معنی بھی ہے۔ یعنی غنی بھی کر دیتا ہے مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں ہو سکتا۔ کم از کم وہ معنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں رہا بلکہ غیر اللہ سے بھی مستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا مہیا کر دیتا ہے۔ نہ بایں معنی کہ اس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی اور جو شے محتاج ہے اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں زیادہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کی جاسکتی ہے وہ صرف یہی ہے تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اللہ غنی و انتم فقراء یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مستغنی ہو سکتے ہیں تو خدا کیلئے معنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۗ

(پ 10 توبہ 28)

ترجمہ: اور اگر تمہیں تنگدستی کا خوف ہو تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔

حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ط (پ 18 نور 33)

ترجمہ: یہاں تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ ح (پ 10 توبہ 74)

ترجمہ: اور انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ ط وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

(پ 5 نساء 130)

ترجمہ: اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دونوں کو غنی کر دے گا اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(پ 18 نور 32)

ترجمہ: اگرچہ وہ غریب ہوں اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۗ ط (پ 19 شعراء 207)

ترجمہ: کیا اس نے غنی کیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ ه

(پ 24 زمر 50)

ترجمہ: ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی مگر جو کچھ انہوں نے کسب کیا اس نے انہیں غنی نہ کیا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ 24 مومن 82)

ترجمہ: پھر بھی اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کام نہ آسکا
یعنی اس نے انہیں غنی نہ کیا۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (پ 27 نجم 48)

ترجمہ: اور بلاشبہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی غریب کرتا ہے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ (پ 29 حاقہ 28)

ترجمہ: میرے مال نے مجھے غنی نہ کیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (پ 30 الضحیٰ 8)

ترجمہ: اور آپ کو ضرورت مند پا کر آپ کو غنی کر دیا۔

الْمَانِعُ

يَا مَانِعُ (اے منع کرنیوالے) اعداد: 161 ☆ خاصیت: جلالی

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مانع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روکنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور نقصان وہ چیزوں کو روک سکتا ہے۔ وہ شیطانی قوت جو برائی پیدا کرتی ہے اور اسے نیست و نابود اور تباہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔

حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں فرمایا (لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ وَلَا مُعْطَىٰ لِمَا مَنَعَ) ”جو کچھ اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ روکنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ بندہ جب جان لیتا ہے کہ خدائے تعالیٰ ہی دینے والا اور روکنے والا ہے تو وہ اس کی عطا کا امیدوار بن جاتا اور اس کے روک لینے کے

خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ صالحین و مستحقین کو عطا کرے اور فاسق اور ظالم لوگوں سے اپنی عطا روک کر رکھے یا دل اور روح کو حضور و طاعت کے انوار سے حصہ عطا کرے اور نفس و طبیعت کو ہوا و شہوت سے روک کر رکھے۔

اللہ تعالیٰ انسانی بدنوں کو ہلاک و نقصان کے اسباب سے روک کر رکھتا ہے اور دین کو عقل پیدا کر کے اور شرع کی روشنی سے فیضان عطا کرنا ہے۔ اس معنی کے مطابق یہ لفظ حفیظ کے معنی کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ ہلاکت کے اسباب کو روک لینا حفظ کی ضروریات و لوازم میں سے ہے۔ یہ حفاظت اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی لیکن منع کی نسبت ہلاک کرنے والے سبب کی طرف کرتے ہیں اور حفظ کی نسبت ہلاکت سے محفوظ رہنے کی جانب کرتے ہیں۔ منع سے مقصود اور غرض و غایت بندے کی حفاظت ہے پس اسم الحفیظ میں جس قدر بھی معنی ہیں وہ سب ان دو اسموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

الحفیظ کے معنی میں تعلق اور موصوف ہونے کا جو ذکر پیچھے گزرا ہے اسم المانع میں بھی ملحوظ ہوگا۔ دو معنوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ معنی اول کے لحاظ سے عطا سے روکنا مراد ہوگا اور معنی ثانی کے لحاظ سے بلا و مصیبت سے روکنا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کا کرم ظاہر و علانیہ ہوتا ہے اور کبھی عطا سے روکنا بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے لیکن یہ لطف و کرم پوشیدہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اس کی آرزوں اور شہوتوں سے روک لیتا ہے جسے وہ اپنے فضل و کرم سے مخصوص کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں سے کر لیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے دل سے اس کے ارادوں اور اختیارات کو روک لیتا ہے جسے وہ اپنی ذات کیلئے خالص کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے اہل خلوص کا مقام اہل خصوص سے بلند تر ہے۔ بندہ جب جان لیتا ہے کہ میرا مولا تعالیٰ ہلاکت و نقصان کے اسباب مجھ

سے روک کر رکھتا اور اپنی حفاظت میں میری نگرانی کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ اس نعمت پر خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط

(پ 5 نساء 141)

ترجمہ: تو کہیں گے کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ
كِرْهُونَ ۝ (پ 10 توبہ 54)

ترجمہ: اور ان کے خرچ کئے جانے کو قبولیت سے کسی نے منع نہیں کیا بجز اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کو کاہلی کے ساتھ ادا کرنے آتے ہیں اور ایسے ہی ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتُلْ وَإِنَّا لَهُ
لَحَفِظُونَ ۝ (پ 13 یوسف 63)

ترجمہ: تو کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان ہم سے غلہ روک دیا جائے گا اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ (پ 15 بنی اسرائیل 94)

ترجمہ: اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی ہے مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ایک بندے کو

رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

(پ 15 کہف 55)

ترجمہ: اور لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی
ہے اور وہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں سوائے اس کے کہ ان کے
پاس پہلوں کا طریقہ آئے یا ان کے سامنے عذاب آجاتا ہے۔

أَمْ لَهُمُ الْإِلَهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (پ 17 انبیاء 43)

ترجمہ: کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو ان کو مصائب سے بچا
لیں۔ ان میں تو اپنے آپ کو بچانے کی استطاعت نہیں ہے اور نہ وہ
ہماری طرف سے ان کی مصابحت پائیں گے۔

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ لَّامِنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۙ

(پ 26 ق 25)

ترجمہ: حکم ہوگا کہ تمام سرکش ناشکروں کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے
منع کرنے والا حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا تھا۔

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝ (پ 28 حشر 2)

ترجمہ: وہی ہے جو اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے لشکر کے

پہلی مرتبہ جمع ہونے پر نکال لایا تمہارا ہرگز خیال نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ یہ خیال کئے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچالیں گے۔ پھر اللہ کا حکم ان پر اس مقام سے آیا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ اے شعور رکھنے والو اس سے عبرت حاصل کرو۔

هَمَّازٍ مَّسَاءٍ بِنَمِيمٍ لَا مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اِثِمٍ لَا (پ 29 قلم 11-12)
ترجمہ: طعنہ زن پھر کر چغلیاں کرنے والا اچھائی سے منع کرنے والا حد سے بڑھ کر گناہ کرنے والا۔

الَّذِينَ هُمْ يَرَاوْنَ لَا يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ع (پ 30 ماعون 6-7)
ترجمہ: وہ جو ریا کاری کرتے ہیں اور مانگنے پر استعمال کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔

جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے ادیان و ابدان سے، نقصان و ہلاکت کے اسباب دور کرتا ہے اور حفیظ کے معنی بیان ہو چکے حفظ کیلئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حفیظ کے معنی سمجھتا ہے وہ مانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے فرق اتنا ہے کہ منع سبب مہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے اور حفظ اس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے اور وہ منع سے مقصود ہے۔

خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کیلئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کیلئے نہیں کیا جاتا لہذا ہر حافظ وافع و مانع ہے لیکن ہر منع کا حافظ ہونا ضروری نہیں مگر اس وقت جبکہ وہ تمام اسباب ہلاک و نقص کا مانع مطلق ہو جس سے حفظ کا حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔

جب منع عطا کی ضد ہے اس طرح المانع المعطی کی ضد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا عَطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ
ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (صحیح بخاری کتاب الدعوات)

ترجمہ: اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے مقابلہ میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔

”جب انسان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہلاکت اور نقصان کے اسباب کو اس سے روکتا ہے اور اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تو محسن حقیقی جل مجدہ کا شکر یہ بجالائے گا۔“

اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ فساد کے راستوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور جو لوگ دین میں صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی دین میں حفاظت کرے اور اہل دین کو آفات و بلیات سے حفاظت میں رکھے۔

پس اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے روکیں اور اگر کوئی انسان اس کی مدد کرے تو اس سے دھوکا نہ کھائے کیونکہ وہ محض سبب ہے اصل معطی تو اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کو جو اس صفاتی نام سے پکارتا ہے تو وہ اس سے ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور ہر لحاظ سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔

الضَّارُّ

یا ضار (اے نقصان پہنچانے والے)

اعداد: 1001 ☆ خاصیت: جلالی

صفت ضار اللہ تعالیٰ کی شان قدرت سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ لوگ جو یہ سوچیں کہ اللہ ہمارا کیا کر سکتا ہے یا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس صورت میں اللہ اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے اور ضرر دے کر مخلوق کو راہ راست پر آنے کی تنبیہ کرتا ہے۔

امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دراصل ضار اور نافع وہ ذات اعلیٰ ہے جس سے خیر و شر اور نفع و ضرر دونوں صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ فرشتوں، انسانوں اور جمادات کے ذریعہ یا بغیر ذریعہ اپنے احکام مبارک کرتا ہے ہرگز یقین نہ کرو کہ زہر بذاتہ مارتا یا نقصان پہنچاتا ہے یا فرشتہ، انسان، شیطان یا اور مخلوق اور ستارہ نیکی یا بھلائی پہنچاتا ہے بلکہ یقین رکھنا چاہئے کہ یہ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کیلئے انہیں مقرر کیا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ اس اسم کا عمل قلم کی طرح ہے جو کاتب کی طرف منسوب ہے جس انسان کو کرامت یا عذاب ہوا سے قلم سے نہ نفع ہوگا نہ ضرر بلکہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس سے جزا ملتی ہے اور یہی کیفیت تمام وسائط کی ہے۔ بہر ثبوت حضرت ابراہیم کا واقعہ ملاحظہ ہو کہ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل پر چھری نے کوئی اثر نہ کیا۔ جاننا چاہئے کہ قلم اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جو کاتب کا ہاتھ ہے۔ کاتب جو لکھتا ہے وہ اللہ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ اللہ تعالیٰ ہی نے قدرت جاریہ

پیدا کی ہے جس سے انگلیاں حرکت کرتی ہیں۔ یہ وقائق سمجھو معرفت مکمل ہوگی اور موجودات کے ہر ذرہ میں خود کو موجود پاؤ گے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ضار وہ ہے جس سے خیر و شر اور نفع و ضرر صادر ہوتے ہیں اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں یا تو وہ ان امور کا اجراء ملائکہ، انسان اور جمادات کے ذریعے سے کرتا ہے یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ زہر خود بخود مار ڈالتا ہے اور طعام خود بخود سیر کر دیتا ہے اور نہ یہ خیال کرنا کہ فرشتے، انسان، شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ مثلاً فلک، ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ یہ تمام اشیاء اسباب مسخر ہیں جو صرف وہی کام کر سکتے ہیں جن پر وہ مامور ہیں اور یہ تمام امور قدرت ازلیہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کاتب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکمنامہ پر دستخط کرتا ہے تو اس کا ضرر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام وسائط و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کا کاتب مسخر سمجھتا ہے اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا مسخر ہے جس کی تسخیر میں خود کاتب بھی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کاتب کو پیدا کیا اور اس کو لکھنے کی قدرت دی اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی پکی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد نہیں تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ وہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کاتب خدا ہے جو انسان کے قلم اور اس کے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے۔ جب تم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو۔

قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ (پ 6 ماہدہ 76)

ترجمہ: فرمائیے کہ تم اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور اللہ وہ ہے جو سننے والا جاننے والا ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَمْسَسْكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 7 انعام 17)

ترجمہ: اور اگر کوئی تجھے اللہ کی طرف سے سختی پہنچے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط

(پ 9 اعراف 188)

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مختار نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط لِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ ط (پ 11 یونس 49)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جتنا اللہ چاہے ہر امت کیلئے وقت مقرر ہے۔

قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا ط (پ 13 رعد 16)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کارساز بنا لئے ہیں جو اپنی جانوں کیلئے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا ۝ (پ 16 ط 89)

کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ انہیں

نفع و نقصان دے سکتا ہے۔

وَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (پ 18 فرقان 3)

ترجمہ: اور نہ وہ اپنے لئے نقصان اور نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ انہیں موت اور نہ انہیں زندگی اور نہ دوبارہ اٹھنے پر اختیار ہے۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط وَنَقُولُ لِلَّذِينَ
ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ○

(پ 22 سبأ 42)

ترجمہ: پس آج کے دن تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہے اور ہم ظلم کرنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (پ 26 فتح 11)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اللہ کے مقابلے میں کہ ان کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (پ 29 جن 21)

ترجمہ: آپ فرمائیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے لئے نہ ضرر اور نہ ہدایت کا مالک ہوں۔

النَّافِعُ

يَا نَافِعُ (اے نفع پہنچانے والے)

اعداد: 201 ☆ خاصیت: جمالی

نفع کا مطلب نفع دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، مفید اور فائدہ مند، موجب بہتری، باعث بھلائی اور اچھائی کا جواز بننے والا۔ بہتر نتیجہ دینے والا، عمدہ ثمرہ دینے والا، منافع اور فائدے والا، گویا اپنی اس صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے قانون و قاعدے کے مطابق نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر اعتبار سے مخلوقات کیلئے نافع ہی نافع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات کیلئے قدم قدم پر فائدے اور بھلائیاں ہی رکھی ہوئی ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ نفع پہنچانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اسے نفع کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کاروبار لینے دینے سے چلتا ہے۔ لین دین میں کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو نقصان، اگرچہ لین دین میں ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے نفع حاصل ہو مگر اللہ تعالیٰ اپنے صفت نافع کی بنا پر جسے چاہتا ہے اس سے نفع بخش دیتا ہے کیونکہ آسائش اور آسانی پہنچانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس سے مانگتے جائیں۔ اللہ کا نافع ہونا ساری مخلوق کیلئے ہے۔ اللہ اس کیلئے بھی نافع ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اسے بھی نفع پہنچاتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا گویا کہ نفع پہنچانے میں اس نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ نفع صرف نیکوں کو ملے گا، بروں کو نہیں، یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے نفع دے اور جسے چاہے نقصان میں مبتلا کر دے۔ اس راز کو وہ بذات خود ہی بہتر جانتا ہے البتہ جو شخص اس پر ایمان لانے

کے بعد اسے یا نافع کہہ کر پکارے گا اللہ اس کو اپنی صفت نافع کی بنا پر ضرور نفع رسائی کرے گا۔

شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر و شر ہے اور خالق نفع و ضرر ہے اور وہی درد و دوا کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی خوشی اور تکلیف، گرمی و سردی و خشکی و تری کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ گمان نہ کرو کہ دوا بذات خود نفع دیتی ہے اور زہر بذات خود ہلاک کرتا ہے اور کھانا بذات خود بندے کو سیر کرتا ہے اور پانی بذات خود بندے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مادی اسباب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت مبارکہ اس طرح جاری ہے کہ اس نے ان چیزوں کو اسباب بنایا ہے اور ان کے ذریعے چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان کے بغیر بھی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو ان اسباب کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عالم علوی و سفلی کے تمام اجزا میں یہی چیز کار فرما ہے۔ واسطے اور اسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ و تامہ کے تابع ہیں۔ ان تمام اسباب کی نسبت قدرت ازلی کی جانب اس طرح ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کہ وہ قلم بے توقف لکھتا چلا جاتا ہے حالانکہ اس قلم میں لکھنے والے کی قدرت و ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ قدرت ایک ایسی صفت ہے جو اکثر صفات کو شامل ہے خصوصاً صفات فعلیہ کو۔ ان میں فرق عموم و خصوص اور جہات و حیثیات کا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ ضرر و نفع سب کچھ خدا کی طرف سے جانے اور عالم اسباب کو اس کی قدرت کے آگے مغلوب تصور کرے۔ قضائے الہی کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے اور اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دے اور ایسی زندگی بسر کرے کہ لوگوں کو اس سے راحت پہنچے اور لوگ اس سے آرام میں رہیں۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

(پ 14 نحل 5)

ترجمہ: اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا اس میں تمہارے لئے گرم لباس اور دیگر فوائد ہیں اور ان میں بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ (پ 17 حج 28)

ترجمہ: تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر پہنچ جائیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو جانوروں کا رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۗ (پ 17 حج 33)

ترجمہ: تمہارے لئے ایک مقررہ مدت ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے پھر ان کے قربان ہونے کا مقام اللہ کے قدیم گھر کے پاس ہے۔

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ (پ 18 مومنون 21)

ترجمہ: وہ دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لئے لاتعداد فوائد ہیں اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۙ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (پ 23 یسین 73)

ترجمہ: اور ان میں ان کیلئے فائدے اور پینے کیلئے دودھ ہے تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝ (پ 24 مومن 80)

ترجمہ: اور اس میں تمہارے لئے بہت فائدے ہیں اور پھر ان پر سوار ہو کر تم اس جگہ پہنچ جاتے ہو جہاں پر جانے کی خواہش تمہارے دل میں ہوتی ہے اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (پ 27 حدید 25)

ترجمہ: اور ہم نے لوہا عطا کیا اس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کیلئے بہت سے فائدے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دانت درد کا عارضہ لاحق ہوا۔ آپ اس درد سے خدا کے حضور میں پڑنے۔ حکم ہوا فلاں گھاس دانتوں پر رکھیں تاکہ آرام آجائے۔ آپ نے وہ گھاس اپنے دندان مبارک پر رکھی تو فوراً آرام آ گیا۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ آپ کو پھر دانتوں کا درد لاحق ہوا آپ نے پھر وہی گھاس دانتوں پر رکھی تو بجائے آرام آنے کے درد زیادہ ہو گیا۔ عرض کیا یا الہی یہ وہی گھاس ہے جو تو نے مجھے بتلانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑک والا خطاب آیا کہ پہلی بار تیری توجہ میری جناب کی طرف تھی تو ہم نے شفا دے دی۔ اس دفعہ تیری توجہ گھاس کی طرف تھی اس لئے ہم نے درد کو زیادہ کر دیا تاکہ تو جان لے کہ شفا عطا کرنے والے ہم ہیں نہ کہ گھاس۔

اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرر پہنچائے خدا کے امر و شہادت کے حکم کے مطابق پہنچائے۔ دین کے دشمنوں کو ڈانٹے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نفع پہنچائے، ان کی مدد کرے تاکہ ارادہ و عمل کے تحت دونوں عملوں کا تقاضا پورا کرے۔ حقیقت و شریعت کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے۔

النُّورُ

يَا نُورُ (اے نور) ☆ اعداد: 256 - خاصیت: جمالی

نور کا عام مطلب روشنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نور کا لفظ فکر و بصیرت علم و عقل کی روشنی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی نور کہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کیلئے مشعل ہدایت ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نور ذات ظاہر ہے جس سے تمام اشیاء کا ظہور ہے کیونکہ جو چیز فی نفسہ ظاہر ہو اور دوسری اشیاء کو ظاہ کرنے والی ہو اس کا نام نور ہے اور جب وجود کا مقابلہ عدم سے کیا جائے تو یقیناً وجود ہی میں پورا ظہور پایا جائے گا اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے وہ سب سے زیادہ نور کہلانے کا مستحق ہے۔

وجود ایک نور ہے جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے۔ پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر وال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجد کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرف عام میں نور بمعنی روشنی ہے اور اسم الہی میں نور بمعنی منور ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ستاروں اور سیاروں سے روشن کرنے والا۔ زمین کو انبیاء، اولیاء، علماء، مومنین، مومنات، باغات اور پھولوں سے روشن کرنے والا ہے۔ اسی طرح مومنوں اور عارفوں کے دلوں کو نور ایمان، طاعات و اخلاق و معارف و حقائق سے روشن کرنے والا ہے۔

خاص لوگوں کے نزدیک نور ایسی چیز سے عبارت ہے جو خود بھی بہت ظاہر ہو اور غیر کو ظاہر کرنے والی ہو۔ جب وجود عدم کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو وجود عدم سے ظاہر ہوتا ہے اور عدم پوشیدہ ہوتا ہے اور کوئی چیز عدم سے زیادہ تاریک نہیں ہے۔ پس وہ ذات جو عدم سے پاک ہو بلکہ عدم کے امکان سے بھی پاک ہو اور جو اشیاء کی حقیقتوں کو ظلمت عدم سے باہر لانے والی ہو وہ باقی ہر چیز سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کا نام نور رکھا جائے۔ وجود بھی ایک نور ہے جو تمام اشیاء پر جلوہ گر ہوتا ہے تمام چیزوں کا وجود اس کی ذات کے نور سے ہے۔

بندے کو چاہئے کہ طبیعت کی تاریکی اور نفس کی میل کچیل سے باہر نکلے اور ہدایتوں سے سینے اور شریعت کے چراغ سے نور حاصل کرے۔ علم و عمل کے نور سے نیک کو بد سے الگ کرے اور شیطانی و نفسانی خیالات ملکاتی اور رحمانی خیالات سے جدا کرے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے طریقت کا ہر وہ حال جو علم شریعت کا نتیجہ نہ ہو اگرچہ کتنا ہی عظیم حال کیوں نہ ہو اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہے اور جو شخص ظاہر علم اور آداب شریعت کو نظر انداز کرتا ہے اس کے دل میں حقیقی نور نہیں آسکتا۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ ایمان و عرفان کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے۔ دین کے احکام کو ظاہر کرے۔ ریاضت و مجاہدہ تزکیہ نفس تصفیہ قلب اور تجلیہ روح اور نور الانوار کے ذریعے بشری ظلمتوں کو فنا کرے۔ نیز نوروں کے نور سے اپنے آپ کو باقی کرے بلکہ عین نور بن جائے۔ (اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا وَاَعْظِمْ لِي نُورًا وَاَجْعَلْنِي نُورًا) اے اللہ میرا نور زیادہ کر اور مجھے مجسم نور بنا دے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَا يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ

لُنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۝ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (پ 18 نور 35)

ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو۔ فانوس گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے رخ پر نہیں ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود آگ چھونے کے بغیر روشن ہو جائے۔ یہ نور پر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کیلئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ (پ 10 توبہ 32)

ترجمہ: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کئے بغیر نہ رہے گا خواہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ۝ (پ 28 القف 8)

ترجمہ: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔

حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نور وہ خالق کل ہے جس نے تمام چیزیں ظاہر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی فی نفسہ مظہر ظاہر ہے جس کا نام نور ہے وجود دراصل عدم کے مقابل ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وجود ظاہر و روشن ہے اور عدم ظلمت کدہ و تاریک ہے۔ وجود کا نور درحقیقت ذات وجود پر نور ہے جو فیاض ہے اور

وہی آسمان وزمین کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔

نور کی دو قسمیں ہیں ایک حسی دوسری معنوی محسوس اور حسی نور آنکھ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں ودیعت کیا ہے۔ اسی طرح مبصرین کیلئے ان کے قلوب میں تدبیر و اعتبار کا نور رکھا ہے جو بصارت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ نور اقتدار نور سائل اور نور علیم کا نور ہے جو حقائق عالم پر سلوک معلوم سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سلوک چاہے سلوک عقلی ہو یا سلوک شرعی۔

شہود حکمت اور ظہور عبودیت کی حقیقت دراصل تنزیہ ربوبیت کی طرح ہے اور یہ نور آٹھ قسم کا ہے۔ نور قلب، نور ایمان، نور نفس، نور روح، نور عقل، نور سر، نور قلب اور نور کشف۔ ان میں سے ہر نور کے اسرار ہیں جو سب کے سب حقائق عرش ہیں اور ان ہی سے وہ آٹھ نورانی ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً) قیامت کے دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھالیں گے۔ قلب کا نور ایمان کے نور سے ہے جس طرح ایمان نوری صفت ہے۔ جن لوگوں پر نور ایمانی کا فیضان ہے جو تمام تکالیف شرعیہ اور اوامر شہودیہ کو قبول کر کے ان ہی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ)۔

جب دل کی آنکھیں نور ایمانی سے مقابل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے علم ملک کو اجمالاً و تفصیلاً منکشف کر دیتا اور اسرار عالم ترکیب سے وہ واقف ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان میں ودیعت کیا اس کے ایک ایک ذرہ میں نور حقانی انہوں نے دیکھ لیا۔ حقیقت انوار الہی میں سے ہر نور کا یہی عالم ہے جس نے اس کا نور دیکھ لیا وہ اگر دیواروں کو شعاع نور سے جل رہی ہیں تو کون سا تعجب ہے جبکہ دھوپ سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور ایسا مسلمان اپنے قلب جسم میں نور ہی نور دیکھتا ہے۔

نفس کا نور روح کے نور سے منور ہے جس کا نفس اطاعت الہی اور طہارت ظاہری و باطنی رکھتا ہے فکری کثافتوں سے الگ ہو گیا تو اس کا نور روح کے نور سے

بہرہ مند ہو گیا اور جنت میں استغراق شہود سے مالا مال رہتا ہے۔ وہ مسلمان ہے جس کے نفس اور روح کو اللہ تعالیٰ نے جبروت کے انوار حقائق کا کشف دیا ہے۔ یہ مسلمان موجودات میں لطائف تصرف الہی ملاحظہ کرتا اور ملائکہ کو کلمہ طیبہ آسمان پر لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔

عقل کا نور، اسرار کے نور کے منجملہ ہے جس شخص کی عقل معرفت مستقیم ہو گئی و سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہتا ہے جس کی وجہ سے اسرار الہی دیکھتا اور عجائبات ملکوتیہ مشاہدہ کرتا ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی میں جزوی و کلی روابط جو ایک کلمہ سے قائم ہیں ان کی حقیقت مفصل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسرار کا نور قرآن کریم کے نور سے مستمد ہے جس مسلمان کے اسرار ملاحظہ ایمان سے بہ توسط الوان اور غنائن الحق ظاہر ہوتے ہیں جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظاہر کی ہے۔ انوار تحقیق و حقائق معارف اور انوار تجلیات کو حاصل کرتا ہے اور قرآن کریم کے انوار میں غوطہ زن ہو کر موتی نکالتا ہے۔ قرآن کریم نور اسی کشف اعلیٰ کا نام ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ اس اسم کے ذاکر کا دل انوار افکار کے آئینے کو روشن کرتا ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلْحِ حَلال روزی کھانا آرام کی چیزیں ترک کرنا ہمیشہ روزے رکھنا ہر وقت وضو اور طہارت سے رہنا اور پچاس دن اسی طرح ریاضت کرنا ذاکر کیلئے لازمی ہے۔ بشرائطہ بالا پچاسویں دن ذاکر اپنے منہ سے بوقت تلاوت نوری شعاعیں نکلتے دیکھے گا اور عرش و کرسی کی طرف دیکھے گا تو انوار جمال دیکھے گا تمام دنیا اور علویات اس پر ہویدا ہوں گے نور کشف کی تاثیر تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد مدینہ میں سے اسلامی لشکر مقیم نہاوند کے کمانڈر کو حکم دیا تھا۔ یَا سَارِيَةَ اِلَى الْجَبَلِ۔

الْهُدَى

يَا هَادِي (اے ہدایت پر قائم کرنے والے)

اعداد: 20 ☆ خاصیت: جمالی

ہدایت کا مطلب کسی کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا ہے تاکہ اس راہ پر چلنے والا منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ ہر طرح کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لئے ہادی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہادی وہ ہے جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور عام بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھہراتے ہیں اور مخلوق کو اپنی ضرورتوں کا جو پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے۔ چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے اور پھر چوزے کو اس کے انڈے سے نکلتے ہی دانہ چگنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شہد کی مکھی کو ایسے شش پہلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کیلئے ارد گرد کچھ خالی جگہ نہ رہے، تمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔

حضرت شیخ کا قول ہے کہ یہ لفظ ہدایت سے بنا ہے بمعنی راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ تمام چلنے والوں کا رہنما وہی ہے جو شخص دنیا کے راستے پر چلتا ہے۔ اس کا رہنما وہی ہے جو آخرت کے راستے پر چلتا ہے۔ اس کا رہبر بھی وہی ہے اور جو اس کی جناب قرب کے راستے پر اس کے وصل کیلئے چلتا ہے۔ اس کے

جذبات محبت و عنایت کا ہادی بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہادی ہے وہی بندوں کو اصلاح امور معاش کی ہدایت فرماتا ہے، انبیاء کو حقائقِ اصلیہ اور حق کی حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے، کشف والہام سے مخلصین کی ہدایت فرماتا ہے۔ عقل و حکمت سے اربابِ دانش کو ہدایت فرماتا ہے۔ مشکلات و مصائب میں جب عقل و ہوش بے بس ہو جائیں اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، رشد و رضوان کی طرف مومنین کو ہدایت فرماتا ہے مگر فاسق، کاذب، کفار، خائن اور مسرف اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حضرت امام بونی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ہادی وہ ذاتِ کمال ہے جس نے مخلوق پیدا کر کے اسے اپنی معرفت ذات کی ہدایت دی اور ہدایت کو اپنی ذات سے منسوب کیا۔ ہدایت یقیناً اللہ ہی کی ہدایت ہے جو ہدایت کی طرف چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشاۃ اول میں وجود کو قدم سے پیدا کر کے اس کی دو قسمیں کی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ اول فریق جو اہل یمین ہے جنت میں ہے اور دوسرا فریق اہل یسار ہے، دوزخی ہے۔ ان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شاہد ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے توحید قبول کرنے کی ہدایت دی اور کافروں کو ان کے وجود کے تحت اضطراب دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہادی حقیقی ہے دیگر معبودوں پر ہدایت کا اطلاق مجازاً بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کے لحاظ سے اصل کی طرف ہدایت ہی نہیں کی جس پر وہ چلتے بلکہ وہ خود اصل ہدایت سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر ہے اس کے احکامات جو ر و ظلم سے منزہ ہیں۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ۙ وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

(پ 7 انعام 71)

ترجمہ: فرمادیتے ہیں کہ ہدایت جسے اللہ دیتا ہے وہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم

ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم ختم کر دیں۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ (پ 8 اعراف 43)

ترجمہ: اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے تھے۔

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○
(پ 9 اعراف 186)

ترجمہ: جو اللہ کی طرف سے گمراہ ہو جائے تو اس کیلئے کوئی ہادی نہیں ہے۔ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (پ 16 ط 50)

ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو موزوں صورت عطا کی ہے پھر اسے ہدایت دے دی ہے۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

(پ 16 ط 82)

ترجمہ: اور جو کوئی توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت کی راہ پر چلے میں بے شک اسے بخشے والا ہوں۔

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ص وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

(پ 17 حج 24)

ترجمہ: اور پاکیزہ بات قبول کرنے کیلئے ان کی رہنمائی کی گئی تھی اور انہیں تعریف کئے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت بھی دی گئی تھی۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ○ (پ 18 فرقان 31)

ترجمہ: اور اے میرے محبوب اسی طرح ہم جرم کرنے والوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیتے ہیں اور آپ کیلئے آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد کرنے میں کافی ہے۔

يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ ۚ مَالِكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (پ 24 مومن 33)

ترجمہ: جس دن پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھرو گے اس وقت تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جسے اللہ ہدایت نہ دے تو اسے کوئی اور ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (پ 29 دھر 3)

ترجمہ: بے شک ہم نے اپنی طرف ہدایت کی راہ بھی دی چاہے شکرگزاری کرے خواہ ناشکری کرے۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ (پ 30 بلد 10)

اور ہم نے اسے دنیا اور آخرت کی راہ دکھلائی ہے۔

حضرت شیخ نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ہدایت کے اقسام و انواع شمار میں

نہیں آسکتے۔

چنانچہ بچے کو ماں کے شکم سے باہر آنے کے ساتھ ہی پستان سے دودھ چوسنے کی ہدایت دیتا ہے۔ مرغی کے بچے کو انڈے سے نکلنے کے فوراً بعد دانہ چننے کی رہنمائی کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کو مسدس شکل میں گھر بنانے کی رہنمائی بھی وہی کرتا ہے۔ یہ مسدس شکل شہد کے ذخیرے کیلئے نہایت موافق اور بہترین شکل ہے۔ ہدایت کی شرح بہت لمبی ہے۔ افضل و اعلم ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے طریق کی رہنمائی فرماتا ہے جو بندے کو جنات نعیم اور اس کی ذات کے چہرہ کریم کے دیدار تک پہنچاتا ہے پھر اپنے خاص بندوں کے باطن میں توفیق کے عجیب عجیب انوار پیدا کرتا اور ایسے اسرار

و تحقیق سے بہرہ ور فرماتا ہے کہ اس کے سبب بندہ طاعت و معرفت کی طرف ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت سے سب سے بڑھ کر موصوف ہونے والے اور اس اسم سے متخلق ہونے والے انبیاء، اولیا اور علماء ہوتے ہیں کیونکہ یہ حضرات مخلوقات کیلئے ہادی ہیں کہ صراط مستقیم و طریق قویم پر لوگوں کو چلاتے ہیں خصوصاً سید انبیاء ختم رسل صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کے راستے کے ہادی اور دینی علوم کو زندہ کرنے والے ہیں اے اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں صراط مستقیم پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا نہ اس کے راستے پر جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ گمراہوں کا راستہ۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ فرماتے ہیں تین چیزیں عارفین کے اخلاق میں سے ہیں۔ غمزدہ لوگوں کی تنگ دلی کو کھولنا، غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کر کے اللہ کی یاد میں مصروف کرنا اور توحید کی زبان سے مسلمان کو حق کا راستہ دکھانا یعنی ان کے دل کے چہرے کو دنیا سے موڑ کر دین کی طرف کرنا اور دنیوی زندگی سے دل ہٹا کر آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرنا۔

بندوں میں ہادی انبیاء اور علماء ہیں جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی طرف لے جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلاتے ہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کے تحت میں کام کرتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ اہل دنیا کا اصل اور حقیقی ہادی اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اصل ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے اس صفاتی نام سے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کو راہ ہدایت پر لانے کیلئے اور راہ ہدایت پر قائم رکھنے کیلئے یہ اسم بہت مؤثر ہے۔

۳۱۱ الْبَدِيعُ

يَا بَدِيعُ (اے عجب چیز پیدا کرنے والے)

اعداد: 86 - خاصیت: معتدل

اللہ کی ذات کی ایک صفت بدیع ہے جس کا مطلب کسی چیز کو بغیر نمونے کے بنا دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات اور افعال میں بے مثل ہے۔ اس لئے وہ بدیع مطلق ہے۔ بدیع کا لفظ ابداع سے بنا ہے جس کے معنی کسی چیز کو نیست و ہست میں لانا ہے اور عدم محض کو وجود میں لانا ہے اور کسی چیز کو بنانے کیلئے پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بدیع ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ پہلے موجود نہ تھا۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بدیع وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گزری ہو۔ پس اگر ذات صفات اور افعال میں اور اس کے متعلقہ ہر امر میں اس کی کوئی مثل نہ گزری ہو تو وہ بدیع مطلق ہے اور اگر کوئی اس قسم کی شے گزر چکی ہو تو وہ بدیع مطلق نہیں رہے گا۔ یہ اسم مطلقاً خدا سے خاص ہے کیونکہ اس کے ساتھ قبل (پہلے) کا معنی کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا۔ پس کوئی اس جیسی شے اس سے پہلے کیونکہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کی ایجاد سے بنی ہے اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ پس وہ ازلاً وابداً بدیع ہے۔ بندوں میں سے جو شخص ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ اس کی نظیر سابق میں نہ گزری ہو یا اس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو تو اپنے مخصوص اوصاف میں خاص زمانہ کے اندر بدیع ہے۔

ایک اور قول کے مطابق بدیع بمعنی بے مثل و بے مثال جو ہستی اپنی ذات اپنی صفات اور افعال میں بے مثل و بے مانند ہو وہ بدیع المطلق ہوتی ہے اور وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسم بدیع بمعنی مبدع بھی آتا ہے یعنی نئی شکل و صورت میں بنانے والا جس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو۔ اس اسم کی دونوں طرح تفسیر کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قول مبارک (بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) میں مفسرین نے دونوں طرح تفسیر کی ہے۔ بندے کو چاہئے کہ جو کچھ بھی ہو عجیب عجیب اور نئی نئی خدائی مصنوعات پر نگاہ ڈالتا رہے تو دل کو خدائے بے مثل و مانند کی جانب جو اسے بھی نئی شکل و صورت میں لانے والا ہے لے جائے اور اس کے قدیم وجود پر نئے نئے حادثات کے رونما ہونے سے دلیل پکڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا میوہ دیکھتے تو فرماتے تھے کہ یہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی معرفت کا اثر ہے۔ ہر بندہ جو کہ نبوت کی خاصیت سے مخصوص ہوتا ہے اور ولایت و علم جو اس میں بے مثل و بے نظیر ہوتا ہے یا نئی سامنے آنے والی چیز جو بھی ہوتی ہے اور جو صفت کمال کی طرف لوٹتی ہے اپنے وقت و زمانے میں انوکھی شکل و صورت میں نمایاں ہوتی ہے اسے بھی بدیع کہتے ہیں۔

تمام مخلوقات میں بے مثل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے میں فرد کمال اور واحد ذات ہیں اور اسمائے واجبہ تعالیٰ سے علی الاطلاق موصوف ہونے والے بھی آپ ہی ہیں۔ کوئی بھی ہستی آپ کی مثل اور نظیر نہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ ذَرَقِ

۱ مَنَزَّةٌ عَنِ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقَسِمٍ
ترجمہ: آپ اپنے حسن و جمال میں شریک سے منزہ ہیں تو حسن کا ذخیرہ جو آپ میں پایا جاتا ہے تقسیم نہیں ہو سکتا۔ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلٰوٰتِ اَفْضَلٰهَا مِنْ

التَّحِيَّاتِ اَتَمَّهَا وَاكْمَلَهَا

بدیع کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ 1 بقرہ 117)

ترجمہ: وہ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(پ 7 انعام 101)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

الْبَاقِي

يَا بَاقِي (اے ہمیشہ باقی رہنے والے)

اعداد: 113 --- خاصیت: جلالی

باقی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنی ابتداء کی حالت میں ہو ویسی ہی ہمیشہ کیلئے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لئے باقی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنی صورت پر قائم و دائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔

غرضیکہ باقی وہ موجود ہے جو لذاتہ واجب الوجود ہے لیکن جب اس کو ذہن میں

زمانہ مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ باقی کہلائے گا اور جب زمانہ ماضی سے نسبت دی جائے تو اس کو قدیم کہا جائے گا۔

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک منتہی نہ ہو جس کیلئے یہ لفظ مقرر ہیں کہ وہ ابدی ہے اور قدیم مطلق وہ ہے جس کے زمانہ میں موجود کی درازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں اور اس کیلئے یہ لفظ مقرر ہیں کہ وہ ازلی ہے۔

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذاتہ واجب الوجود ہے تو یہ تمام معنی اس میں آجاتے ہیں۔ یہ اسماء جو مقرر کئے گئے ہیں تو ذہن میں اس وجود کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں متغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل ہیں کیونکہ حرکت بذاتہا ماضی اور مستقبل کا مجموعہ ہے اور متغیر تغیر کے واسطہ سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے اور نہ اس میں ماضی و استقبال ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں جن پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے پھر کچھ اور ہوگی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی، جو موجود ہے وہ حال اور جو آنے والی ہے وہ مستقبل کہلاتی ہے اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام وہاں زمانہ ہی نہیں اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس وہ زمانہ سے پیشتر ہے اور زمانہ سے بعد جوں کا تو رہے گا۔

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقاء کی صفت باقی کی ذات سے زائد ہے اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے زائد ہے۔ ان خیالات کی بہودگی سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقاء کی بقاء اور صفات کی بقاء اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا خبط لازم آتا ہے۔

دوام ابدی اسی کیلئے ہے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے باقی ہے کہ وہ موت کا خالق ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی موت اس پر غالب نہیں آسکتی۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے مگر جس چیز کو وہ جتنی دیر رکھنا چاہے وہ باقی رہ سکتی ہے جس طرح انسانوں کے نیک اعمال مرنے کے بعد قیامت تک باقی رہیں گے۔ روح اور جنت دوزخ کا باقی رہنا اس کی مرہون منت ہے یعنی وہ انہیں ختم کرنے پر اختیار رکھتا ہے اور اگر چاہے تو انہیں بھی جب تک چاہے باقی رکھے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط (پ 14 نحل 96)

ترجمہ: جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بقا ہے۔

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ (پ 16 ط 73)

بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور جادو بھی معاف کر دے جس پر ہمیں مجبور کیا گیا اور اللہ بہتر ہے اور وہی باقی ہے۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ط

(پ 16 ط 131)

ترجمہ: اور اے سننے والے اپنی آنکھوں کو کافروں کی دولت کی طرف نہ جھکاؤ جو ہم نے ان میں میاں بیوی کو دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دلکش ہے اس سے ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے تیرے رب کا رزق سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ

اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (پ 20 قصص 60)

ترجمہ: اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر باقی رہنے والا ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

(پ 25 شوریٰ 36)

ترجمہ: پس جو تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان کیلئے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

كُلُّ مَنۢ عَلَيَّهَا فَاٰنٍ ۝ وَيَبْقٰى وَجْهٗ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَاِلٰكِرَامِ ۚ

(پ 27 رحمن 26-27)

ترجمہ: یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور آپ کے صاحب جلال اور اکرام والے رب کو بقاء ہے۔

دائم الوجود جو ہرگز فنا کو قبول نہ کرے۔ بندے کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بقا کے عکس میں اپنے آپ کو فانی کر دے اور دل کو ماسوا کے تعلق سے محفوظ رکھے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسے کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کے نشانات اس جہاں میں بھی باقی رہیں اور اس جہاں میں بھی اور بندے کو یہ بھی چاہئے کہ جلال حق میں فانی ہو جائے تاکہ اس طرح حیات ابدی پا کر ہمیشہ کیلئے باقی ہو جائے۔

شمس المعارف میں ہے کہ باقی وہ ذات مکمل باقی ہے جس کا وجود کبھی منقطع نہیں ہوتا اور واجب الوجود بذاتہ ہے۔ اس اسم کی ذہن کی طرف اضافت مستقل

شاندار ہوتا ہے اور نام باقی رہتا ہے اگر ماضی کی طرف اضافت کی جائے تو قدیم نام رہتا ہے۔ دراصل باقی وہ ہے جس کی قسمت ماضی میں ختم نہ ہو۔ اسی کو اول ازلی اور واجب الوجود بذاتہ کہتے ہیں۔ اس کے یہ مختلف نام ماضی، مستقبل اور منقلبات کی اضافت کی وجہ سے کہے جاتے ہیں کیونکہ ماضی وغیر زمانہ ہے اور تغیر و حرکت زمانہ ہی میں ہوتا ہے اور حرکت بذاتہ ماضی و مستقبل پر منقسم ہے اور متغیر زمانہ میں تغیر و انقلاب کی وجہ سے آتا ہے اور جو چیز تغیر سے خالی ہو وہ زمانہ میں نہیں آ سکتی اور ماضی و مستقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح امور متوجہ کا بھی وقت میں ہونا ضروری ہے جو تھوڑے تھوڑے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو گزر گیا ماضی ہوا جس کا انتظار ہے وہ مستقبل ہوگا۔ ان تمام امور کے پیش نظر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ کے پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا اور زمانہ کے فنا کرنے کے بعد بھی رہے گا اور حقیقت اللہ ہی باقی ہے۔

الْوَارِثُ

يَا وَارِثُ (اے وارث) ☆ اعداد: 707 - خاصیت: جمالی

الْوَارِثُ کا لفظ وارث سے بنا ہے جس کا مطلب کسی کے بعد کسی چیز کا مالک ہونا ہے۔ مالک ہونے کے علاوہ اس لفظ کے معنی مددگار، حمایتی اور اختیار حاصل کرنے والے کے بھی ہیں۔ دنیا کی وراثت یعنی ملکیت فانی ہے۔ اس لفظ کا اطلاق جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز کا اصل وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی شخص زندہ نہ رہے گا بلکہ صرف اللہ ہی رہے گا۔ اس لحاظ سے اصل وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وارث ہونے کے بارے میں اپنے کلام میں خود ہی فرماتا ہے۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (پ 24 المؤمن 16)

ترجمہ: آج ملک کس کا ہے۔

جب روز محشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ملک کس کا ہے جسکا کوئی جواب نہ دے سکے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا آج اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے یعنی آج کے دن کا اصل مالک اور وارث اللہ ہی ہے جو قہار ہے۔ قرآن میں یوں آیا ہے (لِلّٰهِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ) اللہ ہی واحد قہار ہے۔ (پ 24 المؤمن 16) اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اور مالک ہی اصل وارث ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ:

وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيْ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ (پ 14 حجر 23)

ترجمہ: اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود وراثت کی وضاحت کی ہے کہ درحقیقت ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث بھی ہیں جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اسی طرح زمین اور اہل زمین کی وراثت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کا مرجع مولی اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ:

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ؕ

(پ 16 مریم 40)

بے شک ہم زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے وارث ہیں اور سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی وارث وہ ہے جو سب مالکوں کے فنا ہو جانے کے بعد تمام اشیاء کا مالک ہوگا اور یہ درجہ فقط اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے کیونکہ سب مخلوقات

کے فنا ہونے کے بعد وہی باقی رہے گا۔

یہی بات ایک اور مقام پر یوں بیان ہوئی ہے کہ:

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَبْطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

(پ 20 قصص 58)

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وارث وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد مملوکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اس وقت وہ یوں فرمائے گا لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ (آج کس کی بادشاہی ہے) پھر خود ہی یوں جواب دے گا۔ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ”اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔“ یہ سائلانہ ندا ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائے گی جو خود بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پر آئینہ ہو جائے گا لیکن جو لوگ صاحب بصیرت ہیں وہ ہمیشہ سے خود بخود اس ندا کا معنی سمجھے ہوئے ہیں بلکہ یہی ندا بلا حرف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازلی وابدی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید فی الفعل کی حقیقت جانتا ہے اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی قلمرو میں فاعل واحد وہی واحد و یکتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق کا قول ہے کہ وارث سے مراد وہ ذات ہے جو تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی کیونکہ تمام املاک کے فانی ہونے اور تمام ملکوں کے فنا ہونے کے بعد سب ملکیتیں اسی کی جانب رجوع کر جائیں گی۔ یہ کلام ظاہر کے لحاظ سے ہے ورنہ ازل سے ابد تک مالک علی الاطلاق وہی ہے۔ اس کی ملکیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی اور تمام ملک و سلکوت بلا کسی شرکت کے اس

کی ملکیت میں ہیں۔ تمام اہل بصیرت گوش ہوش سے یہی ندا سنتے ہیں (لَمَنِ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) جل جلالہ عظیم شانہ

پس بندے کو چاہے کہ مال وراثت کی فکر میں نہ پڑے اور یہ جانے کہ سب کچھ
چھوڑ جانا ہے اور سب سے ہاتھ اٹھالینا ہے (مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا) مرنے سے
پہلے مر جاؤ، یہ عارفوں کا دستور اور طریقہ ہے۔

دل برین منزل فانی چہ نہی

رخت بر بند کہ انا للہ

ترجمہ: اس فانی منزل پر کیا دل لگاتا ہے سامان باندھ لے کیونکہ ہم سب اللہ کی
طرف جانے والے ہیں۔ اس اسم سے متخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین کے علوم و
معارف حاصل کرے تاکہ انبیاء کا وارث بن جائے۔

الرشید

يَا رَشِيدُ (اے سیدھی راہ دکھلانے والے)

اعداد: 514 ☆ خاصیت: جمالی

الرشید اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو رشد سے بنا ہے۔ رشید سے مراد
رشد و ہدایت دینے والا ہے۔ اس لئے دنیا کا سب سے بہتر رہنما اللہ ہے۔ وہی ہر قسم
کی مخلوق کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے والا ہے۔ وہ بذات خود رشد و ہدایت کا منبع
ہے اور اہل دنیا کو اسی کی توفیق اور نظر عنایت سے ہدایت ملتی ہے۔ اسی لئے اسے
رشید کہا جاتا ہے۔ اللہ رشید ہے کہ وہ ہر ہدایت کی طلب رکھنے والے کی رہنمائی فرماتا
ہے۔ اللہ رشید ہے کہ اس کے تمام افعال اور اختیارات رشد و ہدایت پر مبنی ہیں۔ اللہ

اس لحاظ سے بھی رشید ہے کہ اس کے ہر حکم میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تمام بندوں کی رہنمائی فرمانے والا ہے اور اس کی رہنمائی اور ہدایت تا قیامت جاری رہے گی۔ صحیح رہنمائی اور ہدایت اسی سے مل سکتی ہے اس لئے جسے صحیح ہدایت کی طلب ہو تو وہ اسے اس صفت سے پکارے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اسے سیدھی رہ مل جائے گی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات رشید کیلئے استعمال ہوا ہے۔ رشید یعنی ہدایت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس لئے وہ رشید ہے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

(پ 2 بقرہ 186)

ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا تھا۔

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (پ 12 ہود 87)

ترجمہ: بے شک آپ ہی حلم والے ہدایت والے ہیں۔

اس آیت میں لفظ رشید کا اطلاق تخلق کے لحاظ سے ہوا ہے مگر انسان کو اصل ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر یہ لفظ یوں آیا ہے:

وَأَنَا لَأَنْدَرِي أَسْرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۗ

(پ 29 جن 10)

ترجمہ: اور یہ کہ ہمیں اس کی وجہ کا پتہ نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کس سختی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کیلئے ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہر طرح کی رہنمائی دنیا اور راہ ہدایت پر چلانا اللہ ہی کے دائرہ اختیار میں ہے جس لحاظ سے وہ ذات رشید ہے۔

غرضیکہ رشید وہ ذات ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ اس کے کوئی معاون ان کی اعانت کرے یا کوئی رہنما ان کو راہ پر قائم رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔

ایک اور قول کے مطابق یہ لفظ رشد سے بنا ہے بمعنی صحیح راستے پر ہونا۔ یہ گمراہی کی ضد ہے۔ رشد یہ ہے کہ بندے کے اقوال صحیح و درست ہوں، اس کے افعال ٹھیک اور مناسب ہوں اور اس کے احکام مضبوط اور ٹھوس ہوں۔ ان میں خلل اور لغزش کا شائبہ نہ ہو۔ اس کی تمام تدبیرات صحیح نتائج تک پہنچانے والی ہوں اور غلطی و کجی سے محفوظ ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں رشید بمعنی مرشد ہے یعنی بندوں کو دین و دنیا کے مقاصد میں اور اس جہاں میں کتاب و شریعت کے مطابق درستی کے راستے پر چلانے والا ہو۔ اس اسم سے تخلق کی وجہ ظاہر ہے۔

الصَّبُورُ

يَا صَبُورُ (اے برداشت کرنے والے)

اعداد: 298 ☆ خاصیت: جلالی

صبر ایک بہت ہی اچھا وصف ہے اور صبور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے لحاظ سے صبور ہے۔

صبور اصل میں (ص ب ر) سے بنا ہے۔ عقل اور شریعت جن امور کا حکم دیتی ہے ان پر نفس کو جمائے رکھنا اور جن سے منع کرتی ہے سے باز رہنا شریعت میں صبر کہلاتا ہے۔ صبور اسم مبالغہ ہے جس کا مطلب بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا جلد مواخذہ نہیں کرتا بلکہ نرمی کرتا ہے اور جلدی گرفت نہیں کرتا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ صبور ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبور وہ ہے جس کو کوئی تیزی اور تندہی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی بلکہ وہ تمام امور کو خاص اندازے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلاتا ہے اور ان کو نہ کسی سست کارندے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقرر وقت پر، مناسب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالفت کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں۔

بخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے میں خالی نہیں ہے کیونکہ اس کے صبر کے معنی ہی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش، شہوت و غضب کی خواہش کے

مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب وہ مخالف خواہش یا باہم کھینچا تانی کرتی ہیں اور جلد بازی کی خواہش دھیمی کرتا غیر احتیاطی ہے تو اس خواہش والا صبور کہلاتا ہے کیونکہ اس نے جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے (گو وہ کمزور ہی ہو گیا ہے) صبور کہلاتا ہے تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حقدار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے۔

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

(پ 13 ابراہیم 5)

ترجمہ: اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ بے شک ان میں ہر صابر اور شکر کرنے والے کیلئے نشانیاں ہیں۔

حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبر کا معنی لغت میں ہے برداشت کرنا۔ صبور اسے کہتے ہیں جو گنہگاروں کی گرفت میں جلدی نہ کرے، انہیں سزا دینے اور ان سے انتقام لینے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ صبور حلیم کے معنی کے قریب ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ صبور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ اس نے صبر کیا ہوا ہے لیکن آخر کار اسے گرفت میں لائے گا۔ حلیم اس سے مطلق ہے یعنی آخر کار گرفت میں لائے یا نہ لائے۔ بعض کہتے ہیں صبور بمعنی صبر دینے والا، بندے کو صبر دینے والا، بلا و مصیبت میں اس طرح امانت کا بوجھ اٹھانے میں بندے کو صبر دینے والا اور خواہش و شہوت کی مخالفت کرنے میں صبر کرنے والا۔ اسی طرح بندے کو عبادت کے ادا کرنے میں مشقت پر صبر دینے والا وہی سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بندے کو چاہئے کہ تمام مصیبتوں، تکلیفوں اور برائیوں میں اسی سے صبر چاہے اور اس کی نافرمانی سے دور رہے۔

حکایت: بیان کرتے ہیں کہ اکابر اسلام میں سے ایک بزرگ نے فرمایا ”میں مکہ معظمہ میں تھا۔ میں نے ایک درویش دیکھا جو مسجد خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور طواف کیا اور ایک رقعہ جیب سے نکالا۔ اسے دیکھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن بھی اس نے اسی طرح کیا اور چلا گیا۔ میں چند دن اس کے اس حال کی نگرانی کرتا رہا۔ وہ اسی طور پر آتا اور چلا جاتا۔ ایک دن آیا اور طواف کیا اور رقعے پر نظر ڈالی اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔“ میں اپنی جگہ سے اٹھا رقعے کو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (الطور : ۲۸)

ترجمہ: اپنے رب کے حکم پر صبر کر بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی کام میں بھی جلد بازی اور شتابی نہ کرے بلکہ آرام و آہستگی اختیار کرے اور فراق کی تکلیف میں امید وصال سے پناہ حاصل کرے اور اپنے درد و اشتیاق کا علاج محبوب کے ذکر سے کرے تاکہ اپنے مقصود کو پالے اور کامیاب و بامراد بن جائے۔ (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - البقرة : ۲۵۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (آل عمران : ۲۰۰)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔

اے ایمان والو! صبر کرو۔ صبر کی تلقین کرو، جہاد کیلئے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں صبر کا پیالہ پیتا رہا اگر تو قتل ہو جائے گا تو شہید ہوگا اور اگر زندہ رہے گا تو نیک بخت ہوگا۔

صبر سے کنیم تا کرم اوچہ میکند
عیسیٰ دم است نفس و ہوا پیش او لکش
بایں دل شکستہ غم اوچہ میکند
وانگہہ نظارہ کن کہ دم اوچہ میکند

(1) ہم صبر سے کام لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کرم کیا سلوک کرتا ہے اور اس دل شکستہ سے اس کا غم کیا سلوک کرتا ہے۔

(2) میرا معشوق حضرت عیسیٰ کا سانس رکھتا ہے۔ نفس و خواہش اس کے آگے ختم کر دے پھر دیکھ کہ اس کی پھونک کیا کام کرتی ہے۔

صبر کرنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

لَيْسَ أَحَدًا وَّلَيْسَ لَشَيْءٍ أَصْبَرَ عَلَيَّ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَّلَدًا وَّانَّهُمْ لِيَعْفِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ -

ترجمہ: اس سے زیادہ اللہ کی جانب سے صبر کیا شے ہو سکتی ہے کہ لوگ تو اس کیلئے اولاد قرار دیں پھر بھی وہ ان سے درگزر کرے اور انہیں رزق بھی دیتا رہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی برداشت کر رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے۔ اس لئے وہ صبور ہے۔

شمس المعارف میں لکھا ہے کہ صبور وہ ذات ہے جو وقت پر کام کرے اور جلدی نہ کرے بلکہ تمام امور کو مقدمات پر رکھے اور سنتوں کے موافق کام کرے اور مدت متعین میں پس و پیش نہ کرے اور ہر چیز میں حکمت الہی کو مقرر جانے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔

صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صبر روح جو جنت کی نعمتوں کے حصول پر صبر کرنا اور ایک صبر قلب۔ ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں ایک صبر عقل ان امور پر صبر جنکی دلیل افعال متقاضی ہے۔ ایک صبر جسم یعنی امراض جسم پر صبر کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

کسی شخص کا نام صبور نہیں رکھا جاتا اس لئے کہ جلدی کے وقت انسان صبر پر

قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جلدی کرنے سے پاک ہے۔ اس سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ گنہگاروں کو وہ مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لیں حالانکہ وہ ہلاک کرنے پر قادر ہے مگر پھر بھی دنیا میں کوئی ایسا عذاب نہیں دیتا جو ظاہر آنکھ فوراً دیکھ سکے۔ اسم صبور ہم معنی اس کے تو اب ہے اور تو اب وہ ہے جو گناہ کا فوراً مواخذہ نہ کرے تاکہ انسان کبھی تو اس کی رحمت سے توبہ کرے۔

اسم صبور کو جو شخص زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگے اس میں صبر کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سخت سے سخت مصیبت میں صابر ہو جاتا ہے۔ اس لئے بعض صوفیاء نے اہل طریقت کے ابتدائی مریدوں کو یہ اسم پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ راہ سلوک میں آنے والی پریشانیوں کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر سکیں۔

الْقَرِيبُ

يَا قَرِيبُ (اے نزدیک) ☆ اعداد: 312 - تاثیر: جمالی
قریب کا مطلب ہے نزدیک تر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے کہ:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا^ل (پ 2 بقرہ 186)

ترجمہ: اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمادیں کہ میں بہت قریب ہوں اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ:

ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔

بعض روایات میں ہے کہ صحابہؓ میں سے بعض نے سوال کیا تھا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس کی مناجات کریں یا دور ہے تاکہ زور سے اسے پکاریں، تب یہ جواب اتر اٹھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ یہودان مدینہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تو عرش پر ہے اور عرش و فرش کے درمیان اتنا بعد حال ہے پھر اللہ ہماری کیوں کر سنتا ہے، تب ان کو اللہ عزوجل نے یہ جواب بھیجا تھا۔

صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے ایک وادی میں چڑھتے ہوئے (اللہ اکبر لا الہ الا اللہ) کی تکبیر زور سے لگائی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ الزُّمُّوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ صَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا

ترجمہ: اے لوگو! اپنی جانوں پر نرمی کرو تم کسی گراں گوش کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم تو سمیع، بصیر اور قریب کو پکار رہے ہو۔

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر قریب کا لفظ یوں استعمال ہوا ہے:

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (پ 26 ق 41)

ترجمہ: اور سنو جب پکارنے والا قریبی مقام سے پکارے گا۔

اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ قریب ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۖ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

(پ 2 بقرہ 214)

ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر
ایسے سخت حالات نہیں گزرے جیسے کہ پہلے لوگوں پر گزرے کیونکہ جس
وقت انہیں سختی اور شکستہ حالی پہنچی اور وہ بلائے گئے تو یہاں تک کہ رسول
اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی
خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔

وَآخِرَىٰ تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(پ 28 الصف 13)

ترجمہ: اور ایک نعمت اور دے گا جس سے تمہیں محبت ہے وہ نعمت اللہ کی
جانب سے نصرت اور فتح قریب ہے اور اے محبوب مومنوں کو بشارت
دے دیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (پ 18 اعراف 56)

ترجمہ: زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ ڈالو خوف اور امید سے دعا کرو
بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔

قیامت کے قریب ہونے کی یوں خبر دی گئی ہے کہ:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ

الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(پ 14 نحل 77)

ترجمہ: زمین و آسمان کی غیبی چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آجانا پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی قریب ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے کہ وہ ہماری باتوں اور التجاؤں کو فوراً سن لیتا ہے۔
 قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۗ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَاحِقَاتٌ فَاخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ (پ 22 سب 50-51)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اگر میں دور ہوا تو بے شک دور ہونا نفس ہی کی وجہ ہوگی اور یہ کہ میرے ہدایت پر رہنے سے میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے۔ بے شک وہ سننے والا ہے قریب ہے۔ اور کاش کہ آپ ان کو دیکھیں جب وہ قیامت میں گھبرا گئے ہوں گے اور بھاگ کر بھی نہ بچ سکیں گے اور بالکل قریب ہی سے پکڑ لئے جائیں گے۔
 اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی قریب ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (پ 26 ق 16)

ترجمہ: اور بلاشبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس میں اٹھنے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اللہ تعالیٰ دعا سننے اور قبول کرنے میں قریب ہے۔

فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (12 ہود 61)

ترجمہ: پس استغفار کرو پھر اسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب قریب دعا قبول کرنے والا ہے۔

رَبُّ

یَارَبُّ (اے پروردگار) ☆ اعداد: 202 - تاثیر: جمالی

رب الہ کی طرح سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال مادہ ہے۔ عبرانی، سریانی اور عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احسان انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے اس لئے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیر میں سے سمجھنا چاہئے پھر چونکہ معلم، استاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں اس لئے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا (ربی) اور (رباہ) پرورش کنندہ معلم اور آقا تینوں معنی رکھتا تھا اور قدیم مصری اور خالدی زبان کا ایک لفظ (رابو) بھی انہی معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور ان ملکوں کی قدیم ترین سامی وحدت کی خبر دیتا ہے۔

رب دراصل مصدر ہے جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے معنی میں انتہا درجے کا مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس کی معنوی وسعت پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے اس کی وسعت کیمت کے اعتبار سے بھی ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ جہاں تک کیمت کا تعلق ہے تو وہ ذات جو رب ہے وہ حقیقت میں رب العالمین ہے اور عالمین کا شمار کسی انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ اس کی مخلوقات میں سے جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں اور جن میں سے ہر مخلوق کو ربوبیت کا فیضان پہنچ رہا ہے۔ ان میں سے صرف خشکی کی مخلوقات کو شمار کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ چہ جائیکہ سمندر کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، پہاڑوں کی مخلوقات اور ان جہانوں کی مخلوقات جن کے ناموں سے ہم کسی حد تک واقف ہیں لیکن ان کی حقیقت سے واقف نہیں۔ ان کا شمار کون کر سکتا ہے اور پھر اگر ایک ایک

چیز کو غور سے دیکھا جائے مثلاً ایک درخت کے اندر جڑ، تنا، چھلکا، گودا، پھول، پھل، شاخ، پتوں کے اندر رنگ و روغن پر تاثیر اور مزا اور پھر ان کی شکل و صورت۔ ان تمام کے اندر ایک جہان معنی موجود ہے جو ربوبیت کے فیضان کا اظہار کر رہا ہے مگر اس کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں۔ اسی طرح خود انسان کو اپنے جسم، جسم کے مختلف اعضاء، اعضاء کے اندر مختلف اعصاب اور پھر ہر ایک کی الگ الگ غذا۔ ان پر ہی غور کیا جائے تو حیرت و استعجاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح جہاں تک اس ربوبیت کی کیفیت کا تعلق ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ محض پرورش کا عمل جاری و ساری ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض آئمہ لغت نے اس کی تعریف میں یہ جو بات کہی ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے کہ ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا کسی محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، جو د ہے، احسان ہے، لیکن وہ بات نہیں جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کیلئے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو اور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کیلئے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں ان سب کا سرو سامان ہوتا رہے۔ نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو کیونکہ جو عمل محبت و شفقت کے جذبہ سے خالی ہوگا ربوبیت نہیں ہو سکتا۔ ربوبیت کی ایک ادنیٰ مثال ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ مثلاً جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا متحمل نہیں ہوتا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا ہے اور جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوتی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل

اہتمام جاری رہا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ مجازی ربوبیت کا یہ ناقص اور محدود عملی نمونہ سامنے رکھئے اور پھر ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کیجئے تو اس کا رب العالمین ہونے کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سروسامان بھی کر دیا ہے اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور زندگی کی بقاء کیلئے جو کچھ مطلوب ہے، ہر ضرورت کا لحاظ ہے۔ ہر تبدیلی کی نگرانی ہے اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔

پھر اسی ظاہری نظام ربوبیت پر بس نہیں بلکہ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان کیلئے صرف اسباب معیشت ہی پیدا نہیں کئے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے اور انہیں بروئے کار لانے کیلئے جس صلاحیت کی ضرورت تھی وہ بھی عطا کی گئی کیونکہ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سروسامان کیا جاتا وہ کچھ مفید نہ ہوتا اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری اور باطنی قویٰ اس کا ساتھ نہ دیتے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے وجدان اور حواس اور عقل کی رہنمائی بھی عطا فرمائی اور چونکہ یہ تینوں انسانی زندگی کے اس مقصد اعلیٰ کے نتیجہ میں انسان کا رابطہ اپنے خالق و مالک سے ہوتا ہے کیلئے کفایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے اس نے وحی الہی کی رہنمائی کو بھی نازل فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کو سبوت فرما کر انسان کیلئے اس کی راہ عمل کو آسان کر دیا اور یہ سب کچھ اس نے اس لئے کیا کہ وہ رب ہے اور ربوبیت کا تقاضا صرف جسم کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں تھا بلکہ عقل و دماغ اور انسان کی روحانی صلاحیتوں کا اطمینان بھی ضروری تھا۔ اس لئے سورت الناس میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو ”رب الناس“ ہے وہ ”مالک الناس“ بھی ہے اور ”الہ الناس“ بھی ہے۔ ان

تینوں مراتب کا آغاز رب سے ہوتا ہے اور انتہا اس کی الہ پر ہوتی ہے۔ اس لئے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان راستوں کی بھی خبر دی جائے جو الہ تک پہنچتے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم میں سورت التوبہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اہل علم اور اپنے اہل دین کی زندگی کو مکمل رہنمائی کا حق دے دیا تھا اور حلت و حرمت کا اختیار بھی انہیں سونپ دیا تھا ان پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا یعنی ربوبیت کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ جس کی تربیت کے فیض سے تم زندگی کا سر و سامان پارہے ہو اس کو اپنا حاکم و مالک اور الہ سمجھو اور زندگی میں رہنمائی کا اختیار اور حسن و قبح کا معیار اسی کو جانو۔ (اسماء الحسنی ص 251-254)

معارف الاسماء میں ہے کہ قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم رب، ربی، ربہ، ربنا، ربک، ربکم وغیرہ کی شکل میں 806 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اضافت کے وقت کہیں مضاف کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے اور کہیں اس کی خصوصیات پر جلوہ افگنی فرمائی جاتی ہے۔

رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ، رَبُّ هَذَا الْبَلَدِ، رَبُّ الْفَلَقِ، رَبُّ الشَّعْرَى، رَبُّ النَّاسِ، رَبُّ الْعَرْشِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ کی ترکیبوں کو دیکھو، ہر ایک اضافت کن کن خصائص و حقائق کی رہنمائی کرتی ہے۔

اس سے آگے بڑھو گے تو تربیت کے مختلف اسالیب ان الفاظ میں ملیں گے

صراط رب، آیات رب، کلمۃ رب، رُسل رب، سُبُل رب، عطاء رب، کتاب رب، عذاب رب، رحمت رب، امر رب،

رزق رب، خراج رب، حمد رب، نعمت رب، الاء رب،
برکات رب، جنود رب، بطش رب۔

یہ الفاظ کیا ہیں، ہر ایک کی تحت میں پرورش و نگہداشت کے بحور و فور جوش زن

ہیں۔

مربوب کی استحقاق و استعداد و قابلیت ذاتی و اضافی و طبعی کے مطابق ربوبیت کا
فیضان جاری ہے۔ اسم رب کی مزید وضاحت کیلئے آیات قرآنی کا متن حسب ذیل ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ قَفٍ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (8 اعراف 54)

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں
پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ گر ہو گیا۔ رات کو دن سے بدلتا ہے اور پھر دن
رات کے پیچھے دوڑا آتا ہے۔ سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا۔ اس
کے حکم کے تابع ہیں سب مخلوق اور حکم اسی کا ہے۔ اللہ بڑی برکت والا
سارے جہانوں کا رب ہے۔

وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (پ 8 انعام 164)

ترجمہ: اور وہی ہر چیز کا رب ہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (پ 17 انبیاء 22)

ترجمہ: پس اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے پاک ہے جو منسوب
کرتے ہیں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

(پ 18 مؤمنون 86)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (پ 23 الصفت 126)

ترجمہ: اللہ جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

(پ 25 زخرف 82)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کا رب پاک ہے جو عرش کا بھی رب ہے وہ

ان کی باتوں سے مبرا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

(پ 9 اعراف 121-122)

ترجمہ: کہنے لگے ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام

اور ہارون کا رب ہے۔

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پ 19 نمل 8)

ترجمہ: اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ء (پ 23 الصفت 182)

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ صَلِّ ۚ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(پ 24 مومن 64)

ترجمہ: یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے پس اللہ بڑی برکتوں والا ہے جو

سارے جہانوں کا رب ہے۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(پ 25 جاثیہ 36)

ترجمہ: پس تمام حمد اللہ کیلئے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے رب العالمین بھی وہی ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (پ 27 واقعہ 80)

ترجمہ: یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؕ (پ 30 تکویر 29)

اور تم کیا چاہو گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

الْمُبِينُ

يَا مُبِينُ (اے ظاہر کرنے والے)

اعداد: 102 ☆ تاثیر: جمالی

مبین کے عموماً معنی ظاہر اور واضح لئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر اس کا مطلب وہ ذات ہے جو ظاہر ہے اور کائنات کے ظہور سے اس کی ذات عیاں ہے یعنی ہر دیکھنے والی نظر اور ہر سمجھنے والے دماغ پر اس کی ذات واضح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ تصور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ذات سے زیادہ کوئی ذات واضح اور نمایاں نہیں کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ذات کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ہر تعمیر اپنے معمار کی خبر دیتی ہے، ہر ایجاد اپنے موجد پر دلالت کرتی ہے، ہر مصنوع اپنے صانع تک پہنچاتی ہے، اس کائنات کا موجود ہونا کسی ایسی ذات کے ہونے پر دلالت کرتا ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اس کائنات میں ستاروں، چاند، سورج جیسی روشن چیزیں موجود ہیں تو جب مخلوق اس قدر روشن ہے تو اس کے خالق کے روشن،

نمایاں اور واضح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے مبین نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا۔

مبین کا علماء نے یہ مفہوم لیا ہے کہ مبین سے مراد صاف صاف کھول کر واضح کرنے والا اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (پ 18 نور 25)

ترجمہ: بے شک اللہ ہی حق ہے جو بالکل واضح ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے روز پر کسی کو اس کے کئے کا بدلہ دے گا جس کا وہ حقدار ہوگا اور اس وقت ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا اللہ ہی واضح طور پر حق ہے۔

ایک اور فرمان میں مبین کو یوں بھی واضح کیا گیا ہے:

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝ (پ 20 نمل 79)

ترجمہ: پس آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کئے رہیں بے شک آپ حق پر ہیں جو مبین یعنی واضح ہے۔

وہ مبین یعنی واضح اور ظاہر ہے کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ اس کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے نیز اس کے برعکس وہ مخفی اور پنہاں ہے کیونکہ اس کی کنہ تک پہنچنا کسی بھی مخلوق کی وسعت و طاقت سے باہر ہے۔

اسماء احسنی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبین ہے۔ اس کی کنہ ذات تک رسائی محال ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور اس سے پیوستگی و تقرب کی راہیں کھلی ہیں۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور مصنوعات کی ہر چیز اور ہر چیز کے اجزا اس کی قدرت و خالقیت کے مظہر ہیں۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور جملہ بینات کا ظہور اسی کی تبیین سے ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور آیات بینات کو ظہور میں لانیوالا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور کتاب مبین کو اسی نے نازل فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اسی نے انسان کو بیان سکھلایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مبین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بینہ بنا کر اسی

نے دنیا میں بھیجا ہے۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ - (الْبَيِّنَةُ : ۱، ۲)

ترجمہ: اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ

کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ

آجائے۔ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے مبین ہے کہ اس نے اپنے

رسول کو واضح طور پر رسول بنا کر بھیجا۔

اس اسم پاک سے تخلق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ دید و گوش عقل و

ہوش کو وا کریں۔ تنبیہات الہیہ کو دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بین پر

نگاہ ڈالیں حق و باطل کا اندازہ کریں۔ کتاب مبین کو سرمہ چشم ایقان بنا لیں۔

الْقَدِيرُ

يَا قَدِيرُ (اے قدرت والے) ☆ اعداد: 314 - تاثیر: جمالی

قدیر کا لفظ قدر سے بنا ہے جس کا عام مطلب طاقت، قدرت، مضبوط اور پختہ

ہے۔ اس لئے قدیر سے یہ مراد ہے کہ کسی کام کے کرنے کی طاقت رکھنا ہے۔ اللہ

تعالیٰ قدیر ہے کہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ قدیر سے ملتی ہوئی صفات قادر اور

مقتدر بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ اس لئے اسے قدیر کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ قدیر سے مراد ایسی قدرت ہے جو حکمت کے تقاضوں کو بھی پوری کرتی ہو اور کسی لحاظ سے اس میں کمی نہ ہو غرضیکہ قدیر پروردگار کی ذات ہے جو کامل قدرت والا ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر نظام کائنات قائم ہے۔ قدیر کے بارے میں آیات قرآن حسب ذیل ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 1 بقرہ 109)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(پ 3 بقرہ 259)

ترجمہ: پس اس پر جب حقیقت ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ (پ 14 آل عمران 189)

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا (پ 5 نساء 133)

ترجمہ: اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ (پ 7 مائدہ 120)

ترجمہ: اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۙ (پ 14 نمل 70)

ترجمہ: بے شک اللہ علیم ہے قدیر ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۙ (پ 17 حج 39)

ترجمہ: اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (پ 19 فرقان 54)

ترجمہ: اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ج وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (پ 21 روم 54)

ترجمہ: جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علیم ہے قدیر ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ء (پ 21 احزاب 27)

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (پ 22 فاطر 44)

ترجمہ: بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى ط إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(پ 24 حم سجدہ 39)

ترجمہ: بے شک اسی نے زمین کو زندہ کیا جو مردے کو زندہ کرتا ہے بلاشبہ

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (پ 25 شوریٰ 50)

ترجمہ: اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے بلاشبہ وہ جاننے والا ہے

قدرت والا ہے۔

بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ 26 احقاف 33)

ترجمہ: ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ قَدِيرٌ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (پ 28 ممتحنہ 7)

ترجمہ: اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ 28 تحریم 8)

ترجمہ: بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

الْحَافِظُ

يَا حَافِظُ (اے حفاظت کرنے والے)

اعداد: 989 ☆ تاثیر: جمالی

حافظ سے مراد حفاظت کرنے والا، نگہبان، نگہداشت اور پاسبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اہل لغت کا کہنا ہے کہ یہ لفظ حفظ سے ہے جس کا مطلب کسی چیز کو ضائع ہونے اور تلف ہونے سے بچانا ہے۔ حقیقت لفظ کا مطلب بھی حفاظت ہے لیکن حافظ لفظ میں قدرے مبالغہ ہے یعنی زیادہ حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مال و جان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے، اللہ اپنی تمام مخلوقات اور تخلیقات کی حفاظت کرتا ہے غرضیکہ ہر چیز کا حافظ وہی ہے اور جو کوئی اس سے حفاظت طلب کرتا ہے اس کا وہ حافظ ہے۔

سورت یوسف میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر واپس اپنے وطن پہنچے تو عزیز مصر کی عنایات، خسروانہ فیاضی اور محبت بھری گفتگو کا سارا تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کر دی کہ اس کریم النفس حاکم نے ہمیں بڑی تاکید کی ہے کہ آئندہ بنیامین کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ حضرت یعقوب کو یقین دلانے لگے کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں ہم اس کی خوب دیکھ بھال کریں گے اور اس کی حفاظت میں ذرا سستی نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوب جانتا ہوں اور تمہارے وعدوں کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہے۔ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ میرا بھروسہ تو اپنے رب پر ہے اور اسی کی

حفاظت مجھے کافی ہے۔

قرآن مجید میں حافظ کا لفظ یوں بیان ہوا ہے:

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (پ 13 یوسف 64)

ترجمہ: پس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔

قرآن مجید کی حفاظت کے ضمن میں ارشاد الہی ہے کہ:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (پ 14 حجر 9)

ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن بالکل محفوظ ہے جس صورت میں نازل ہوا تھا۔ اسی صورت میں محفوظ ہے۔ اگرچہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں غرضیکہ اللہ ہی حافظ ہے جس نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور مسلمانوں کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا جس کے نتیجے میں آج تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، بادشاہوں کا کوئی دستور، ملکوں کے ضابطے، ساری کوششوں کے باوجود بھی محفوظ نہیں رہ سکے لیکن یہ پروردگار کی حفاظت ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

زمین و آسمان کی حفاظت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ۝ (پ 24 حم سجدہ 12)

ترجمہ: پھر دو دنوں میں سات آسمانوں کو بنایا اور ہر آسمان میں حکم کا

اجراء کر دیا اور دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ عزت والے علم والے کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہوا ہے کہ سات آسمان بنا دیئے گئے اور ہر آسمان کے حسب حال وہاں احکام و ہدایات نازل فرمادیئے تاکہ ہر آسمان کی مخلوق منشاء خداوندی کے مطاب اپنی زندگی گزارے۔

جب سورج غروب ہو جاتا ہے شام کا دھندلا پھیلنے لگتا ہے تو ٹمٹماتے ہوئے ستارے آنکھ مچولی شروع کر دیتے ہیں۔ رات کی وحشت اور تاریکی کی گھٹن ان چراغاں سے کافور ہو جاتی ہے۔ چرخ نیلوفر کی یہ سچی ہوئی چھت دل کو نیا سرور اور تازگی بخشتی ہے۔

ہم نے آسمان کو جتنا خوبصورت اور دلآویز بنایا ہے اتنا ہی مضبوط اور مستحکم بھی بنایا ہے جس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی شکاف دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طرح کی بیرونی دخل اندازیوں سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔

اس طرح سورۃ الطارق میں یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت پروردگار ہی کر رہا ہے جس طرح اس کے وجود میں لانے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے اسی طرح اس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے اور اسی کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے اور جس طرح اس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات پہنچانے کا ذمہ لے رکھا ہے اسی طرح اس نے ہر چیز کو ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا بھی ذمہ لے رکھا ہے۔

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ط (پ 30 طارق 4)

ترجمہ: کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے رات کو آسمان پر نمودار ہونے والے ستاروں کی قسم کھا کر یہ بتلایا ہے کہ رات کو یہ بے حد و حساب چمکتے ہوئے ستارے اور سیارے جو ہمیں نظر آتے

ہیں ان سب کی حفاظت بھی پروردگار ہی فرما رہا ہے اور ان کی نگہبانی بھی کر رہا ہے۔ کوئی ستارا اپنے مقام سے گزرتا ہے نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران وہ کسی سے ٹکراتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس سے ٹکراتا ہے۔ حفاظت کا یہ حیرت انگیز نظام ہے جس نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو تھاما ہوا ہے۔ ان بے شمار کائناتوں اور ان کی موجودات کو سنبھالنے اور حفاظت کرنے کے باوجود وہ پروردگار نہ تھکتا ہے نہ تنگی محسوس کرتا ہے۔

الْكَفِيلُ

يَا كَفِيلُ (اے کفالت کرنے والے)

اعداد: 140 ☆ تاثیر: جمالی

کفیل کا لفظ کفل سے ہے اس کا مطلب ہر طرح کی ذمہ داری لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس لئے وہ کفیل ہے۔ قرآن پاک میں ہے (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) یعنی زکریا علیہ السلام کو مریم علیہا السلام کی غور و پرداخت اور تربیت و نگہداشت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کفیل وہ ہے جو دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کفیل ہے وہی ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے وہی ہماری مرادات کو برلاتا ہے۔ وہی ہماری ضروریات کو مہیا فرماتا ہے۔ وہی ہمارے مقاصد و مطالب کو مکمل فرماتا ہے۔ اسی پر ہمارا وثوق و اعتماد ہے۔ وہی ہمارا ملجا و ماویٰ ہے۔ ہمارے رزق، ہماری عمر اسی کی کفالت میں ہیں۔ ہمارے جان و ایمان کا وہی کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے بڑھ کر اور کس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کفالت سے بڑھ کر اور کس کی کفالت ہو سکتی ہے۔ اس لئے انسان کو اللہ کی کفالت پر پوری طرح بھروسہ رکھنا چاہئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا (پ 27 حدید 28)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو گناہ ثواب عطا کرے گا اور تمہارے لئے روشنی پھیلا دے گا۔

اہل ایمان کو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی دعوت ہے۔ اس کے باعث اللہ تعالیٰ ان پر اپنی صفت کفیل کا اظہار فرمائے گا۔

الشَّاكِرُ

يَا شَاكِرُ (اے قدردان) ☆ اعداد: 521 - تاثیر: جمالی

شاکر کا لفظ شکر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ شاکر ہے اور جو لوگ شکر کرتے ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ اس لئے اس لفظ کا مفہوم لفظ شکور سے ملتا جلتا ہے۔ شکر کے معنی قبولیت اور رضامندی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب کوئی شخص کسی کے کام یا خدمت پر ہوتا ہے تو اپنی اس رضامندی کو شکر کے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمات اور طاعات کو قبول فرماتا ہے اس لئے وہ شاکر ہے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی شاکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال حسنہ سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس لئے بھی شاکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کی شکرگزاری کو قبول فرماتا ہے اللہ اس لئے بھی شاکر ہے کہ وہ بندوں کی

شکرگزاری پر انہیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس لئے اس کی یہ صفت اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی یہ صفت یوں بیان ہوئی ہے:

إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنْتُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (پ 5 نساء 147)

ترجمہ: (بہتر ہے) اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ اور اللہ جاننے والا قدر دان ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مجھے تم سے محبت ہے لہذا تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تَعِنُّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَعًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُحِبًّا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَأَسْلِلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي

ترجمہ: اے میرے اللہ میری مدد فرما اور میری مخالفت میں کسی کی مدد نہ کر۔ میری نصرت فرما اور کسی کو میرے اوپر غالب نہ کر اور میرے حق میں تدبیر کر اور میرے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہ چلا اور مجھے ہدایت کر اور میرے لئے ہدایت کو آسان کر دے اور اس کے مقابلے میں میری مدد فرما جو مجھ پر زیادتی کرے اے رب میرے مجھے اپنا شکر گزار بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اور اپنے رب سے ڈرنے والا بنا۔ تیری بہت زیادہ

فرمانبرداری کیا کروں، تجھی سے سکون پانے والا رہوں۔ تیری ہی طرف متوجہ ہونے والا ہوں، اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو دے اور میری دعا قبول کر اور میری حجت (دینی) قائم رکھ اور میری زبان درست رکھ اور میرے دل کو ہدایت پر رکھ اور سینہ کی کدورت کو نکال دے۔

الْاَكْرَمُ

يَا اَكْرَمُ (اے بہت کرم کرنے والے)

اعداد: 261 ☆ تاثیر: جمالی

الاکرم کا لفظ کرم ہے۔ الاکرم میں کریم سے زیادہ مبالغہ ہے یعنی جو بہت زیادہ کریم ہو اکرم اس کو کہا جاتا ہے جو بلاغرض انعام دے اور اتنا دے جس کا شمار نہ ہو سکے یعنی جب اس سے کرم کرنے کی التجا کی جائے تو کرم کے دروازے کھول دے۔ اکرم کے معنی رب العالمین کی ذات میں وہ علو اور عظمت ہے جو اسی کی شان کے شایان ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور تمام عالم اسی کے جو دو کرم کا بزلہ خوار ہے۔
اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور ہر ایک شے کو شرف و نجات اسی کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی نے رسول کریم کو شرف جاہ و کرم نفس سے ممتاز فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی کے جو دو نوال سے انسان کو صورت زیبا، سیرت

رضیہ حاصل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ اکرم ہے اور اسی کا غنا و کرم سب کو ناز و نعم عطا فرماتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (پ 30 علق 3-4)

ترجمہ: آپ پڑھیں آپ کا رب انتہائی کرم کرنے والا ہے جس نے

بذریعہ قلم علم سکھایا۔

پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پڑھنے کیلئے کہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو تین بار جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ آخر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کہ آپ پڑھے اور فکر نہ کیجئے کہ میں جب پڑھنا نہیں جانتا تو کیونکہ پڑھوں، یہ کوئی عذر نہیں۔ آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ رہے ہیں اور اس کی شان کریم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم و معارف سے سیراب کر دینا اسی کا کام ہے۔ کریم کے بجائے اکرم فرمایا یا تو یہ ربک کی خبر ہے یا اس کی صفت کریم کے بجائے اکرم فرمایا تا کہ مزید مبالغہ ہو کیونکہ اکرم میں کریم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے اور اکرم اس کو کہتے ہیں جو بہت کرم کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں مکرم و معظم ہونے کا منصب عطا فرمایا۔

یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے جس نے ہم لوگوں کیلئے کتاب کریم نازل فرمائی ہے اس اسم سے تخلق پیدا کرنے کیلئے لازم ہے کہ خود کو اس کریم کے درکا گدا بنائے۔ عزت و اکرام جاہ و احتشام اسی میں سمجھے کہ وہ بارگاہ رب العزت ہی کا گدا ہے۔

الْأَعْلَى

يَا أَعْلَى (سب سے برتر) ☆ اعداد: 151 - تاثیر: جلالی

اعلیٰ سے مراد سب سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں افضل و بلند و برتر ہے۔ اسی وجہ سے اس کا صفاتی نام اعلیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مرجع ہے اس لئے دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں اعلیٰ یعنی برتر نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ اللہ کی صفت علیٰ کی مانند علو ہی سے ہے۔

ایک اور قول کے مطابق اعلیٰ وہ ہے کہ جو ہر شریک سے برتر ہے۔ وہ اسی فعل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اسی کیلئے کیا جائے۔ اسی عبادت کو منظور فرماتا ہے جو اسی کی رضا کیلئے ادا کی جائے۔ اس کی شان اس سے برتر و اعلیٰ ہے کہ اس کی قدرت یا حکم ربوبیت میں کسی کو ذرا بھی ساجھا حاصل ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ اعلیٰ ہے جو اہل ایمان کو برتری بخشتا اور امن و اطمینان عطا فرماتا ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

(پ 4 آل عمران 139)

ترجمہ: اور مست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان دار ہو۔

اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ کے بارے میں آیات حسب ذیل ہیں:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ٢ (پ 16 ط 114)

ترجمہ: پس اللہ بلند و بالا ہے جو سچا بادشاہ ہے۔

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٤ (پ 14 نحل 60)

ترجمہ: اور اللہ کی شان اعلیٰ ہے اور وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (پ 30 اعلیٰ 1)

ترجمہ: اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کر۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (پ 30 لیل 20)

ترجمہ: سوائے اس کے کہ اس کے پیش نظر اپنے رب کی رضا مطلوب ہو

جو بلند و بالا ہے۔

وَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ 10 توبہ 40)

ترجمہ: اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور اللہ عزیز ہے حکیم ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کو تسبیح سجدہ قرار دیا ہے۔

غور سے دیکھنا چاہئے کہ جس وقت مومن کا سر، چہرہ اور ناک زمین سے لگے ہوتے

ہیں اس وقت اور اس حالت سے بڑھ کر اور کوئی شکل ذلت و عاجزی کی نہیں ہوتی۔

لہذا اس تسبیح کے معنی یہ ہوئے بندہ ادنیٰ کو رب اعلیٰ کے حضور میں ذلیل سے ذلیل

شکل میں پیش ہونا چاہئے۔ یہی صورت ہماری بلندی درجات کی موجب ہے اور یہی

ذلت ظاہری فی الواقع ارتقائے روح کی معراج ہے۔

اللہ کے بندے سینکڑوں ایسے ہیں جو سجدہ میں زمین پر گر جانے کے بعد ایسی

ذلت، ایسی کیفیت حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی نعمت کسی شے میں اس کا ادنیٰ

شائبہ بھی نہیں۔

سربزمین درت بردن و برداشتن

نے بطریقت درست نے بحقیقت روا

اَمِّوَلٰی

یا مَوَلٰی (کارساز) ☆ اعداد: 86 - تاثیر: جمالی

مولیٰ کے بے شمار معنی ہیں مالک، آقا، سردار کو عموماً مولا کہا جاتا ہے۔ بادشاہ، سلطان، حاکم کیلئے بھی مولیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معاون دوست مددگار ساتھی اور یار کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات پڑوسی کو بھی مولیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلے وقتوں میں آزاد کئے غلاموں کو بھی مولیٰ کہا جاتا تھا غرضیکہ یہ لفظ کثیرالمطالب ہے۔

مولیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے مراد مالک، آقا، مددگار، عطا کرنے والا اور نوازنے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے بعض اہل لغت کا کہنا ہے کہ مولیٰ کا لفظ ولا سے بنا ہے جس کا مطلب وہ تعلق ہے جو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تعلق بذریعہ ولا ہے جس کے معنی محبت، نصرت اور صداقت ہیں۔ قرآن مجید میں ولا کا لفظ ہر دو جانب استعمال ہوا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ولا حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں سے ولا ہے۔ غرضیکہ مسلمانوں کا اصل مولیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی مولیٰ نہیں۔ قرآن مجید میں مولیٰ کا لفظ حسب ذیل آیات میں آیا ہے۔ سورت آل عمران میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا مولیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰکُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِیْنَ (پ 4 آل عمران 150)

ترجمہ: بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولیٰ ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

سورت انعام میں ارشاد ہوا ہے کہ:

ثُمَّ رُدُّوْا اِلٰی اللّٰهِ مَوْلٰہُمْ الْحَقِّ ۗ اِلَّا لَہُ الْحُکْمُ ۚ وَهُوَ اَسْرَعُ

الْحَسِبِیْنَ ۝ (پ 7 انعام 62)

ترجمہ: پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ان کا مولیٰ برحق ہے۔ حکم اسی کا ہے اور بہت جلد حساب لینے والا ہے موت کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا جو لوگوں کا سچا مولیٰ ہے۔
مزید ارشاد ہوا ہے کہ:

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نِعَمَ الْمَوْلٰى وَنِعَمَ النَّصِيْرِ

(پ 9 انفال 40)

ترجمہ: اور اگر وہ ایسا کرنے سے منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولیٰ ہے وہ بہترین مولیٰ یعنی کارساز ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔

یہی بات سورت حج میں یوں بیان ہوئی ہے:

هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلٰى وَنِعَمَ النَّصِيْرِ (پ 17 حج 78)

ترجمہ: وہ تمہارا مولیٰ ہے پس وہ بہت اچھا مولیٰ ہے اور بہت ہی مدد کرنے والا ہے۔

سورت تحریم میں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (پ 28 تحریم 2)

ترجمہ: اور اللہ تمہارا مولیٰ ہے وہی علیم ہے حکیم ہے۔

اہل ایمان کا آقا و مولیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے احکامات میں انسانوں کی بہتری اور بھلائی موجود ہے پھر اللہ کے احکامات سراسر حکمت اور رموز سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے مقرر کردہ طریقوں میں رد و بدل کرے لہذا اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہئے اور اسی کی اطاعت کرنی چاہئے کیونکہ اصل مولیٰ وہی ہے۔

جنگ احد کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولیٰ کا لفظ

استعمال فرمایا ہے اور وہ واقعہ یوں ہے کہ معرکہ احد میں مسلمان کثرت سے شہید اور زخمی ہوئے۔ ابوسفیان نے خوشی سے نعرہ لگایا ہبل زندہ باد۔ مسلمانوں نے جوابی نعرہ لگایا اللہ اعلیٰ واجل اللہ تعالیٰ بلند اور بزرگ ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کا بدلہ ہوا اور لڑائی کا پانسہ پلٹتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فرزند ان اسلام! اس سے کہو تم ہم سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو۔ ہمارے مقتول اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن۔ مشرکین نے کہا: اِنَّ لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ۔ ہمارا عزی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزی نہیں۔ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ اَللّٰهُمَّ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ مُسْلِمَانُونَ نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

مولیٰ کی راہ میں شہدان حق کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بلکہ ان پر بڑے خوش آئند نتائج مرتب ہوں گے۔ اس قربانی کا صلہ انہیں تو یہ ملے گا کہ جنت میں رفیع الشان محلات میں وہ تشریف فرما ہوں گے اور ان کی ملت کو ان کی جانفشانیوں کے صدقے عزت و سر بلندی نصیب ہوگی اور جس مقصد کیلئے انہوں نے اپنی جوانیاں نثار کی تھیں، وہ مقصد حاصل ہوگا۔ حق کی روشنی سے کوہ و دمن میں اجالا ہو جائے گا۔ ان پاکبازوں نے جان دے کر اتنے عظیم مقاصد حاصل کر لئے، ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔

النَّصِيرُ

يَا نَصِيرُ (مدد کرنے والا) ☆ اعداد: 350 - تاثیر: جمالی

نصیر کا عام مطلب مدد کرنے والا، معاون اور دوست ہے۔ یہ لفظ نصر و نصرت سے بنا ہے جس کے معنی مدد کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر وقت مدد فرماتا

ہے۔ انسان کا ہر کام اس کی مدد اور نصرت ہی کی بنا پر مکمل ہوتا ہے۔ اس لئے ہر بندہ اللہ ہی سے مدد کا طلبگار رہتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیلئے عام استعمال ہوا ہے اور بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو آڑے وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کیلئے اللہ کے نبی کی مدد کرتے ہیں۔ انہیں انصار اللہ کہا گیا ہے غرضیکہ اللہ کی نصرت اور مدد سے دین اسلام پھیلا اور اس کی مدد ہی سے دین حق کو بے پناہ قوت اور فوقیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نصیر ہے کہ جو مشکل کے وقت اپنے بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔ اللہ نصیر ہے کہ وہ اپنے بندوں کا سینہ کھول دیتا ہے۔ قلب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کی بنا پر اس کے بندے دنیا کے مصائب کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔

قرآن مجید میں ہے کہ نصیر در حقیقت پروردگار ہی ہے۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ 20 عنکبوت 22)

ترجمہ: اور تم زمین میں اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں اور تمہارے لئے اللہ کے سوا اور کوئی دوست اور مدد کرنے والا نہیں۔

ایک اور مقام پر بتایا گیا ہے کہ ہادی اور نصیر اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا (پ 19 فرقان 31)

ترجمہ: اور آپ کیلئے آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد کرنے میں کافی ہے۔

سورہ بقرہ میں ایک اور انداز میں بتایا گیا ہے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نصیر نہیں ہے یعنی اللہ ہی نصیر ہے۔

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِّيْ

مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (پ 15 بنی اسرائیل 80)

ترجمہ: اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر اور مکے سے سچائی کے ساتھ نکال اور میرے لئے اپنے ہاں سے غلبہ دینے والا مددگار عطا کر۔

ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا ہدایت اور علم مل جانے کے بعد یہود و نصاریٰ کی اتباع نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان ان کی اتباع کرے گا تو پھر اس کیلئے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اصل نصیر یعنی مددگار تو اللہ ہے لہذا اس کی اطاعت اور اتباع کرو۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلٰسِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۡءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالِكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(پ 1 بقرہ 120)

ترجمہ: فرمادیتجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہے کیونکہ ہدایت اسی کی ہے اور (اے سننے والے) اگر تم ان کی خواہشات کا علم آ جانے کے بعد اتباع کرو تو اللہ سے بچانے والا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ سورت نساء میں کہا گیا ہے کہ غیروں کو دوست اور نصیر نہ سمجھو یعنی دراصل مسلمانوں کا نصیر اللہ ہی ہے۔ اس لئے دوسروں کو دوست اور نصیر نہ بنایا جائے۔

ارشاد ہوا ہے کہ:

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَّلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ (پ 5 نساء 89)

ترجمہ: ان میں سے کسی کو نہ دوست اور نہ مددگار بناؤ

علماء کا کہنا ہے نصرت یعنی مدد کا اطلاق ہر دو جانب یعنی بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی جانب سے بندہ کی نصرت ہوا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ (پ 26 محمد 7)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔

بندہ کی جانب سے اللہ کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے بندوں میں باہمی نصرت و امداد قائم ہو جائے۔ ایک دوسرے کا کام بنانے میں باہمی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت حدود الہی کی رعایت، پابندی احکام اور نصرت از نو اہی یہ سب نصرت کے معنی میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بندہ کو نصرت کے معنی تو صاف اور واضح ہیں۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (پ 10 توبہ 40)

ترجمہ: اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے تو اس کی مدد اس وقت ضرور کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا اور اس وقت رسول دو میں سے دوسرا تھا اور وہ دونوں غار کے اندر رہتے تھے۔

یہ نصرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ نبی و صدیق دونوں غار کے اندر ہیں۔ کفار سر پر آگئے ہیں حتیٰ کہ صدیق و رسول ان سب کو دیکھ رہے ہیں مگر ان دونوں کو دیکھنے سے سب کی آنکھیں کور ہیں۔ ڈیڑھ ہزار فٹ کی بلندی کے پہاڑ پر تو سب چڑھ آئے ہیں مگر دس فٹ کی گہرائی کے غار کو کوئی بھی تاک جھانک کر نہیں دیکھتا۔ عنکبوت کا دامن غار پر جالاتن دینا خواہ روایت کیسا ہی صغیف ہو مگر قدرت الہیہ کا خود ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دینا تو بالکل صحیح ہے اور یہ معجزہ کی اعلیٰ قسم ہے۔ اوٹ کی چیز کا نظر نہ آنا معمولی بات ہے مگر اوٹ نہ ہو اور صحیح و تندرست آنکھ سامنے کی چیز کو نہ دیکھ سکے، نصرت الہی کی واضح مثال ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا (پ 30 نصر 4 - 2)

ترجمہ: جب اللہ کی نصرت اور فتح پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں سب ہی اقسام کے لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اہل دنیا کی فتح حاصل کرنے کا نتیجہ کسی ملک کا قبضہ میں آ جانا۔ چند نفوس کا داخل رعایا ہو جانا قفل زدہ قلوب کا کھل جانا، دین الہی کا دلوں پر قابض ہو جانا ہے۔ وہ نصرت الہی اور فتح ربانی کا جو سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ الناس یعنی نوع بشر کی مختلف اصناف میں دین الہی داخل ہو گیا تھا۔

یہ نصرت الہیہ تھی جس نے شب تار میں اہل یشرب کے چند نفوس کو اقتباس انوار کا موقع عطا فرمایا اور وہ آئندہ کیلئے انصار اور ان کا شہر مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور ہوا۔

اس اسم پاک سے تخلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و رعایت کا ملجی رہے۔ کشود کار اسی کے ہاتھ میں سمجھے۔ یہ دعایا دکر لینی چاہئے۔

اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاعْوِذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ اللَّهُمَّ
بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي -

ترجمہ: یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے نفع بھی عطا کر اور جو چیز میرے نفع کی ہے اس کا علم عطا کر اور مجھے علم میں ترقی دے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے اور جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ ہے۔ یا اللہ اپنے علم غیب اور قدرت کے طفیل مجھے زندہ رکھ۔ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو۔ مجھے وفات دے جب تیرے علم میں وفات میرے لئے بہتر ہو۔

الْإِلَه

يَا إِلَه (اے معبود) ☆ اعداد: 36 - تاثیر: متعدل

اللہ تعالیٰ الہ ہے الہ سے کہا جاتا ہے جس کی عبادت یعنی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا ہے اور زندگی گزارنے کیلئے ہر طرح کے اسباب بھی پیدا کئے ہیں اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ اسی کو الہ یعنی معبود تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حالت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہماری ضرورتوں کا چارہ ساز ہے۔

اے بندے اسی نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہی تجھے رزق دیتا ہے، وہی تجھ سے مصائب و آلام کو دور کرتا ہے، وہی تیرے بے قرار دل کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے، وہی تیری حفاظت کرتا ہے، وہی تجھے ظالموں کے ظلم سے پناہ دیتا ہے۔ اسی نے تیرے لئے لباس بنایا ہے۔ اللہ ہی نے تیرے لئے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ وہی نسل انسانی کا سلسلہ بڑھاتا ہے۔ اسی نے تیرے جسم کی راحت کیلئے رات دن بنائے ہیں۔ وہی تیرا خالق اور مالک ہے۔ وہی انسانوں کو بے شمار انعاموں سے نوازتا ہے۔ اسی نے حضرت انسان کیلئے رنگ برنگ کے پھل پیدا کئے ہیں۔ طرح طرح کی کھانے والی چیزیں اگائی ہیں۔ اسی نے انسان کیلئے دودھ دینے والے جانور پیدا کئے ہیں اور اسی کی سہولت کیلئے دیگر چوپائے مہیا کر رکھے ہیں۔ جب دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کی سہولت اور فائدے کیلئے بنائی ہے تو پھر یہ حضرت انسان پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اسی کو عبادت کے لائق یعنی الہ سمجھ کر اسی کی تعریف کرے۔ اس کی حمد و ثنا کرے۔

انسانی حاجات اور ضروریات دو طرح کی ہیں۔ ایک کا تعلق تو ظاہر دنیا سے

ہے اور دوسری کا تعلق انسان کی اندر کی دنیا یعنی من سے ہے۔ یہ دونوں طرح کی حاجات اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اس لئے اللہ کو ہر حال میں معبود ماننا لازم ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی ہر شے سے قوی ہے اور بلند و بالا ہے۔ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے مگر کائنات کی ہر چیز اس کے ہونے پر شاہد ہے۔ انسان اللہ کی پکڑ ہی سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح مدد کیلئے بھی انسان اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ اس لئے یہ اللہ ہی کیلئے زیبا ہے کہ انسان اسے الہ مان کر اسی کے سامنے سجدہ ریزی کرے اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔

اللہ کے معبود ہونے کی کچھ صفات ہیں جو اور کسی میں نہیں ہو سکتیں۔ وہ واحد ہے جی ہے قیوم ہے۔ وہی جبار اور قہار ہے۔ ہر غیب چیز کو جاننے والا وہی ہے۔ وہ مالک و خالق ہے۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ وہی اولاد دینے والا ہے۔ وہی ہواؤں کو چلانے والا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (پ 28 حشر 22)

ترجمہ: اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر غیب اور ظاہر چیز

کو جاننے والا ہے۔ وہی رحمان ہے رحم کرنے والا ہے۔

اے اللہ کی دوستی کے طالب اس کو رحمان جانتے ہوئے اسی سے رحم کی طلب کر

کیونکہ اس کا رحم بڑے فضل والا ہے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَانِي تُصْرَفُونَ

(پ 23 زمر 6)

ترجمہ: یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ مملکت اسی کی ہے اس کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے پھر تم کس طرح پھرے جا رہے ہو۔

اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اس سے امید رکھ کہ وہ تیرا رب ہونے کے

ناطے سے تیری پرورش ضرور کرے گا۔

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ ءِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۝ (پ 20 نمل 61)

ترجمہ: کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا اور اس میں نہریں رواں
کردیں اور اس کیلئے پہاڑ بنا دیئے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل
بنا دی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ ان کی اکثریت اس حقیقت
کو نہیں جانتی۔

اللہ کی زمین پر رہنے والے اس کے دوست اسی کو معبود مانتے ہیں۔
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۚ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ قُلْ هُوَ نَبِيُّ
عَظِيمٍ ۝ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝ (پ 23 ص 65-68)

ترجمہ: میں تو ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو واحد
ہے زبردست ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان
کا رب ہے۔ غلبے والا ہے بخشنے والا ہے۔ آپ فرمادیں کہ یہ ایک عظیم
خبر ہے جس سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ صِلْ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَنَاءُ
وَالْهَيْكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (پ 21 عکبوت 46)

ترجمہ: اور اے مسلمانوں اہل کتاب سے بحث و تکرار نہ کرو مگر احسن
طریقے سے بات چیت کر سکتے ہوئے سوائے ان کے جو ان میں سے
ظالم ہیں اور یہ بات کہئے اور یہ کہو کہ جو ہم پر اترا اور جو تم پر نازل ہوا

اس پر ایمان لائے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسے تسلیم کئے ہوئے ہیں۔

اللہ واحد معبود ہے

اللہ واحد معبود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ مسلمانوں کا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ (پ 14 نحل 51)

ترجمہ: اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا لو بے شک وہ تو واحد معبود ہے لہذا اسی سے ڈرتے رہو۔

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (پ 14 نحل 22)

ترجمہ: تمہارا معبود واحد ہے ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں انکار ہے اور وہ متکبر ہو گئے ہیں۔

وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

(پ 2 بقرہ 163)

ترجمہ: اور تمہارا معبود وہی واحد ہے نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی رحمن رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (پ 17 انبیاء 108)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ بیشک تمہارا معبود واحد معبود ہے تو کیا تم اس کو تسلیم کرتے ہو۔

وَالصَّفِّ صَفًّا ۝ فَالزُّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ
 إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ (پ 23 صفت 1-4)

ترجمہ: اور قسم ہے صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی پھر
 رعب سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں
 کی قسم، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ بننے کیلئے یہ اشد ضروری ہے کہ بندہ اللہ کو زبان کے
 اقرار اور دل کے یقین کے ساتھ الہ تسلیم کرے۔ اللہ کے بندے حقیقتاً اللہ ہی کو جب
 الہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کا اللہ کو الہ مان لینا ان کے اعمال سے خود بخود ظاہر ہوتا
 ہے۔ اسی بنا پر وہ برائی کی طرف بالکل مائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ اللہ ہی کو معبود سمجھ کر
 جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی توجہ بالکل ادھر ادھر نہیں جاتی۔ ایسی عبادت
 میں سرور اور کیف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عام مسلمان اللہ کو الہ مانتا ہے لیکن جب
 نیک اعمال کی باری آتی ہے تو وہ اللہ کی الوہیت کو بھول کر اپنی خواہشات ہی کی
 پیروی کر جاتا ہے۔ اس طرح اس کی عبادت سرور سے خالی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ
 نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

(پ 29 مزل 9)

ترجمہ: خواہ کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں اسے اللہ ہی کو معبود
 تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جب وہ ہر لحاظ سے انسان کا مالک اور خالق ہے
 تو پھر اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ
 الْعَلِيمُ (پ 25 زخرف 84)

ترجمہ: اور آسمان میں وہی ایک معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے وہ حکمت والا علم والا ہے۔

فَعَالَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

(پ 18 مومنون 116)

ترجمہ: اللہ عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝ (پ 5 نساء 87)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہیں قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں شک نہیں ہے اور اللہ کی بات ہی ہر کسی سے بڑھ کر سچی ہوتی ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (پ 3 آل عمران 18)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے انصاف کے تقاضے کو قائم رکھتے ہوئے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔

انسان اپنے آغاز کے بعد اس طرف راغب ہوا کہ پیغمبر تو ایسے معبود کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ لہذا ہر دور میں لوگوں کی اکثریت اصل راہ سے ہٹ کر اس طرف مائل ہو جاتی ہے کہ وہ اس معبود کو پوجنے لگتے ہیں جو انہیں آنکھوں سے نظر آتا۔ یہ ایک طرح کی انسانی یقین کی کمزوری تھی کیونکہ اللہ انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ انسان اسے نہ مادی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی حقیقت کو صرف نور نبوت اور عرفان ولایت سے

دیکھا جاسکتا ہے لہذا جو شخص اللہ کو جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ دنیا کی ہر چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں چند مقامات پر یوں بیان فرمائی ہے:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ج

(پ 19 شعراء 213)

ترجمہ: پس اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ عذاب پانے والے لوگوں سے ہو جاؤ گے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہی حکم دیا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح تم بھی بے راہ نہ ہو جانا بلکہ ہمیشہ ایک معبود کو پکارتے رہنا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ط إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ج

(پ 27 ذریت 51)

ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ بے شک میں تمہیں اس سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

یہی بات ایک اور انداز میں قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَعْ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ء (پ 20 قصص 88)

ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اصل حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹ جانا ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ط قُلْ هُوَ رَبِّي لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (پ 13 رد 30)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے وہ انہیں سنا دیں اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرمادیتے تھے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف راجع ہوں۔

الْخَلْقُ

يَا خَلَّاقُ (اے پیدا کرنے والے)

اعداد: 731 ☆ تاثیر: جلالی

خلاق کا مطلب پیدا کرنے والا ہے جو لفظ خلق سے ہے۔ خلاق میں خالق سے قدرے مبالغہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات میں جامع اور مکمل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (پ 26 حجر 86)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (پ 23 يس 81)

ترجمہ: کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے ہاں وہی خلاق ہے علیم ہے۔

اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جن کی بلندی، وسعت اور گہرائیوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا ایسی قادر قیوم ہستی کیلئے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل بات ہے؟ اس کی دیگر تخلیقات کے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ ذرا پہاڑ کے ساتھ سر جوڑ کر کھڑے ہو تو تمہیں اپنی قامت کی درازی کا پتہ چل جائے۔ ذرا ہاتھی کے ساتھ اپنا وزن تو کرو، اس کا ایک پاؤں بھی تم سے زیادہ وزنی ہے۔ ذرا ہرن کے ساتھ دوڑ لگاؤ دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ ایک بھینس کے ساتھ کھانے میں ہی مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ قامت، یہ طاقت اور یہ حیثیت اور اس کے باوجود ایسی خرمستیاں کہ قدرت الہی پر حرف گیری کرنے کی جرأت کرنے لگے ہو۔ (ضیاء القرآن جلد 4)

اللہ تعالیٰ خلاق ہے، پیدائش انسان کو اس نے آیت ذیل میں ظاہر فرمایا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي

قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا

آخَرَ ۝ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (پ 18 مومنون 11-14)

ترجمہ: ہم نے پہلے انسان کو صاف مٹی سے بنایا پھر انسان کی خلقت کو

پانی سے بنایا جو رحم میں ٹھہرے پھر نطفہ کو جو تک جیسا بنایا پھر اسے لوتھڑا

گوشت کا کر دیا پھر اس میں ہڈیا پیدا کر دیں پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت

کا لباس پہنا دیا پھر پیدائش کے اگلے درجہ تک ہم نے اسے بڑھایا۔ بے

شک بڑی برکتوں کا دینے والا وہ جو تمام صورت گروں سے بہتر اور

پاکیزہ تر مخلوق پیدا کرتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (پ 23 یسین 36)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب چیزوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا جن کو زمین اگاتی ہے اور انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا اور ان چیزوں کو بھی جن کو اب تک یہ لوگ نہیں جانتے۔

خلقت و پیدائش کی جن انواع و اقسام کا ان آیات میں ذکر ہے اس کی صحیح کیفیت مختلف علوم پر عبور کے بعد حاصل ہوتی ہے لیکن ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے والا انسان بھی اگر مختلف مخلوقات کا ذرا سا تصور کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا تھوڑا بہت عرفان ہو سکتا ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے نور سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے نار سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جسے خاک سے بنایا۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو ہوا میں اڑنے والی ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو پانی کے اندر جینے والی ہے۔

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو پانی کے اندر جینے والی ہے

لا تعداد مخلوق وہ ہے جو سطح ارض پر رہتی ہے۔

لا تعداد مخلوق زمین کے اندر اپنے گھر بناتی ہے۔

لا تعداد مخلوق چار پائے کے نام سے مشہور ہے۔

لا تعداد مخلوق صرف دو پاؤں پر چلتی ہے۔

پھر ہر ایک کے تحت میں سینکڑوں اصناف و اقسام ہیں۔

ہر ایک کی طبائع و خواص الگ، ہر ایک کی غذا الگ، ہر ایک کا مقصد زندگی جدا،

علم و ادراک میں، نشوونما میں، توالد و تناسل میں، حیات و ممات میں سب کے طبقات

جدا جدا ہیں۔

اس ادنیٰ تصور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ مالک کتنا بڑا خلاق ہے اور ہر

ایک مخلوق کے ساتھ اس کا علم کتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو ایسے خالق کا بندہ ہے جو ایسے مالک کا فرمانبردار ہے۔

اس اسم کے متعلق یہ دعایا درکھنی چاہئے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَّاقٌ عَظِيمٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ
 اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي
 وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ترجمہ: یا اللہ تو بہت بڑا خلاق ہے تو سمیع ہے، علیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عرش عظیم کا پانے والا ہے تو بڑ اور جواد اور کریم ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے، میری پردہ پوشی کر، میری دل شکستگی کو دور کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رہنمائی فرما، مجھے گمراہ نہ کر، مجھے جنت میں داخل کر، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے رحم فرما۔

الْقَاهِرُ

يَا قَاهِرُ (اے غالب) ☆ اعداد: 306 ☆ تاثیر: جلالی

قاہر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (پ 17 انعام 18)

ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے اور وہ حکمت والا

خبر والا ہے۔

اس سے آگے یہی بات یوں بیان ہوئی ہے:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط (پ 7 انعام 61)

ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے

بھیجتا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ قاہر سے مراد غلبہ حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے قاہر ہے کہ تمام مخلوق پر اسے غلبہ تام حاصل ہے۔ قاہر میں قہر اور قہار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاہر ہے کہ کسی چیز کو اس کی ذات اور صفات میں بھی دخل حاصل نہیں ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی قاہر ہے کہ ہر کسی کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔

اس اسم سے تخلق پیدا کرنے والوں کو غلبہ و طاقت کے وقت ضعفاء پر رحم کرنا چاہئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، عقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ فرمایا تیرا رب تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تجھ کو اپنے غلام پر ہے۔ یہ سن کر وہ زمین پر گر گئے۔ غلام سے کہا کہ اپنا پاؤں مع اپنے جوتے کے میرے رخسار پر رکھ دے۔ تب جاہلیت کی بو میرے دماغ سے نکلے گی۔

الْغَافِرُ

يَا غَافِرُ (اے گناہ بخشنے والے)

اعداد: 1281 ☆ تاثیر: جمالی

غافر کا لفظ غفر سے ہے جس کا مطلب چھپانا اور ڈھانپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپتا ہے اس لئے وہ غافر ہے۔ غافر

میں غفور اور غفار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کیونکہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اس لئے وہ غافر ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یوں بیان ہوئی ہے کہ:

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ط لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ ط إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○ (پ 24 مؤمن 3)

ترجمہ: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے شدید پکڑ والا ہے بڑے

کرم والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا

ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ غافر الذنب ہے یعنی گناہوں کی پردہ پوشی

فرمانے والا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بدکار ہو جب وہ اس کے دربار میں ندامت و

شرمندگی کی متاع لے کر آجاتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے

ڈھانپ دیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ یا قصور کیا تھا۔

قابل التوب یعنی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی سابقہ

سرکشیوں کے باعث اپنے باب کرم سے دھتکار نہیں دیتا بلکہ اس کی توبہ قبول فرماتا

ہے اور اس کے گناہوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا۔

شریعت میں توبہ ان چار چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے کہ گناہ کو قبیح سمجھتے ہوئے

چھوڑ دے جو فروگزاشت اس سے پہلے ہو چکی ہے اس پر دل سے شرمسار ہو۔ دوبارہ

اس کا ارتکاب نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور جہاں تک ممکن ہو گزشتہ اعمال کا

تدارک کرے۔

غافر اور قابل کے درمیان واو عطف ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ

دونوں الگ الگ صفتیں ہیں، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور جو توبہ

نہیں کرتے وہ اتنا کریم ہے کہ جس کو چاہتا ہے توبہ کے بغیر بھی بخش دیتا ہے کیونکہ توبہ کے بغیر بخشش میں اس کی شان کریمی کا ظہور زیادہ ہے اس لئے غافر الذنب کو پہلے ذکر کیا۔

اس ضمن میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ شام کا ایک ادنیٰ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ اس کی پارسائی، تقویٰ اور دین کیلئے اس کی حمیت کے باعث آپ اس کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ شام سے ایک آدمی آیا۔ آپ نے اس سے اپنے دوست کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ وہ توتباہ ہو گیا ہے۔ شراب پیتا ہے، گانا سنتا ہے اور وہ فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو از حد رنج ہوا، فرمایا: جب واپس جانے لگو تو مجھے ملتے جانا۔ روانگی کے وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا لکھو:

یہ خط عمر بن الخطاب سے فلاں شخص کی طرف۔ تم پر سلام ہو، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جو وعدہ لاشریک ہے۔ گناہ معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا۔ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔

پھر خود بھی اس کی ہدایت کیلئے دعا مانگی اور حاضرین مجلس سے بھی اس کیلئے دعا منگوائی اور یہ خط اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ یہ میرے دوست کو پہنچا دینا۔ جب اس دوست نے خط پڑھا، تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا مینہ برسنے لگا، روتا تھا اور خط کو بار بار پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، فسق و فجور کی زندگی ترک کر کے اطاعت و انقیاد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی توبہ کی اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے: تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ اسے سیدھی راہ پر

لانے کی کوشش کرو۔ اس کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ یعنی اگر تم اسے برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسوں لگو گے تو وہ اپنی ضد پر پکا ہو جائے گا اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر گمراہی میں دور نکل جائے گا۔

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے کے گرد و نواح میں تھا۔ میں نے ایک باغ میں جا کر دو رکعت نماز شروع کی اور اس میں سورہ مومن کی تلاوت کرنے لگا۔ میں ابھی اِلَيْهِ الْبَصِيرُ تک پہنچا ہی تھا کہ ایک شخص نے جو میرے پیچھے سفید خچر پر سوار تھا جس پر یمنی چادریں تھیں مجھ سے کہا جب غَا فِرِ الذَّنْبِ پڑھو تو کہو يَا غَا فِرِ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي اور جب قَابِلِ التَّوْبِ پڑھو تو کہو يَا قَابِلِ التَّوْبِ اِقْبَلْ تَوْبَتِي اور جب شَدِيدِ الْعِقَابِ پڑھو تو کہو يَا شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا تَعَاقِبْنِي، حضرت مصعب فرماتے ہیں میں نے گوشہ چشم سے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، فارغ ہو کر میں دروازہ پر پہنچا وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تمہارے پاس سے گزرا جس پر یمنی چادریں تھیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اب لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ خیر الغافرین ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ:

اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَاْفِرِيْنَ

(پ 9 اعراف 155)

ترجمہ: تو ہمارا مولیٰ ہے پس ہماری بخشش کر اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

الْفَاطِرُ

يَا فَاطِرُ (خالقِ فطرت) ☆ اعداد: 290 ☆ تاثیر: جمالی

فاطر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یہ لفظ فطر سے ہے جس کے معنی پیدا کرنا یا کسی چیز کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس لحاظ سے وہ فاطر ہے۔ غرضیکہ تمام مخلوقات کو ابتدائی طور پر اللہ ہی نے بنایا ہے پھر ہر چیز کی خصوصیات بھی پیدا کی ہیں۔ خاص طور پر زمین و آسمان کی پیدائش کیلئے فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں جن آیات میں فاطر لفظ آیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ ط قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (پ 7 انعام 14)

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سر پرست بنا لوں اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ اَنْتَ وَلِيّٰ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
تَوْفِيّٰ مُسْلِمًا وَّالْحَقِيْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ (پ 13 یوسف 101)

ترجمہ: پس اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ مجھے مسلمانی پر وفات دینا اور صالحین کے ساتھ شامل کر دینا۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

(پ 13 ابراہیم 10)

ترجمہ: ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے والے کے بارے میں شک ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ
أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ ط يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پ 22 فاطر 1)

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو پیغام دینے والا بنایا ہے جن کے بازو دو تین تین چار چار پروں کے ہیں جن کی تخلیق میں اضافہ چاہتا ہے تو بڑھا دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (پ 24 زمر 46)

ترجمہ: فرمادیتے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب اور ظاہر کو جاننے والے تو ہی ان باتوں میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں ایک دوسرے کا اختلاف ہے۔

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ج يَذُرُكُمْ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (پ 25 شوریٰ 11)

ترجمہ: وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ اسی نے تمہاری جنس سے تمہیں جوڑے بنا دیا ہے اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں وہ انہیں ذرائع سے تمہیں بڑھاتا رہتا ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اَلْمَلِيْكُ

يَا مَلِيْكُ (مالک ہونا، بادشاہ) ☆ اعداد: 100 ☆ تاثیر: جمالی
 اَلْمَلِيْكُ سے مراد کسی چیز کی ملکیت حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا
 مالک ہے اس لئے اس کائنات کی اصل ملکیت اسی کو حاصل ہے۔ جب یہ کائنات
 اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تو پھر اس کائنات کا اصل بادشاہ بھی اللہ ہی ہے۔ وہ اپنی
 بادشاہت میں جو چاہئے حکم دے خواہ وہ کسی چیز کو رکھے یا مٹائے کوئی اس کا شریک
 نہیں ہے۔ قیامت اسی کے حکم سے آئے گی۔ دنیا کی تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی
 مگر اللہ کی بادشاہت اور ملکیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے مالک
 اور ملوک ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ (قر 55)

ترجمہ: سچائی کے اعلیٰ مقام جو ذی وقار بادشاہ کے پاس ہیں کے قریب
 ہوں گے۔

اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (بقرہ 107)

ترجمہ: کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ ہی
 کیلئے ہے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(آل عمران 189)

ترجمہ: زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (مائدہ 17)

ترجمہ: زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (انعام 73)

ترجمہ: اس کا ارشاد عین حق ہے اور جس روز رصو پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (توبہ 116)

ترجمہ: اللہ ہی کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (بنی اسرائیل 111)

ترجمہ: اور کہو تعریف ہے اس خدا کیلئے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے۔

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط (حج 56)

ترجمہ: اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

مَلِيكَ: اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کیلئے مستعمل نہیں ہوا۔

مالک فاعل ہے، ملک فعل ہے جو اوزان مبالغہ میں سے ہے اور ملوک فعل ہے۔

الْحَفِيُّ

يَا حَفِيُّ (بے حد مہربانی کرنیوالا، بے حد لطف فرمانے والا)

اعداد: 98 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الحفی ہے جس کے مختلف معنی ہیں۔ حَفِيُّ کا ایک مطلب مہربانی اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے مہربانیاں اور احسان کرتا ہے اس لحاظ سے وہ حَفِيُّ ہے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ایسا

مہربان جس نے مجھے اس بات کا خوگر بنا دیا ہے کہ جب کبھی کوئی عرض کرتا ہوں تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔

الْحَفِيُّ کا دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے علم کی بنا پر لوگوں کی ضروریات اور دلوں کے رازوں سے واقف ہونا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت اور حقیقت سے واقف ہے۔ اس لئے وہ حَفِيٌّ ہے یعنی دنیا کی کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ مخلوق کے ہر کام کو جانتا ہے خواہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کرے۔ اس سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح اپنے بندوں سے واقف ہونا اس کی صفت حَفِيٌّ ہے۔

ایک قول کے مطابق اللہ حَفِيٌّ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ جو سائل جس مقصد کیلئے التجا کرے گا اللہ اسے پورا فرمادے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق اللہ تعالیٰ حَفِيٌّ ہے کہ اس کے علم نے ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے لطف و احسان نے سب کو زیر بار کیا ہوا ہے۔ وہی بندوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہی نافرمان بندوں کے تائب ہونے پر اظہار مسرت فرماتا ہے۔

قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال یوں ہوا ہے کہ:

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

(پ 16 مریم 47)

ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سلام ہے میں اپنے رب سے تمہارے لئے استغفار کروں بے شک وہ مجھ پر کمال مہربانی (شفقت) رکھتا ہے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا ہے کہ اللہ واقعی مجھ پر

بہت مہربان ہے۔

ایک اور مقام پر حَفِيٌّ کا لفظ یوں بھی استعمال ہوا ہے:
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ
 لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۖ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا
 تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۖ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
 عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(پ 9 اعراف 187)

ترجمہ: آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب
 آئے گی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس
 ہے۔ اسے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ وقت آسمانوں اور زمین پر بڑا
 سخت ہوگا جو سخت ہوگا جو تم پر اچانک آئے گا۔ وہ آپ سے اس کے
 متعلق اس طرح پوچھتے ہیں غرضیکہ آپ نے اس کی خوب تحقیق کر رکھی
 ہے۔ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اکثر لوگوں کو
 اس کا علم نہیں ہے۔

الْمُحِيطُ

يَا مُحِيطُ (اے احاطہ کرنے والے)

اعداد: 67 --- تاثیر: معتدل

محیط کا لفظ حوط اور احاطہ سے جس کا مطلب کسی چیز کا ہر طرف سے گھیرے
 میں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم اور قدرت کی بنا پر اپنے احاطے میں رکھا
 ہوا ہے اس لحاظ سے وہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ محیط ہے کہ اس کی قدرت نے تمام

مخلوقات کو احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ محیط ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محیط ہے کہ کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محیط ہے کہ ہر چیز اس کی حفاظت میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مقامات پر مندرجہ ذیل سورتوں پر استعمال ہوا ہے۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

بِالْكَافِرِينَ ۝ (پ 1 بقرہ 19)

ترجمہ: یا ان کی مثال بارش ہے جو آسمان سے برسی ہے جس میں ظلمت اور کڑک اور چمک ہے اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۗ
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ (پ 4 آل عمران 120)

ترجمہ: جب تمہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور ان کا فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ بے شک ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں ہیں۔

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُسُوتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

(پ 5 نساء 108)

ترجمہ: وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دل میں وہ بات سوچتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے

اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيطًا ؕ (پ 5 نساء 126)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

(پ 10 انفال 47)

ترجمہ: اور لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اترے ہوئے لوگوں کے دکھاوے کیلئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

قَالَ يُقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ط وَاتَّخَذْتُمُوهُ وِرَآءَ
كُمْ ظَهْرِيَّا ط اِنَّ رَبِّيْٓ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

(پ 12 ہود 92)

ترجمہ: حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

(پ 25 حم سجدہ 540)

ترجمہ: سنو انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں شک ہے یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

الْمُسْتَعَانُ

يَا مُسْتَعَانُ (اے استعانت کرنے والے)

اعداد: 621 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی مدد اور استعانت طلب کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات مستعان ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (پ 12 یوسف 18)

ترجمہ: اور جو تم نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت طلب کروں گا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتے لے گئے اور ظاہر کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تب انہوں نے زبان سے مندرجہ بالا الفاظ کہے کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ آخر اس اسم پاک اور استعانت باللہ کا اثر یہی ہوا کہ بالآخر یوسف و یعقوب علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملایا اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے اقبال و کامرانی نبوت و حکمرانی کا جلوہ دکھلایا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو جب ابتداء میں ایک خدا پر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے راہ حق میں بڑی رکاوٹیں پیدا کیں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے غلبہ اسلام کیلئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی استعانت کی التجا کی جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے:

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ط وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا

تَصِفُونَ ء (پ 17 انبیاء 112)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رب حق کے ساتھ فیصلہ
کردے اور جو باتیں وہ بناتے تھے اس پر رب رحمان کی مدد اور
استعانت کی ضرورت ہے۔

اسماء الحسنیٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہ ملی
تھی۔ ذرا الفاظ پر غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعائے یعقوب
سے بڑھ کر کس قدر قدرت ہے۔ کامیابی میں بھی یہی تفاوت جلوہ افگن ہے۔ وہاں
ایک یوسف ملا تھا۔ یہاں قوم کے ہزاروں گمشدہ لوگ اسلام میں داخل ہو کر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قرۃ العین بن گئے تھے۔

سورت فاتحہ میں فرمایا گیا ہے کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ط (پ 1 فاتحہ 4)

ترجمہ: ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

استعانت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہئے کیونکہ اس کی مدد اور توفیق ہی سے
بندوں کے تمام کام آسانی سے سرانجام پاسکتے ہیں۔ استعانت ان امور میں ہے جو
انسان کی طاقت سے بالاتر ہیں اور ان کا تعلق صرف قدرت الہیہ سے ہوتا ہے جیسا
کہ بغیر اسباب کے مصائب کو دور کرنا، مرادوں کو پورا کرنا، آرزوں کا برلانا، گناہوں
کو معاف کرنا، آنے والے حالات میں کامیابیوں سے نوازنا، نقصانات سے محفوظ
رکھنا، زندگی اور موت کے معاملات، رزق میں کشائش، مال و دولت کا عطیہ، اس
طرح کے بیسیوؤں معاملات جن کا سررشتہ صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے ان
معاملات میں مدد طلب کرنا اسی کو استعانت کہتے ہیں اور جس سے ایسی مدد طلب کی
جائے اسے مستعان کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے صرف پروردگار ہی ہے جو المستعان

ہے۔ پھر یہ استعانت صرف ظاہری عبادات تک محدود نہیں بلکہ نیتوں کا خاص ہونا، ایمان کیلئے توفیق کا ملنا، اعمال خیر اور ایمان باللہ پر استقامت، خوف و ہراس میں دل کا مضبوط ہونا، راہ راست کا آسان ہونا اور دل کا اس پر مطمئن ہو جانا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں پروردگار سے مدد مانگی جاتی ہے کیونکہ اس کی مدد کے بغیر نہ اس کا ذکر آسان رہتا ہے نہ اس کے شکر کی توفیق ملتی ہے، نہ اسکی عبادت کی ہمت نصیب ہوتی ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے کہ:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ قَدْ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(پ 9 اعراف 128)

ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور عاقبت اہل تقویٰ کیلئے ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے رہنا چاہئے۔

مزید یوں بھی فرمایا گیا ہے کہ:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

(پ 1 بقرہ 45)

ترجمہ: صبر اور نماز سے مدد کا ذریعہ اختیار کرو بے شک نماز گراں ہے لیکن اللہ سے خشیت رکھنے والوں پر گراں نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ۝ (پ 2 بقرہ 153)

ترجمہ: اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس اسم سے تخلق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ جملہ امور دنیوی و دینی مادی و روحی اللہ تعالیٰ ہی کی جناب سے استعانت حاصل کریں۔

السَّارِفِیُّ

يَا رَفِيعُ (اے رفعت والے) ☆ اعداد: 360 - تاثیر: جمالی

رَفِيعُ کا لفظ رفعت سے ہے جس کا مطلب بلندی والا ہے۔ یہ لفظ بروزن فعیل ہے۔ اس لئے یہ لفظ فاعل اور مفعول یعنی دونوں کیلئے استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلندیوں کا مالک ہے اور دنیا میں جس کو بلندی ملتی ہے اسی کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اس لئے وہ رفیع ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات میں استعمال ہوا ہے۔

سورت مجادلہ میں اہل ایمان کی رفعت کا ذکر کرتے ہوئے آیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بلند کرتا ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (پ ۲۸ مجادلہ ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے درجات کو بلند فرمادے گا

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ (پ ۱۳ اعراف ۲)

اللہ تعالیٰ رفیع ہے کہ جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے۔

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (انعام)

اللہ تعالیٰ رفیع ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنی جانب بلند فرما

لیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رفیع ہے۔

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۗ (پ 24 مومن 15)

ترجمہ: بلند درجات والا عرش پر جلوہ افروز ہونے والا اپنے بندوں میں
سے اپنے حکم کے مطابق جنہیں چاہتا وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات یعنی
قیامت کے دن سے ڈرائے۔

اللہ تعالیٰ رفیع ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و محامد کو
رفعت و برتری عطا کی کہ ہر ایک اذان و تکبیر میں صبح و مساحضور کا ذکر بھی کیا جاتا ہے
جبکہ کلمہ توحید کا ذکر ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (انشراح) اے محبوب ہم نے آپ
کے ذکر کو بلند فرمایا

جو شخص بارگاہ رب العزت میں رفعت چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہئے
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہئے۔

الْكَافِي

يَا كَافِي (اے کفایت کرنے والے)

اعداد: 111 ---- تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے۔ کفایت کمی کو پورا کر دینے کیلئے استعمال ہوتا
ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار عالم اسباب پر ہے۔ ان اسباب میں کمی یا زیادتی ہوتی
رہتی ہے۔ زندگی کے اسباب کم ہونے کی صورت میں گزر اوقات مشکل ہو جاتی ہے

مگر اللہ کی ذات ہر انسان کی کمی پورا کر دیتی ہے۔ ظاہری حالات خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو جائیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا انسان کیلئے کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میرے ذرائع معاش تو بہت کم ہیں تو پھر میری گزر اوقات کیسے ہوگی؟ اسباب کیسے پیدا ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کی بنا پر کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے جس سے اس کی کفایت ہونے لگتی ہے اس لحاظ سے وہ کافی ہے۔

بعض علماء کا کہنا ہے اسم کافی کا ماخذ یہ آیت ہے:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ
يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۴ (پ 24 زمر 36)

ترجمہ: کیا اللہ اپنے بندوں کیلئے کافی نہیں ہے اور وہ اللہ کے سوا تمہیں غیر خداؤں سے ڈراتے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر نہ رہے تو اسے کوئی اور ہدایت کرنے والا نہیں۔

قرآن مجید میں کافی کیلئے لفظ کنفی بھی آیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت اور کارسازی مکلفی یعنی وافر ہے۔

جن آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا (پ 5 نساء 70)

ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افضل ہے اور اللہ علیم ہے کافی ہے۔

وَ اَرْسَلْنَاكَ لِلنّٰسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا (پ 5 نساء 79)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو لوگوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا ط (پ نساء 166)

ترجمہ: اللہ اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ پر نازل کی ہے گواہی دیتا ہے کہ اس کے نازل ہونے سے علم دیا گیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ط إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا (پ 15 بنی اسرائیل 96)

ترجمہ: فرمادیتے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (پ 22 احزاب 39)

ترجمہ: اور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَى بِهِ وَكِيلًا (پ 22 احزاب 48)

ترجمہ: اور اللہ پر توکل کرتے جاؤ اور اللہ کا رسازی کیلئے کافی ہے۔

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ط وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(پ 26 احقاف 8)

ترجمہ: میرے اور تمہارے درمیان وہ بحیثیت گواہ کافی ہے اور وہ غفور ہے رحیم ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لِرَحْمَةٍ وَذِكْرٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ء (پ 21 عنکبوت 51)

ترجمہ: کیا ان کیلئے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب کا نزول فرمایا ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں مومنوں کی قوم کیلئے رحمت اور نصیحت ہے۔

إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (پ 14 حجر 95-96)

ترجمہ: ہم آپ کو مذاق کرنے والوں سے بچانے کیلئے کافی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔

اس آیت میں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی کافر سے خائف نہ ہوں۔ آپ پر جو زبان طعن دراز کرے گا جو گستاخی کی جرأت کرے گا اور جو مذاق کرے گا ہم خود ان کو سنبھال لیں گے۔ ان کا شر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہتان اور افتراء کا طوفان برپا کرنے والے اسلام کو ختم کرنے کیلئے اپنی پوری کوششیں داؤ پر لگانے والے یا تو حلقہ بگوش اسلام ہو کر پروانہ وار اس پر نثار ہونے لگے یا انہیں ایسی رسوائی اور ذلت سے دوچار کر دیا گیا کہ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ کے یہ پانچ رئیس ہیں جو اسلام کی مخالفت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلازاری میں سب سے پیش پیش تھے۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، ابو ضمع اسود بن عبد یغوث اور حارث ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت سے ہلاک کیا۔

ایک اور مقام پر یہود و نصاریٰ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح کے آپ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو اس سے اے محبوب فکر نہ کریں آپ کیلئے اللہ کافی ہے۔

ارشاد ہے کہ:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ە ط

(پ 1 بقرہ 137)

ترجمہ: پھر اگر وہ بھی آپ کی مثل ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پانے والے ہو گئے اور اگر وہ پھر جائیں تو وہ ضد میں پڑھ گئے پس اے محبوب اللہ تمہارے لئے کافی ہے اور وہ سننے والا علم والا ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

(پ 21 احزاب 25)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں قتال قوت کافی کر دی اور اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔

اس آیت کی وضاحت میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کرنے مکہ تشریف لائے کوہ تنعیم کے دامن میں مصروف نماز تھے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ وہ سب کے سب گرفتار کر لئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ازراہ احسان و الطاف رہا فرما دیا۔ ان کی جان بخشی ان کے قبائل میں تحریک اسلام بن گئی۔ نہ جنگ ہوئی نہ لڑائی اور دین الہی نے ترقی بھی حاصل کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کفایت کا نتیجہ تھا۔

اسی موقع پر اہل قریش نے جنگ و قتال کا رادہ کر لیا۔ مسلمان نہ جنگ کیلئے آئے تھے نہ مسلح ہی تھے۔ آخر سفارتانہ تدابیر میں اتنی کامیابی ہوئی کہ جنگ رک گئی۔ قریش کے ساتھ مساویانہ حقوق پر معاہدہ ہو گیا۔ اب پہلا موقع تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت و قوم کے تسلیم کیا تھا۔ اس کامیابی کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کفایت تھی۔

اسماء الحسنیٰ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ تمام مخلوق اولین و آخرین کا حساب الگ الگ ہر شخص اور پھر ایک ہی وقت کے اندر ایسی آسانی سے لے لے گا جیسا کہ ہر شخص کو اپنی حکمت سے الگ الگ ہر ایک کو ایک ہی وقت کے اندر رزق بھی

پہنچاتا رہتا ہے۔ وکفی بنا حاسبین فرمانا اس کو شایان ہے۔

اہل توحید اللہ تعالیٰ کی ولایت کو سب کی محبت و امداد سے زیادہ کافی سمجھا کرتے ہیں۔ اہل توکل اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا وکیل بنانا جملہ تدابیر سے کفایت کنندہ سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے علم و بصر اور اطلاع و خبر کو اعمال صالحہ کی بجا آوری کیلئے یا افعال قبیحہ سے پہلو تہی کیلئے کافی وافی سمجھ کر دنیا کی جھوٹی رازداری یا ریاکاری سے بچے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کافی ہے اس نے ہماری ہدایت کیلئے ازراہ رحمت و مرحمت وہ کتاب نازل فرمادی ہے جو جملہ معجزات مادی اور عجوبات حسی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ جملہ علوم سے مستغنی کرنے والی اور انسان کو عقل و دماغ اور قلب و روح کی مقتضیات کیلئے کفایت کرنے والی ہے۔ اس کتاب پر تدبر کرنے والے نہ کسی معجزہ کے طالب رہ سکتے ہیں اور نہ دلیل برہان خارجی کے سائل بن سکتے ہیں۔ رب کافی کی ہی کتاب اہل شریعت کیلئے کافی ہے۔

ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مکاتب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور زرفدیہ میں امداد کا خواہاں ہوا۔ فرمایا: میں تجھے چند کلمات سکھلا دیتا ہوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے اگر تجھ پر فلاں پہاڑ (یمن کے کوہ صیر کا نام لیا) کے برابر بھی قرض ہوگا تو اثر جائے گا۔ وہ یہ ہیں:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ
سِوَاكَ۔

الْغَالِبُ

يَا غَالِبُ (اے غلبے والے) ☆ اعداد: 1033 ☆ تاثیر: جلالی
غالب کا عام مطلب زبردست قوت والا، زور آور، جیتنے والا اور مغلوم کرنے
والا ہوتا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق گردن پکڑ کر غلبہ حاصل کر لینے والے کو غالب
کہا جاتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ گردن پکڑ لینے والا ضرور دوسرے پر قابو یافتہ اور مستولی ہوگا اور
جس کی گردن پکڑ لی گئی ہے وہ ضرور قابو زدہ اور مقہور ہوگا۔ لہذا قوت و طاقت اور
استیلا کے معنی میں لفظ غلبہ کا استعمال ہو گیا۔

کاتب الجوائز میں لکھا ہے کہ غالب اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنی مخلوق پر اپنے
ارادے کو پورا کرنے کی پوری پوری طاقت رکھتی ہے۔ خواہ وہ اس میں خوش ہوں یا
ناخوش ہوں۔ وہ اسے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت
اور عظمت حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنا قادر اور ایسا حکیم ہے کہ نہ تو اس پر غلبہ
پایا جاسکتا ہے اور نہ اسے دھوکہ اور فریب دیا جاسکتا ہے۔ لہذا غلبے کا اصل حقدار اللہ
تعالیٰ ہی ہے۔ اس لحاظ سے وہ غالب ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر مکمل طور پر غالب ہے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(پ 12 یوسف 21)

ترجمہ: اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں
جانتے۔

قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان

کے بھائی کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے تو بعد ازاں وہاں ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے اور وہاں پر آپ کو فروخت کر دیا۔ آخر عزیز مصر نے خرید کر انہیں اپنے گھر رکھ لیا پھر آپ کو کچھ عرصہ زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو پھر عزیز مصر کی قربت حاصل ہوئی اور آخر کار آپ کے پاس مصر کی بادشاہت آ گئی۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر غالب رہا جس کے بارے میں مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ یوم بدر کے موقع پر کفار مکہ لشکر لے کر سامنے آئے تو انہیں اپنی طاقت پر بڑا تکبر تھا اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج کے دن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تو انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ مسلمانوں کا غالب ہونا تائید خداوندی تھی اور خدائے واحد نے اپنے غالب ہونے کا ثبوت دیا جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ (پ 10 انفال 48)

ترجمہ: اور جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھائے اور کہنے لگا کہ آج لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بے شک تم میری پناہ میں ہو۔

چند آیات میں غالبوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غلبہ دینے والا ہے درحقیقت وہی غالب ہے۔ سورت مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مددگار بنا لیا تو وہ اللہ کے حزب سے ہو گئے اور اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

(پ 6 مائدہ 56)

ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ اللہ کے گروہ سے ہو گیا جو غالب ہے۔

سورت انبیاء میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا متاع اور سہولتیں دیں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کریں مگر وہ سرکش ہو گئے اور انہوں نے اطاعت والی راہ چھوڑ دی۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی تقدیر اور ضابطوں پر غالب نہ ہو سکتے تھے اس لئے انہیں تسلیم کر لینا چاہئے تھا کہ اللہ ہی غالب ہے اور اسی کا غلبہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط اَفَلَا يَرَوْنَ
اَنَا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

(پ 17 انبیاء 44)

ترجمہ: بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو بہت نفع بخش سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں کیا پھر بھی وہ غالب آنے والے ہیں۔

سورت قصص میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے اللہ میرا کوئی ساتھی بنا دے تاکہ ہم فرعون کے دربار میں غالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو آپ کا ساتھی بنا دیا اور باخبر کیا کہ تم ہماری نشانیوں کے باعث فرعون پر غالب رہو گے۔

وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمْ اَبَايْنَا اَنْتُمْ وَمَنْ

اتَّبِعْكُمْ الْغَلْبُونَ (پ 20 قصص 35)

ترجمہ: اور تم دونوں کو فوقیت دے دیں گے کہ وہ تم دونوں کو نقصان نہ دے سکیں گے ہماری نشانیوں کی بنا پر تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب ہو جائیں گے۔

سورت صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو بالآخر غالب کر دیا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۙ (پ 23 صفات 172-174)

ترجمہ: ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے، پس آپ ایک مقررہ مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹائیں۔

غلبہ روم کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۙ

(پ 21 روم 2-3)

ترجمہ: اہل روم اپنے قریب کی زمین میں مغلوب ہوئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیات سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اللہ

تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور اگر مسلمانوں نے دوسروں پر غالب رہنا ہے تو پھر

اسی کی اطاعت کریں تو وہ انہیں دوسروں کو مغلوب رکھنے کی توفیق عطا فرما دے

گا۔

الْمَنَانُ

يَا مَنَانُ (اے احسان کرنے والے)

اعداد: 141 ☆ تاثیر: جمالی

منان کا لفظ من سے ہے جس کے معنی احسان کے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ لفظ منت سے ہے اس کا مطلب بھی احسان عظیم ہوتا ہے۔ احسان ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر طرح کی مہربانی شامل ہے۔ انسانی زندگی کا پورا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے احسانات سے وابستہ ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کی مہربانیاں دن رات جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اس لئے اسے منان کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ منان ہے کہ اس کے عظیم احسانات پوری مخلوق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ منان ہے کہ پوری مخلوق اس کے احسانات کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ منان ہے کہ اس نے پوری مخلوق میں سے اپنے بندوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ منان ہے کہ اس نے دنیا کی ہدایت اور رہبری کیلئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اگرچہ اس نے لوگوں میں دوسروں پر احسان کرنے کا جذبہ دے رکھا ہے مگر یہ اسی کی عطا اور توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ احسانات کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ

اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (ب 13 ابراہیم 11)

ترجمہ: ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ بے شک ہم انسانیت کے اعتبار سے تمہاری مثل بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں جن پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئیں اور مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے فرمایا کہ ہم کب انکار کرتے ہیں کہ ہم بشر نہیں ہیں اور ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتے ہیں۔ ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں لیکن جو فضائل و کمالات اور جو قوتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں ان سے تم بے بہرہ ہو۔

کفار انبیاء کرام کی ظاہری بشریت سے فریب کھا گئے اور ان کی نگاہیں شان نبوت کو پہچاننے سے قاصر رہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ نے ان لوگوں کے شکوک و شبہات کو بیان کر کے اپنے حکیمانہ انداز میں ان کا ازالہ فرمایا ہے

گفت اینک ما بشر ایشاں بشر

ما و ایشاں بستہ خوانیم و خور

یعنی کفار نے کہا ہم بھی انسان ہیں اور انبیاء بھی انسان ہیں، ہم بھی سوتے ہیں

اور کھاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح۔

ایں ندا نستند ایشاں ازعما

ہست فرق درمیاں بے انتہا

ان اندھوں نے یہ نہ جانا کہ ان کے درمیان اور انبیاء کے درمیان تو بے انتہا

فرق ہے

ہر دو یک گل خورد زنبور و نحل

زاں یکے شدنیش زاں دیگر عسل

ویسے تو زنبور اور شہد کی مکھی ایک پھول سے ہی خوراک حاصل کرتی ہیں لیکن وہاں ڈنک نمودار ہوتا اور یہاں شہد ۔

ہر دو گوں آہو گیہا خوردند و آب

زیں یکے سرگیں شدوزاں مشک ناب

دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں لیکن ایک سے صرف لید نکلتی ہے اور دوسرے سے خالص کستوری۔

اس آیت میں یَمُنُّ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت

منان ہے۔

ایک اور آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے

اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یوں ذکر کرتے ہیں:

قَالُوا يَا اِنَّكَ لَآ اَنْتَ يُوْسُفُ ط قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ زَقَدْ مَنَّ

اللّٰهُ عَلَيْنَا ط اِنَّهُ مَنَّ يَتَّقِيْ وَيَصْبِرُ (پ 13 یوسف 90)

ترجمہ: کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا

کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر

احسان کیا ہے بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔

اس آیت میں من کے لفظ سے مراد احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت منان کی

طرف اشارہ کرتا ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت مَنَّان کا یوں اظہار ہوا ہے:

يَمْنُوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ

يَمْنٌ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(پ 26 حجرات 17)

ترجمہ: اے محبوب کہ وہ مسلمان ہونے کا احسان جتلاتے ہیں۔ آپ

فرمائیے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کیلئے ہدایت عطا فرمادی ہے اگر تم سچے ہو۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عرب کے بعض باد یہ نشین قبائل اسلام قبول کرتے اور پھر آ کر احسان جتلاتے کہ دیکھو ہم نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے اور آپ کا دین قبول کر لیا ہے۔ ہم نے غیر مسلم قبائل سے اپنے دیرینہ تعلقات آپ کی خاطر توڑ لئے ہیں۔ ہمیں اناج کی ضرورت ہے وہ دو۔ ہمارے پاس سواری کیلئے جانور نہیں ہیں وہ مہیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا بلکہ یہ تو تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اگر وہ تمہیں قبول حق کی توفیق نہ بخشا تو تم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہی رہتے۔ کفر پر مرتے اور جہنم رسید ہوتے۔ احسان نہ جتلاؤ بلکہ اپنے رب کے اس فضل و کرم پر سجدہ ہائے شکر بجالاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت منان کی بنا پر مومنوں پر احسان کرتے ہوئے ایک آیت میں یوں بیان فرمایا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (پ 4 آل عمران 164)

ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔

ایک اور آیت میں صفت منان کا یوں ذکر ہوا ہے:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (پ 5 نساء 94)

ترجمہ: تم بھی پہلے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے بعد میں اسلام لا کر
مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا بے شک اللہ اس چیز سے
باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

اس آیت کی مفسرین نے یوں شرح کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا۔ کفار کو جب لشکر اسلام کی آمد
کی خبر ملی تو وہ بھاگ گئے لیکن مرد اس نامی ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا وہ اپنے مال
مویشی کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس نے بھی
جواب میں اللہ اکبر کہا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور انہیں السلام علیکم کہا
لیکن صحابہ میں ایک صحابی نے اس کی پروا نہ کی اسے قتل کر دیا اور اس کا ریوڑ ہانک کر
مدینہ طیبہ لے آئے اور بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت سابقہ میں
مسلمانوں کو حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اس
آیت میں حالت جنگ میں بھی بلاوجہ قتل و غارت سے روک دیا۔ جب تک تمہیں
یقین نہ ہو جائے کہ یہ محارب کافر ہے اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ اور اگر کوئی عین اس
وقت بھی اظہار اسلام کرے تو مالِ غنیمت کے حصول کیلئے اس کی شہادت رد نہ کر دو۔
اس فنا پذیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت ایمان رد کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم
ہونا چاہئے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر تم اس کے حکم کی تعمیل
کرو گے تو وہ دوسرے ذریعہ سے تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔

الغرض مندرجہ بالا تمام آیات سے اللہ تعالیٰ کی صفت منان کا اظہار ہوتا ہے۔

الْبُرْهَانُ

يَا بُرْهَانَ (اے روشن اور واضح)

اعداد: 258 ☆ تاثیر: جمالی

برہان سے مراد روشن اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کارخانہ حیات کا مالک اور خالق ہے۔ اسی نے انسانی زندگی کو وجود بخشا ہے۔ اس کی تمام تخلیقات ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ یہ دنیا کا نظام اسی ذات اقدس کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ دن رات اسی نے پیدا کئے ہیں۔ نظام فطرت یعنی سورج، چاند، ستارے اور ارض و سماء اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق رواں دواں ہے جس طرح اس نے نظام قائم کر دیا ہے قیامت تک یہ کارخانہ حیات اسی کے حکم کے مطابق سرانجام پاتا رہے گا۔ یہ دنیا کا نظام جس حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے یہ اس کے ہونے کی قوی دلیل ہے جو انسانوں کیلئے برہان ہے۔ علماء لغت کا کہنا ہے کہ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو تمام دلائل میں زوردار ہو۔ ہمیشہ اور ہر حال میں سچائی پر مبنی ہو۔ قرآن مجید میں کچھ مقامات پر برہان کا لفظ استعمال ہوا اور اسی نسبت برہان کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا گیا۔ برہان کے بارے میں آیات قرآن کی وضاحت حسب ذیل ہے:

یہود و نصاریٰ کو جب دین حق کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی حق کی راہ پر ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر واضح برہان پیش کریں تاکہ اس برہان یعنی قوی دلیل اور ثبوت کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ وہ سچے ہیں مگر اصل برہان تو اللہ کے پاس ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو کیسے سچا ثابت کر سکتے تھے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي ط تِلْكَ
 أَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (پ 1 بقرہ 111)
 اہل کتاب نے کہا کہ یہود و نصاریٰ کے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے
 گا یہ ان کے باطل تصور ہیں اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو
 برہان یعنی دلیل پیش کرو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان ہوا کہ آپ کو اپنے رب کے
 برہان کا مشاہدہ ہوا جس کی بنا پر اللہ کی پناہ میں مدھے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا إِنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ط كَذَلِكَ
 لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ط إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ
 (پ 12 یوسف 24)

ترجمہ: اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا تھا اگر اس نے اپنے رب
 کی طرف سے دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اسی طریقہ
 سے ہم نے ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھا بے شک وہ ہمارے مخلص
 بندوں میں سے ہے۔

طلوع اسلام سے قبل لوگوں نے دوسروں کو الہ یعنی معبود بنا رکھا تھا۔ انہیں بتایا
 گیا کہ معبود صرف اللہ ہی ہے اور اسی کی عبادت کرو تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم
 سچے ہو تو برہان پیش کرو مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی تو اللہ نے کہا میرا قرآن
 برحق ہے پھر اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آؤ اس کے بارے میں ارشاد الہی یہ
 ہے کہ:

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ج هَذَا ذِكْرٌ مَنْ
 مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا الْحَقَّ فَهُمْ
 مُّعْرِضُونَ ○ (پ 17 انبیاء 24)

ترجمہ: کیا انہوں نے اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ آپ فرمادیتے ہیں اس پر کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ کتاب میرے موجودہ حالات اور مجھ سے پہلے کے حالات پر مبنی ہے۔ البتہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے پس وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔

اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ (پ 18 مومنون 117)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دے تو اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے پس ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے بلاشبہ کفر کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔

اس بات کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر برہان یعنی کوئی دلیل پیش کرو مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔

ءِ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(پ 20 نمل 64)

ترجمہ: کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے آپ فرمادیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے حق میں جواز پیش کرو۔

فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دو واضح دلیلیں پیش کی گئیں جو اللہ کی طرف سے برہان تھا مگر انہوں نے پھر حق کو تسلیم نہ کیا کیونکہ وہ نافرمان لوگ تھے۔

أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذُنُوبُكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ (پ 20 قصص 32)

ترجمہ: آپ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جائیں وہ بغیر کسی نقص کے سفید ہو کر نکلے گا اور خوف سے نجات کیلئے اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لینا پس یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے مشیروں کیلئے دو دلیلیں ہیں بے شک وہ فاسقوں کی قوم ہے۔

قیامت کے روز جب حساب لیا جائے گا تو ہر امت سے کسی شخص کو کہا جائے گا کہ اپنی سچائی کے بارے میں کوئی جواز پیش کرو۔ اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ (پ 20 قصص 75)

ترجمہ: اور ہر امت سے ایک گواہ نکال کر کہیں گے کہ اپنا جواز پیش کرو تو وہ جان لیں کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے اور ان سے ہر طرح کی افتراہیں دور ہو جائیں گی۔

السَّرِيعُ

يَا سَرِيعُ (اے جلدی کرنے والے)

اعداد: 340 ☆ تاثیر: جمالی

سریع کا مطلب جلدی کرنے والا ہے۔ یہ لفظ عام مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سریع الحساب اور سریع العقاب وارد ہوا ہے۔ حساب لینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں سرعت ہے۔ اسی نسبت سے السریع کو اس کی صفت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسب کا حساب کرنے میں اللہ تعالیٰ سرعت سے حساب کر دے گا۔

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

(پ 2 بقرہ 202)

ترجمہ: وہی لوگ ہیں ان کیلئے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کسب کیا اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اجر کے بارے میں حساب کرے گا تو وہ بھی جلد حساب لے گا۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ ۗ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

(پ 4 آل عمران 199)

ترجمہ: اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل ہوا اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں خشیت الہی ہے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں نہیں بیچتے۔ وہی لوگ ہیں کہ جن کیلئے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

حلال و حرام کے بارے میں بھی اللہ جلد حساب لے لے گا۔

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (پ 6 مائدہ 4)

ترجمہ: تو اس کو کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے روک رکھا اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ

لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ط وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ (پ 13 رعد 41)
ترجمہ: نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اطراف کی جانب سے کم کرتے چلے
آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی
نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

کسب کے حساب کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلد حساب لے
لے گا۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(پ 13 ابراہیم 51)

ترجمہ: تاکہ ہر ایک کو اس کے کئے کا بدلہ دے بے شک اللہ تعالیٰ کو
حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ (پ 24 مومن 17)

ترجمہ: آج ہر نفس اپنی کمائی کا بدلہ پائے گا آج کسی پر زیادتی نہ ہوگی
بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مُّبِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ط
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ط
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ (پ 18 نور 39)

ترجمہ: اور کفر کرنے والوں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی خشک
ویرانے میں سراب ہو اور پیاس والا اسے پانی سمجھ لے حتیٰ کہ جب وہ
اس کے پاس آئے تو وہاں کچھ بھی نہ پائے مگر اللہ کو وہاں موجود پائے تو
اس نے اس کا حساب پورا کر دیا اور اللہ جلد بہت جلد حساب کر لیتا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سریع الحساب ہے اور اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہ ہوگی۔

الْمُنْعِمُ

يَا مُنْعِمُ (اے نعمتیں دینے والے)

اعداد: 200 ☆ تاثیر: جمالی

منعم سے مراد نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ نعمت اس کو کہتے ہیں جو انسان کیلئے سہولت اور فرحت پیدا کرے۔ انسانی زندگی گزارنے کیلئے بے شمار ضروریات درکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی صورتوں میں پھیلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی انسانی سہولت کیلئے پیدا کر رکھی ہے اسے سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لئے اگر اللہ انسان کو اپنی نعمتوں سے نہ نوازتا تو اس کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا

بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج وَآيَاتِي فَارْهَبُونِ ۝ (پ 1 بقرہ 40)

ترجمہ: اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأِنِّي

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (پ 1 بقرہ 47)

ترجمہ: اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیں اور بے شک میں نے تمہیں ساری دنیا پر اس زمانے میں فضیلت دی

تھی۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰٓءِلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ (پ 1 بقرہ 122)

ترجمہ: اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی
ہے اور میں نے تمہیں اس دور میں تمام دنیا پر فضیلت دی تھی۔

وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِنَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَقَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلٰٓى اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شٰهِدًا ۝ (پ 5 نساء 72)

ترجمہ: اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو نکلنے میں دیر لگائے گا
پھر اگر کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا کہ یہ تو مجھ پر اللہ کا انعام تھا کہ میں
ان میں شامل نہ تھا۔

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلِيْهِمَا اذْخُلُوْا عَلَيْهِمْ
الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكُمُ غٰلِبُوْنَ ۝ وَ عَلٰى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (پ 6 مائدہ 23)

ترجمہ: اللہ سے ڈرنے والے انعام یافتہ دو شخص بولے کہ ان پر
دروازے کے راستے سے داخل ہو جاؤ پھر جب تم دروازے سے داخل
ہو جاؤ گے تو بے شک تم غالب رہو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن
ہو۔

اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ف

(پ 16 مریم 58)

انبیاء یعنی یہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جو آدم کی اولاد
سے ہیں۔

فَتَبَسَّمْ ضٰحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

(پ 19 نمل 19)

ترجمہ: تو چیونٹی کی اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرا دیئے اور کہا اے رب مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس نعمت کا شکر ادا کروں اور جو نعمت میرے ماں باپ کو دی ہے اس کا شکر بھی ادا کروں اور میں اس طرح کا صالح عمل کروں جس میں تیری رضا ہو اور مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لے۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۝

(پ 20 قصص 17)

ترجمہ: آپ نے کہا اے میرے رب جس طرح کا تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو اب میں کبھی جرم کرنے والوں کی حمایت نہ کروں گا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ط (پ 22 احزاب 37)

ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا تھا جسے اللہ نے نعمت عطا کی تھی اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر جا اور آپ اپنے دل میں وہ بات رکھے ہوئے تھے جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور آپ کو لوگوں کی باتوں کا خوف تھا اور اللہ کا حق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے۔

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ (پ 26 اتقان 15)

ترجمہ: تو اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی نعمت کا شکر کرنے
کی توفیق عطا کر دے۔ وہ نعمت جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی
ہے اور میں تیری رضا کے مطابق صالح عمل کروں اور میری اولاد کو
اصلاح پر قائم رکھ۔ بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلاشبہ
میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

الشَّافِي

يَا شَافِي (اے شفا دینے والے)

اعداد: 391 ☆ تاثیر: جمالی

الشفا فی کا مطلب شفا دینے والا ہے یعنی ہر قسم کی خرابی کو دور کرنا شفا میں شامل
ہے۔ انسان جسم اور روح پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا مگر
دنیا کے نظام میں بے احتیاطی اختیار کرنے سے انسانی جسم اور روح امراض میں مبتلا
ہو جاتا ہے جس سے انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے روزمرہ کے
معمولات معطل ہو جاتے ہیں اور اس کا شب و روز میں جینا محال ہو جاتا ہے۔ اس
لئے تندرست اور صحت یاب ہونا ضروری ہوتا ہے مگر تندرستی اور صحت یابی اللہ کے
اختیار میں ہے کیونکہ امراض سے وہی شفا دے سکتا ہے۔

امراض سے حصول شفا کیلئے اللہ تعالیٰ نے ادویات اور جڑی بوٹیوں کو ذریعہ
بنایا ہے مگر بعض اوقات ادویات استعمال کرنے سے بھی شفا حاصل نہیں تو اس سے

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے شفا دے دے یا ادویات کے ذریعے سے شفا ملے تو وہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہوگی۔ انسانی زندگی کے تین دور یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں بیمار ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے مگر زندگی کے کسی دور یا عمر میں بیماری آئے شفا من جانب اللہ ہی ہے کیونکہ جب انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تو بیماری نے بھی جنم لیا مگر اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی سے انسان کو حصول شفا کا علم بھی دیا ہے جسے حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ لہذا مرض کی شفا کا کچھ بھی ذریعہ بنے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ شافی المطلق ہے۔

جسمانی امراض کے علاوہ بہت سے امراض ایسے ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جن سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار توبہ ذکر کر کے اور نیک اعمال کے ذریعے روحانی امراض کا بھی علاج تجویز کر رکھا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کی راہ پر چلنا چاہے اسے برائیاں ترک کر کے قلبی شفا بھی مانگنی چاہئے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی امراض کو شفا دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کچھ آیات کا نزول فرمایا ہے جن کو حصول شفا کا ذریعہ قرار دیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی پیدا کردہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔

شفا کے بارے میں آیات قرآن حسب ذیل ہیں:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ

وَيَشْفِ ضُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (پ 10 توبہ 14)

ترجمہ: انہیں قتل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہی انہیں عذاب دے

گا اور انہیں پست کر دے گا اور ان پر تمہاری مدد کر دے گا اور مومن قوم کا

سینہ صحت مند کر دے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (پ 11 یوس 57)

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور
سینوں کی بیماریوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے جو اہل ایمان
کیلئے ہے۔

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (پ 14 نحل 69)

ترجمہ: پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر اپنے رب کے قائم کردہ راہ
پر چلتی ہے اس کے پیٹ میں مختلف رنگوں کا پینے والا شہد نکلتا ہے جس
میں لوگوں کیلئے شفا ہے۔ بے شک اس میں تفکر کرنے والی قوم کیلئے
نشانی ہے۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ (پ 15 اسر ایل 82)

ترجمہ: اور قرآن میں ہم نے وہ چیز اتاری ہے جو مومنوں کیلئے شفا اور
رحمت ہے اور ظلم کرنے والوں کیلئے اس قرآن سے خسارہ ہی بڑھتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝
(پ 19 شعرا 80)

ترجمہ: جب مجھ پر بیماری آتی ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے
موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ أَءَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ (پ 24 حم سجدہ 44)

ترجمہ: اور بالفرض اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ کیا کتاب عجمی ہو اور نبی عرب ہو آپ فرمائیے یہ قرآن اہل ایمان کیلئے ہدایت اور شفا ہے۔

الْعَالِمِ

يَا عَالِمُ (اے علم والے) ☆ اعداد: 141 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی ذات میں ازل سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر پہچانا گیا۔ تخلیق کائنات کا مقصد بھی یہی تھا کہ کائنات کو آگاہی حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے اور اسے بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات بھی پیدا کر رکھی ہیں اللہ ان سب سے باخبر ہے۔ کوئی مخلوق اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتی ملائکہ، جنات، انسان اور حیوان غرضیکہ جتنی قسم کی بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں کائنات میں جس قسم کا علم موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ اس کرہ ارضی میں جب سے انسان آباد ہوا اور جب تک یہ دنیا آباد رہے گی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو کے رہے گا۔

اللہ تعالیٰ عالم ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے جو ہم چھپاتے ہیں اسے جانتا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپائے رکھتا ہے جو جو قومیں اس دنیا میں آئیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور جو قومیں

اس وقت دنیا میں آباد ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ وہ کب تک آباد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک ہونے والے واقعات سے بھی آگاہی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی اچھائی اور برائی کو بھی جانتا ہے مگر اپنی رحمت کی بنا پر لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپے اور کھلے میں کرتے ہیں۔ اللہ ان نیک اعمال کو بھی جانتا ہے جو رات کے وقت سر بسجود ہو کر کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو ان کے آگے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آئندہ وقت میں کیا ہونا ہے جسے انسان نہیں جانتا۔

غیب کا عالم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو کب دوبارہ زندہ کرنا ہے غرضیکہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا مگر اللہ کے علم میں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی موت کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے مرے گا۔ غرضیکہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات حسب ذیل ہیں۔

إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ (پ 7 مائدہ 116)

ترجمہ: اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس کا تجھے علم ہوتا جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (پ 22 سبأ 48)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ بے شک میرا رب حق کے ساتھ باطل پر چوٹ لگاتا ہے تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

(پ 10 توبہ 78)

ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے خفیہ راز اور سرگوشیوں کو جانتا ہے اور بے شک اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔

قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (پ 7 مائدہ 109)

ترجمہ: تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو سب غیبوں کو جانتا ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (پ 29 جن 26)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے مگر وہ اپنے غیب کو ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ (پ 7 انعام 73)

ترجمہ: جس دن صور پھونکا جائے گا تو اسی کی حکومت ہوگی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر والا ہے۔

ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(پ 11 توبہ 94)

ترجمہ: پھر تم غیب جاننے والے اور حاضر رہنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے ہو۔

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ۝ (پ 11 توبہ 105)

ترجمہ: اور فرما دیجئے کہ عمل کرو تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب

اور ظاہر کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی تمہیں خبر کر دے گا۔

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ قُلْ رَبِّ اِمَّا
تُرِيْنِي مَا يُوعَدُوْنَ ۝ (پ 18 مومنوں 92-93)

ترجمہ: غیب کو جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے پس وہ ان کے شرک سے
بالا ہے آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب کہ اگر وہ عذاب جن کا ان
سے وعدہ ہے میری موجودگی میں آجائے۔

ذٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (پ 21 سجدہ 6)

وہی غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے عزت والا رحم والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّي لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ
عِلْمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى
الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝
(پ 22 سبأ 3)

ترجمہ: اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی آپ فرمادیں
میرے رب کی قسم وہ تم ہی پر آئے گی۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اس
سے نہ آسمانوں میں سے نہ زمین میں سے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس
سے کوئی بڑی چیز اور نہ ذرہ برابر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے مگر وہ سب کچھ
روشن کتاب میں موجود ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ
الصُّدُوْرِ (پ 22 فاطر 38)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا
ہے بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ (پ 24 زمر 46)

ترجمہ: فرمائیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب اور ظاہر کو جاننے والے تو ہی ان باتوں میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں ایک دوسرے کا اختلاف ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (پ 28 حشر 22)

ترجمہ: اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر غیب اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے وہی رحمان ہے رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پ 28 جمعہ 8)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو وہ ضرور تم پر وارد ہو کے رہے گی پھر تمہیں اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے جو اعمال تم کرتے ہو وہ ان سے تمہیں باخبر کر دے گا۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 28 تغابن 18)

ترجمہ: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے غلبے والا حکمت والا ہے۔

الشَّدِيدُ

يَا شَدِيدُ (اے شدت والے) ☆ اعداد: 318 - تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت شدید ہے جو شدت سے بنا ہے۔ شدید سے مراد سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو پکڑنے اور سزا دینے میں شدت سے کام لے گا یعنی اس کی پکڑ بڑی شدید ہوگی۔ اس نسبت سے علماء نے شدید کے لفظ کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شمار کیا ہے۔ قرآن مجید میں چند آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ شدید العقاب ہے۔ اس صفت کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ باخبر رہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت والی راہ اختیار نہ کی تو اس کی پکڑ انتہائی شدید ہوگی کیونکہ بعض انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے بغاوت اور سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں جس کی بنا پر انہیں سخت سزا دینا لازم ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے اگر لوگ اس کی نافرمانیاں کریں گے، اس کی زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے غرضیکہ نافرمانیوں میں جب حد سے گزر جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ اس لحاظ سے اللہ بہت شدید العقاب ہے۔

سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلَكُمُ اتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ مُّبِينَةٍ ط وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 2 بقرہ 211)

ترجمہ: آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح دلیلیں دی اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو مل جانے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔

كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 3 آل عمران 11)
ترجمہ: جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں
نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث
انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 6 مائدہ 2)
ترجمہ: اور نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو
اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ط

(پ 7 مائدہ 98)

ترجمہ: جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک
اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ج وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 9 انفال 13)

ترجمہ: یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ شدید
عذاب دینے والا ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ح وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 9 انفال 25)

ترجمہ: اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو تم میں سے نہ صرف انہیں پہنچے گا
جنہوں نے تم میں سے خاص کر ظلم کیا ہے اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب
دینے والا ہے۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ج فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئْتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقْبِيهِ
وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ط
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (پ 10 انفال 48)

ترجمہ: اور جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھائے
اور کہنے لگا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بے
شک تم میری پناہ میں ہو پس جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ
الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں بے شک میں تو
ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں
اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔

كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ لَا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

(پ 10 انفال 52)

ترجمہ: ان کی حالت ایسی ہے جیسی کہ ان سے پہلے آل فرعون اور ان
سے پہلے لوگوں کی تھی۔ انہوں نے آیات الہی کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے
انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا بے شک اللہ قوت کے ساتھ
شدید عذاب والا ہے۔

الْحَيَّانُ

يَا حَيَّانُ (مہربانی کرنے والا) ☆ اعداد: 109 - تاثیر: جمالی

حنان کا لفظ حن سے ہے جس کا مطلب بے حد رحمت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، ان کیلئے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کیلئے رزق کا بندوبست کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان پر احسانات کے دروازے کھولتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ حنان ہے۔

حنان کا لفظ حدیث میں منان کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے کرہ ارضی میں آباد کیا اور زندگی کے اسباب بنا دیئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت حنان کی بنا پر ہی شب و روز اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کر رہا ہے۔ انسان کے فائدے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل اور خزانے بنائے جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی عطا فرمایا ہے جس کی بنا پر وہ دنیا میں بے پناہ فائدے اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خشکی سمندر، دریا، ندی، نالے، آبشاریں، کوہسار اور معدنیات بنا کر انسان کو بے حد نفع پہنچایا ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر شب و روز شفقت کر رہا ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے اور اس سے صحت کی التجا کرتا ہے تو اسے صحت عطا فرمادیتا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی صفت حنان بڑی وسعت والی ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ اس کے احسانات اور مہربانیوں کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی زندگی اس کی اطاعت اور عبادت گزاری میں گزارے۔

الْمُعْطَى

يَا مُعْطَى (اے عطا کرنے والے)

اعداد: 129 ☆ تاثیر: جمالی

اللہ تعالیٰ معطی ہے کہ اس نے دنیا کو ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عطا انعام جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو جو کچھ عطا فرماتا ہے خوشی سے دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عطیے مہربانی کے طور پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رات دن اس کے بندے مانگ رہے ہیں وہ عطا کئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطیے دنیا و آخرت میں لامحدود ہیں اور ایسے عطیے ہیں جن کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا غرضیکہ اللہ کا کام مخلوق کو ہر وقت دینا ہی دینا ہے۔ اس لئے اسے معطی کہا جاتا ہے۔

قرآن میں معطی کا لفظ بظاہر استعمال نہیں ہوا مگر بعض آیات ایسی ہیں جن میں اعطیٰ اور عطاء کے الفاظ بطور مصدر و فعل آئے ہیں جن سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اصل عطا کندہ پروردگار ہی ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اسی لئے اس صفت کو صفات الہیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ (إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ) بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی چونکہ کوثر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے اللہ معطی ہے۔ کوثر کا عطیہ ایک بے مثال اور انعام عظیم ہے۔

قرآن مجید میں دیگر جن مقامات پر عطا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (پ 16 ط 50)

ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے

ہر چیز کو موزوں صورت عطا کی ہے پھر اسے ہدایت دے دی ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۗ وَءَاعْطَى قَلِيلًا ۗ وَأَكْثَى ۗ

(پ 27 نجم آیت 33-34)

ترجمہ: تو کیا آپ نے دیکھا جو پھر گیا ہے اور تھوڑا سا مال دیا پھر اسے روک لیا۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (پ 30 لیل 5)

ترجمہ: پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقویٰ اختیار کیا۔

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

(پ 10 توبہ 58)

ترجمہ: پس اگر انہیں دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں اور اگر انہیں سے کسی کو نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔

ان آیات میں چونکہ اعطی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد دینا ہے اور

اصل عطاء اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس لئے وہی معطی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا شمار حد سے باہر ہے

اس لئے حقیقی معطی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معطی وہ ہے جو چاہتا

ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں فرمایا (لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى

وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعَ) ”جو کچھ اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور

جسے اللہ تعالیٰ روکنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔“ بندہ جب جان لیتا ہے کہ

خدائے تعالیٰ ہی دینے والا اور روکنے والا ہے تو وہ اس کی عطا کا امیدوار بن جاتا ہے

اور اس کے روک لینے کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس اسم سے موصوف ہونے کا

معنی یہ ہے کہ صالحین و مستحقین کو عطا کرے اور فاسق اور ظالم لوگوں سے اپنی عطا

روک کر رکھے یا دل اور روح کو حضور و طاعت کے انوار سے حصہ عطا کرے اور نفس و طبیعت کو ہوا و شہوت سے روک کر رکھے۔

الْجَمِيلُ

يَا جَمِيلُ (اے سب سے زیادہ حُسن والے)

اعداد: 83 ☆ تاثیر: جمالی

جمیل سے مراد حُسن ازلی ہے جو ازل سے حُسن ہے اور ابد تک حُسن رہے گا۔ حُسن سے مراد عام طور پر خوبصورتی لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ زمان و مکان اور جسم سے منزہ ہے اس کا حُسن اس کی ذات ہی میں ہے۔ اس حُسن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بعض چیزوں کے وجود کو عطا کر کے ظاہر کیا ہے جیسا کہ روشنی سورج کی بھی ہے مگر اس میں تلخی ہوتی ہے ایسے ہی روشنی چاند اور ستاروں کی بھی ہے مگر چاند کی روشنی میں حُسن کی ایک عجیب کشش ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی آسمان ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے اور اس کے نیلگوں ہونے میں حُسن اور کیف کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ کوہساروں کے سبزہ میں بھی فطرت نے ایک حُسن چھپا رکھا ہے جو انسان کی آنکھوں کو دلکشی دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں بعض خطوں اور وادیوں کو بڑا حُسن بنایا ہے اور ان وادیوں کا حُسن انتہائی پر کیف اور نظارے پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو انتہائی حُسن بنایا ہے۔ وہاں کی بہتی نہروں، دلکش باغوں اور پرکشش نظاروں کو حُسن اسی نے عطا فرمایا ہے۔

انسانوں کو بھی اس نے حُسن کے عطیہ سے نوازا ہے بعض لوگ حُسن ہوتے ہیں ان کے چہروں پر کشش ہوتی ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حُسن کی جھلک کو اپنی

فطرت میں ظاہر فرمایا ہے مگر اس کا حُسن کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ اس نے اپنے جمال کے نظارے نادر موتیوں کی طرح بکھیرے ہوئے ہیں جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ وہ ذات بے پناہ جمیل ہے اور اس نے اپنے جمال کو ظاہر فرمایا ہے اور پھر اسی جمال کو خود پسند فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جمیل و سبح الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔

الْفَرْدُ

يَا فَرْدُ (اے یکتا و یگانہ) ☆ اعداد: 384 ☆ تاثیر: جلالی

اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا اور یگانہ ہے۔ اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا وہ ہر لحاظ سے احد ہے۔ اس کی ذات میں کوئی دوسری چیز شریک اور شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اسے فرد کہا جاتا ہے غرضیکہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہر لحاظ سے مفرد اور واحد ہے۔ عقل اس کی فردیت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صرف اسی کیلئے ہے۔ فرد کا لفظ اگرچہ لوگ ایک شخص کیلئے استعمال کر لیتے ہیں مگر وہ فردیت فانی ہے چونکہ انسان فانی ہے اس لئے جب بھی یہ لفظ انسان کیلئے فرد واحد کے طور پر استعمال ہوگا اس سے مراد صرف انسان ہوگا جو فانی ہے۔

اہل معرفت کا کہنا ہے کہ فردیت کا تعلق الوہیت سے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو پاتے ہیں انہیں پر اللہ کی صفت فرد کے اسرار کھلتے ہیں لہذا جو شخص حقیقت اور معرفت کو پاتا ہے وہی فرد کی حقیقت کو پالیتا ہے۔

الْوَتْرُ

يَاوَتْرُ (يگانہ) ☆ اعداد: 606 ☆ تاثیر: جلالی

وتر سے مراد ایک یعنی یگانہ ہے۔ وہ ذات واحدہ لاشریک اپنی صفات میں یگانہ ہے اور اس کا وتر ہونا طاق اور جفت سے پاک ہے۔ گویا کہ وہ وتر ایسا وتر ہے کہ جس کے ایک ہونے سے پہلے کوئی ایک نہ تھا اور نہ کوئی ہوگا اس کی ظاہریت اور باطنیت میں یگانیت ہے۔ اس لئے اسے وتر کہا جاتا ہے۔ اہل عرفان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یگانیت کا تعلق اس کی احدیت و واحدیت سے ہے گویا کہ جس بندے نے اسی کی یگانیت کے اسرار کو پایا انہیں ہی مقام احدیت و واحدیت کی حقیقت و معرفت کا علم ہوتا ہے۔

ایک قول کے مطابق وتر اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے اور یہ اس ذات کیلئے ہی مختص ہے اور اسی کی ذات وتر کہلانے کے لائق ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اسے مقام غناہ تک رسائی ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کی یگانیت میں خود کو فنا کرے۔

اسماء الحسنیٰ

اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جبکہ باقی اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہیں۔ اس لئے انہیں صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ 9 اعراف 180)

ترجمہ: اور اچھے نام اللہ ہی کیلئے ہیں پس ان ناموں سے پکارو اور جو اس کے ناموں میں بے اعتنائی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ پالیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اس لئے اسے انہیں ناموں سے یاد کیا جائے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (پ 16 طہ 8)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سب نام اچھے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ط يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ء

(پ 28 حشر 24)

ترجمہ: وہی اللہ سب کا خالق ہے ہر چیز کو بنا کر اسے صورت دینے والا ہے۔

سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی غلبے والا ہے حکمت والا ہے۔

سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے کہ:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

(پ 15 بنی اسرائیل 110)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو غرضیکہ

تم جس طرح بھی پکارو گے یہ سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ التجا

کرنا چاہے تو پہلے اسے صفاتی ناموں کے ذریعے سے پکارے تاکہ اللہ تعالیٰ کی

حمد و ثناء اور تسبیح انہی اسماء کے ذریعے سے ہو۔ ذکر الہی سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ

تعالیٰ کو اس کے ذاتی یا صفاتی ناموں کا ذکر کیا جائے کیونکہ جس طرح کی صفت سے

انسان اسے پکارے گا اسی طرح کا انعام اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنیٰ کہا گیا ہے جس کے معنی

بہترین اور خوب ترین ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ کو حسنیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

ان ناموں کے جس پہلو کو دیکھا جائے ان میں سراپا عمدگی اور حسن نظر آتا ہے۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خوبصورتی اور حسن و جمال ہے۔ اس کے بارے میں

امام فخر الدین رازی نے تین وجوہات بیان کی ہیں:

1- سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ، سب سے

بلند، تمام صفات سے موصوف اور تمام نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ تو جو

ذات ایسی ہو کہ ہمہ صفت موصوف ہو اس کے اسماء بھی ہمہ صفت موصوف ہوں

گے کیونکہ ذات اسماء ہی کے ذریعہ مشخص و متصف ہوتی ہے۔

2- اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں۔

وحدانیت، جلال و عزت، احسان، تخلیق ربانی، رحم و کرم اور اپنی ذات کا کسی کے مشابہ نہ ہونا اور جب انسان خدا کو ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ تمام صفات اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتی ہیں اور اس کا ایک ایک رونگٹا اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو رحمن بھی ہے، واحد بھی ہے، خالق بھی ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔

3- ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا اظہار فرمایا ہے جن میں اس کا کوئی شریک نہیں جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ نہ خلقت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ علم میں۔

اور جن اسماء میں یہ صفات پائی جائیں وہ بدرجہ اولیٰ حُسن و جمال سے متصف ہوں گے اور چونکہ خدا تعالیٰ نے ان اسماء کے ساتھ اپنے آپ کو پکارنے اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اسمائے حسنیٰ سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد کیا ہے اس کے بار میں اللہ تعالیٰ کو خود ہی علم ہے مگر جو بات اس نے عیاں کی ہے و تعداد قرآن و حدیث سے کچھ اسماء کی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تلاش کیا جائے تو بہت سے اسماء سامنے آتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔

احادیث کو دیکھا جائے تو ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں مگر احادیث کی روایات میں نام بعض ایک جیسے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ اگر ان تمام ناموں کو یکجا کیا جائے وہ بھی کافی تعداد میں بن جاتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی مشہور احادیث تفصیل کے ساتھ یہاں درج کی جاتی ہیں اور ان کے بعد استفادہ کیلئے ناموں کی خصوصیات کو مختلف انداز میں درج کر دیا گیا ہے۔

حدیث امام ترمذی :

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ نَاصِفُوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ
 مُسْلِمٍ نَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِي حَمْرَةَ عَنْ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ
 اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لَهِ
 تَعَالَى تِسْعَةَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ
 الْجَنَّةَ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ
 الْقُدُوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ
 الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيْعُ
 الْبَصِيْرُ الْحَكْمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ
 الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَمِيْبُ الْجَلِيْلُ
 الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ
 الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ
 الْمُحْصِيُّ الْمُبْدِيُّ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِيُّ الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
 الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُتَقَدِّرُ الْمُقَدَّمُ الْمُؤَخَّرُ
 الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِيُّ الْبَرُّ التَّوَّابُ
 الْمُنتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
 الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
 النُّوْرُ الْهَادِيُّ الْبَدِيْعُ الْبَاقِيُّ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد
 کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ”هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ“ الخ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں رحمن، رحیم، بادشاہ، برائیوں سے پاک، بے عیب، امن دینے والا، محافظ، غالب، زبردست، بڑائی والا، درگزر فرمانے والا، سب کو قابو میں رکھنے والا، بہت عطا فرمانے والا، بہت روزی دینے والا، سب سے بڑا مشکل کشا، بہت جاننے والا روزی تنگ کرنے والا، روزی فراخ کرنے والا، پست کرنے، بلند کرنے والا، عزت دینے والا ذلت دینے والا، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، حاکم مطلق، سراپا انصاف، لطف و کرم والا، باخبر بردبار، بڑا بزرگ، بہت بخشے والا، قدردان بہت بڑا، محافظ، قوت دینے والا، کفایت کرنے والا، بڑے مرتبے والا، بہت کرم کرنے والا، بڑا نگہبان، دعائیں قبول کرنے والا، وسعت والا، حکمتوں والا، محبت کرنیوالا، بڑا بزرگ، مردوں کو زندہ کرنیوالا، حاضر و ناظر، برحق، کارساز بہت بڑی قوت والا، شدید قوت والا، مددگار، لائق تعریف، شمار میں رکھنے والا، پہلی بار پیدا کرنیوالا، دوبارہ پیدا کرنیوالا، موت دینے والا قائم رکھنے والا، پانے والا، بزرگی والا، تنہا، بے نیاز، قادر، پوری طاقت والا، آگے کرنے والا، پیچھے رکھنے والا، سب سے پہلے، سب کے بعد، ظاہر، پوشیدہ، متصرف، بلند و برتر، اچھے سلوک والا، بہت توبہ قبول کرنیوالا، بدلہ لینے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت مشفق، ملکوں کا مالک، جلال و اکرام والا، عدل کرنیوالا، جمع کرنیوالا بے نیاز، غنی بنانیوالا، روکنے والا، ضرر پہنچانیوالا نفع بخش، نور، ہدایت دینے والا، بے مثال ایجاد کرنیوالا، باقی، نیکی پسند کرنیوالا، صبر و تحمل کرنیوالا۔

(ترمذی جلد دوم ابواب الدعوات حدیث 1433)

حدیث سنن ابن ماجہ :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا
 أَبُو الْمُنْدِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ التَّمِيمِيِّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً
 إِلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ وَتُرِيحُ الْوَتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
 الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ
 الْعَظِيمُ الْبَارُّ الْمُعْتَلُ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ
 الْوَدُودُ الشَّكُورُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْوَلِيُّ الرَّشِيدُ
 الْعَفُوفُ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيدُ الْوَلِيُّ
 الشَّهِيدُ الْمُبِينُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْمُبْدِيُّ الْمُعِيدُ
 الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِيُّ الْبَاقِيُّ
 الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ الْمُقْسِطُ الرَّزَاقُ
 ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيلُ الْفَاطِرُ السَّمِيعُ
 الْمُعْطِيُّ الْمُجِيبُ الْمُمِيتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِيُّ الْكَافِيُّ الْأَبَدُ
 الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّورُ الْمُنِيرُ التَّامُّ الْقَدِيمُ الْوَتْرُ
 الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ
 زُهَيْرٌ فَلَمَّا بَلَغْنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَوْلَهَا يَفْتَحُ يَقُولُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ

الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

ہشام، محمد بن عبدالمسک الصنعانی، ابوالمنذر، موسیٰ بن عقبہ، عبدالرحمن الاعرج، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اور چونکہ وہ طاق ہیں اس لئے طاق کو پسند کرتا ہے۔ جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور وہ یہ ہیں۔ اللہ الواحد، الصمد، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الخالق، الباری، المصور، الملک، الحق، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الرحمن، الرحیم، اللطیف، الخبیر، السميع، البصیر، العظیم، البار، المتعالی، الجلیل، الجلیل، الحی، القيوم، القادر، القاہر، العلی، الحکیم، القریب، المجیب، الغنی، الوہاب، الودود، الشکور، الماجد، الواحد، الولی، الراشد، العفو، الغفور، الحلیم، الکریم، التواب، الرب، المجید، الولی، الشہید، المبین، البرہان، الرؤف، الرحیم، المبدی، المعید، الباعث، الوارث، القوی، الشدید، الضار، النافع، الباقی، البواقی، الخافض، الرفع، القابض، الباسط، المعز، المذل، المقسط، الرزاق، ذو القوۃ المتین، القائم، الدائم، الحافظ، الوکیل، الفاطر، السامع، المعطی، الحی، الممیت، المانع، الجامع، الہادی، الکافی، الابد، العالم، الصادق، النور، المنیر، القائم، القدیم، الوتر، الاحد، الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد

(ابن ماجہ جلد دوم اسماء الحسنی حدیث 1657)

حدیث مستدرک حاکم

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ،
ثَنَا الْأَمِيرُ أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهَلِيُّ بِهَمْدَانَ، ثَنَا
أَبُو أَسَدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَلْحِيِّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ

الْقُطُونِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ
النَّسَائِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَهٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَصِينِ بْنِ
التَّرْجَمَانِ ، ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَهَشَامُ بْنُ حِسَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ
الْجَنَّةَ .

اللَّهُ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْإِلَهُ	الرَّبُّ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيَّمُنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ
الْبَارِيُّ	الْمُصَوِّرُ	الْحَكِيمُ	الْعَلِيمُ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَيُّ
الْقَيُّومُ	الْوَاسِعُ	اللَّطِيفُ	الْخَبِيرُ	الْحَنَّانُ	الْمَنَّانُ	الْبَدِيعُ
الْوَدُودُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ	الْمَجِيدُ	الْمُبْدِيُّ	الْمُعِيدُ	النُّورُ
الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْغَفَّارُ	الْوَهَّابُ	الْقَادِرُ
الْأَحَدُ	الصَّمَدُ	الْكَافِيُّ	الْوَكِيلُ	الْمَجِيدُ	الْمَغِيثُ	الدَّائِمُ
الْمُتَعَالُ	ذُو الْجَلَالِ	وَالْإِكْرَامِ	الْمَوْلَى	النَّصِيرُ	الْحَقُّ	الْمُبِينُ
الْبَاعِثُ	الْمُجِيبُ	الْمُحْيِي	الْمُمِيتُ	الْجَمِيلُ	الصَّادِقُ	الْحَفِيفُ
الْكَبِيرُ	الْقَرِيبُ	الرَّقِيبُ	الْفَتَّاحُ	التَّوَّابُ	الْقَدِيمُ	الْوَتْرُ
الْفَاطِرُ	الرَّزَّاقُ	الْعَلَّامُ	الْعَلِيُّ	الْعَظِيمُ	الْغَنِيُّ	الْمَلِكُ
الْمُقْتَدِرُ	الْأَكْرَمُ	الرَّءُوفُ	الْمُدَبِّرُ	الْمَالِكُ	الْقَدِيرُ	الْهَادِي
الْكَفِيلُ	الْجَلِيلُ	الْكَرِيمُ				

(المستدرک للحاکم ج اول ص 17 کتاب الایمان باب ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة)

اسماء الحسنی مطابق قرآن مجید

قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

اسمائے مبارک	نام سورۃ
اللہ، ربّ، ربّ العالمین، الرّحمن، الرّحیم، المالك، مالك	الفاتحہ
يوم الدين -	
الوالی، النصیر، القدير، البصیر، ذو الفضل، العظیم، الواسع، العليم، البديع، بديع السموت والارض، السميع، التواب، العزيز، الحكيم، الرؤوف، الاله، الواحد، الشدید، شديد العذاب، لا اله الا هو، الغفور، المجیب، السریع، سریع الحساب، الرّؤف بالعباد، شديد العقاب، الحلیم، الخبیر، الحی، القيوم، العلی، العظیم، الحمید، اله ابراهیم، اله اسمعیل، اله اسحق، الكافی، الغنی، الوارث، الشاکر، المحیط -	البقرۃ
ال عمران القائم، الوهاب، الجامع، جامع الناس، ذوانتقام، مالك الملك، المعز، المذل، سميع الدعاء، خير الماكرين، شهيد، عليم بالمتقين، عليم بذات الصدور، خير الناصرين، وكيل -	
ربّ، الرقیب، عليم، حکیم، الحسیب، تواب، الغافر، غفور، رحیم، شهید، علی، کبیر، خبیر، نصیر، عزیز، المقیم، الکبیر، العفو، الاصدق -	النساء
اللہ، علام الغیوب، خبیر، خیر الرّازقین -	المائدۃ

الانعام

الفاطر، القاهر، القادر، اللطيف، الخالق، خالق السموات
والارض، الجعل، جاعل الظلمت والنور، الشفيع، الاعلم،
خير الفاصلين، الاسرع، اسرع الحاسبين، العالم، عالم
الغيب والشهادة، الاكبر، الفالق، فالق الحب، فالق
الاصباح، فالق النوى، مخرج الميت، مخرج الحي، سريع
العقاب -

الاعراف

مستوى على العرش، مرسل، مرسل الرياح، مالك الخلق،
مخرج الموتى، خير الحكمين، خير الفاتحين، واسع العلم،
ارحم الرحمين، خير الغافرين، منزل الكتاب، متولى
الصالحين، المحي، المميت -

الانفال

الموهن، الموحى، المميت -

التوبة

مخزي الكافرين -

يونس

الكاشف، الراد، الرزاق، مالك السمع، مالك الابصار،
مدبر الامر، حق، محي الموتى -

الهود

العاصم، احكم الحاكمين، الأخذ، القريب، المجيب،
المجيد، فعال لما يريد، الحفيظ، الودود -

يوسف

المستعان، الغالب، القهار، الحافظ، فاطر، فاطر السموات
والارض -

الرعد

الكبير، المتعال، الرافع، رافع السموات، سخر الشمس
والقمر، وال، شديد المحال، سميع الدعا -

الحجر

الخالق، حكيم، عليم، غفور، رحيم -

النحل

اله، الله، واحد، رب، رؤف، قدير، الناصر، الاعلى، ممسك

السماء، ممسك الطير، الكفيل، الباقي، غفور، رحيم -	
المهتدي، الحق، السميع، البصير، رب، كبير، سبحن،	بنی
غفور، الله، رحمن -	اسرائيل
رب، المرشد، المقتدر، ذو الرحمة، الاقرب، غفور،	الكهف
ذو الرحمة -	
رب، رب السموات والارض، الصادق، الوارث، رحمن -	مريم
الاشد، الخير، الابقى، الداعى -	طه
الفاعل، الحاسب، العالم، خير الوارثين -	الانبياء
الهادى، خير الرازقين، العلى -	الحج
خير المنزلين، خير الراحمين، الملك، رب العرش -	المؤمنون
المبين، النور -	النور
غفور، رحيم، بصير، رب، رحمن، هادى، نصير، قدير،	الفرقان
خير -	
رب موسى، رب هارون، الشافى، الساقى، المطعم، رب	الشعراء
المشرق والمغرب، رب العلمين، العزيز، الرحيم -	
حكيم، عليم، الله، رب العلمين، عزيز، غفور، رحيم، رب -	النمل
غفور، رحيم، وكيل، الله، رب العلمين، رب -	القصص
السميع، العليم، الغنى، قدير، العزيز، الحكيم، الله، الله	عنكبوت
اكبر، شهيد -	
العزيز، الرحيم، الحكيم، العليم، القدير -	الروم
العزيز، الحكيم، غنى، حميد، لطيف، خير، عليم، سميع،	لقمن
بصير، على، كبير -	

الم سجده ربّ العلمين، ولى، شفيع، علم الغيب والشهادة، العزيز،
الرحيم.

الاحزاب الله، ربّ، خير، وكيل، غفور، رحيم، قوى، عزيز، لطيف،
حسيب، علیم، حلیم، الرقيب.

السياء الحكيم، خير، الرحيم، غفور، عالم الغيب، ربّ، حفيظ،
على، الكبير، الفاتح، العلیم، العزيز، خير الرازقين، شهيد،
سمیع، قريب، علام، علام الغيوب.

فاطر الجاعل، القدير، الممسك، المرسل، العزيز، الحكيم،
علیم، الغنى، الحميد، غفور، شكور، الخبير، بصير، حلیم.
العزيز، الرحيم، رحمن، العلیم، ربّ، خلاق.

الصفات ربّ، ربّ العلمين، ربّ السموت والارض، ربّ المشارق،
ربّ العزة، احسن الخالقين.

ص العزيز، الوهاب، ربّ، الواحد، القهار، ربّ السموت،
الغفار.

الزمر الله، الواحد، القهار، العزيز، الغفار، ربّ، علیم، بذات
الصدور، ذى انتقام، الغفور، الرحيم، ربّ العلمين.

المومن العزيز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب،
ربّ ذى الطول، الحكيم، العلى، الكبير، الواحد، القهار،
بصير، ربّ العلمين.

حم سجده الرحمن، الرحيم، ربّ العلمين، العزيز، العلیم، غفور، ولى،
السمیع، العلیم، قدير، بصير، حكيم، حميد، ذو عقاب،
ذو مغفرة.

- الشورى العزيز، الحكيم، العلى، العظيم، الغفور، الرحيم، الوالى،
 قدير، فاطر السموت والارض، السميع، البصير، لطيف،
 القوى، غفور، شكور، خير، ولى، الحميد۔
- الزخرف العلى، الحكيم، العزيز، العليم، الرحمن، رب السموت
 والارض، رب العرش، المقتدر۔
- الدخان السميع، العليم، رب، العزيز، الرحيم۔
- الجاتية العزيز، الحكيم، الناصر، ولى المتقين، رب السموت، رب
 الارض، رب العلمين۔
- الاحقاف العزيز، الحكيم، الغفور، الرحيم۔
- محمد الله، الغنى۔
- الفتح عليم، حكيم، عزيز، قدير۔
- الحجرات الله، سميع، عليم، غفور، رحيم، حكيم، تواب، خير، بصير۔
- الذريت رب السماء والارض، المتين، ذو القوة، الرزاق،۔
- الطور البر، الرحيم، رب۔
- النجم واسع المغفرة رب الشعرى۔
- القمر الملك، مقتدر، والاكرام۔
- الواقعه العظيم، رب العلمين۔
- الحديد العزيز، الحكيم، قدير، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن،
 عليم، بصير، الرؤوف، الرحيم، خير، غفور، ذو الفضل
 العظيم۔
- المجادلة العفو، سميع، بصير، غفور، خير، شهيد، عليم، رحيم،
 قوى، عزيز۔

الحشر	الله، شديد العقاب، قدير، رؤوف، رحيم، رب العلمين، عالم الغيب والشهادة، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصوّر، الحكيم -
المتحنة	الله، بصير، رب، العزيز، الحكيم، الغنى، الحميد، قدير، غفور، رحيم، عليم -
الصف	العزيز، الحكيم، الله، المتم -
الجمعة	الملك، القدوس، العزيز، الحكيم، ذو الفضل العظيم، عليم، علم الغيب والشهادة، خير الزقين -
المنفقون	الله، خبير -
التغابن	الله، قدير، بصير، عليم، بذات الصدور، غنى، حميد، عليم، غفور، رحيم، شكور، حلیم، عالم الغيب والشهادة، العزيز، الحكيم -
الطلاق	قدير، البالغ، بالغ الامر، جاعل القدر -
التحريم	غفور، رحيم، عليم، حكيم، خبير، قدير -
الملك	قدير، العزيز، الغفور، الرحمن، اللطيف، الخبير، بصير -
الحاقة	العظيم، رب العلمين -
نوح	غفار، رب -
الجن	الله، علم الغيب -
المزمل	رب المشرق والمغرب، غفور، رحيم -
المدثر	اهل التقوى، اهل المغفرة -
التكوير	الله، رب العلمين -

الانفطار	الكريم -
البروج	العزیز، الحمید، شهید، الغفور، الودود، ذوالعرش، المجید، المبدی، المعید -
القريش	ربّ، البيت -
النصر	ربّ، تواب -
الاخلاص	الله، احد، الصمد -
الفلق	ربّ الفلق -
الناس	ربّ الناس، ملك الناس، اله الناس -

(بحوالہ شرح اسماء الحسنی تاج کمپنی لاہور)

اسماء الحسنی بحوالہ آیات قرآن مجید

نمبر شمار	اسم پاک	حوالہ آیت قرآنیہ
۱	اللَّهُ	إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (پ 16 ط 14)
۲	رَحْمَنُ	رَحْمَنِ الرَّحِيمِ (فاتحہ آیت نمبر 2)
۳	رَحِيمٌ	ايضاً
۴	الْمَلِكُ	الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (پ 28 حشر 23)
۵	الْقُدُّوسُ	ايضاً
۶	السَّلَامُ	ايضاً
۷	الْمُؤْمِنُ	ايضاً
۸	الْمُهِيمُ	ايضاً
۹	الْعَزِيزُ	ايضاً
۱۰	الْجَبَّارُ	ايضاً
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ	ايضاً
۱۲	الْخَالِقُ	الْخَالِقُ الْبَارِي الْمَصَوِّرُ (پ 28 حشر 24)
۱۳	الْبَارِي	ايضاً

۱۴	الْمُصَوِّرُ	ايضاً
۱۵	الْغَفَّارُ	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ (پ 16 طه 82)
۱۶	الْقَهَّارُ	وَاحِدُ الْقَهَّارِ (پ 12 يوسف 39)
۱۷	الْوَهَّابُ	إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (پ 3 آل عمران 8)
۱۸	الرَّزَّاقُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ (پ 27 ذرايات آیت 58)
۱۹	الْفَتَّاحُ	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (پ 22 سبأ 26)
۲۰	الْعَلِيمُ	ايضاً (پ 22 سبأ 26)
۲۱	السَّمِيعُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ 24 المؤمن 20)
۲۲	الْبَصِيرُ	ايضاً
۲۳	اللَّطِيفُ	وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (پ 29 ملك 14)
۲۴	الْخَبِيرُ	ايضاً
۲۵	الْحَلِيمُ	إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (پ 15 اسرايل 44)
۲۶	الْعَظِيمُ	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (پ 3 آیت الكرسي 255)
۲۷	الْغُفُورُ	إِنَّهُ غُفُورٌ شَكُورٌ (پ 22 فاطر 30)
۲۸	الشَّكُورُ	ايضاً
۲۹	الْعَلِيُّ	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (پ 3 آیت الكرسي 255)
۳۰	الْكَبِيرُ	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ (پ 13 رعد 9)
۳۱	الْحَفِيفُ	إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (پ 12 هود 57)
۳۲	الْمُقِيتُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتٌ (پ 5 نساء 85)
۳۳	حَسِيبٌ	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ (پ 5 نساء 86)
۳۴	الْكَرِيمُ	إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (پ 19 نمل 40)

۳۵	الرَّقِيبُ	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (پ 4 نساء 1)
۳۶	الْقَرِيبُ	إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (پ 12 هود 61)
۳۷	الْمُجِيبُ	ايضاً
۳۸	الْوَاسِعُ	إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (پ 1 البقره 115)
۳۹	الْحَكِيمُ	أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ 19 نمل 9)
۴۰	الْوَدُودُ	وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (پ 30 بروج 14)
۴۱	الْمَجِيدُ	إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (پ 12 هود 73)
۴۲	الشَّهِيدُ	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ 17 حج 17)
۴۳	الْحَقُّ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (پ 18 نور 25)
۴۴	الْوَكِيلُ	وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (پ 15 بنی اسرائیل 65)
۴۵	الْقَوِيُّ	وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (پ 25 شوری 19)
۴۶	الْمَتِينُ	ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (پ 27 ذاریات 58)
۴۷	الْوَلِيُّ	وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (پ 25 شوری 28)
۴۸	الْحَمِيدُ	ايضاً
۴۹	الْحَيُّ	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (پ 3 آل عمران 2)
۵۰	الْقَيُّومُ	ايضاً
۵۱	الْوَاحِدُ	الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پ 23 ص 65)
۵۲	الْأَحَدُ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (پ 30 اخلاص 1)
۵۳	الصَّمَدُ	اللَّهُ الصَّمَدُ (پ 30 اخلاص 2)
۵۴	الْقَادِرُ	هُوَ الْقَادِرُ (پ 7 انعام آیت 37)
۵۵	الْمُقْتَدِرُ	عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ (پ 27 قمر 25)

۵۶	الْأَوَّلُ	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (پ 27 الحديد 3)
۵۷	الْآخِرُ	ايضاً
۵۸	الظَّاهِرُ	ايضاً
۵۹	الْبَاطِنُ	ايضاً
۶۰	الْوَالِي	مَالَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَآلٍ (پ 13 رعد 11)
۶۱	الْمُتَعَالَى	كَبِيرُ الْمُتَعَالَى (پ 13 رعد 9)
۶۲	الْبَرُّ	الْبَرُّ الرَّحِيمُ (پ 27 طور 28)
۶۳	التَّوَابُ	أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (پ 1 بقره 37-127)
۶۴	الْعَفْوُ	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا (پ 5 نساء 43)
۶۵	الرَّؤُفُ	إِنَّ اللَّهَ رُؤُفٌ رَحِيمٌ (پ 18 نور 20)
۶۶	الْجَامِعُ	إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَأَرِيْبَ فِيهِ (پ 3 آل عمران 9)
۶۷	الْغَنِيُّ	وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (پ 3 البقره 203)
۶۸	النُّورُ	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ 18 نور 35)
۶۹	الْهَادِي	وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (پ 19 فرقان 31)
۷۰	الْبَدِيعُ	بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط (پ 7 انعام 101)
۷۱	الرَّبُّ	رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (پ 1 بقره 126)
۷۲	الْمُبِينُ	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (پ 18 نور 25)
۷۳	الْقَابِرُ	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (پ 14 نحل 70)
۷۴	الْحَافِظُ	وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا (پ 13 يوسف 64)
۷۵	الْكَفِيلُ	وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (پ 14 نحل 91)
۷۶	الشَّاكِرُ	فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (پ 2 البقره 158)

۷۷	الْأَكْرَمُ	وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (پ 30 علق 3)
۷۸	الْأَعْلَى	سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (پ 30 اعلى 1)
۷۹	الْخَلَّاقُ	وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (پ 23 یسین 81)
۸۰	الْمَوْلَى	وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقُّ (پ 7 انعام 62)
۸۱	النَّصِيرُ	وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (پ 5 نساء 45)
۸۲	إِلَهُ	إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ (پ 16 كهف 110)
۸۳	الْعَلَّامُ	إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (پ 7 مائده 116)
۸۴	الْقَاهِرُ	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (پ 7 انعام 16-18)
۸۵	الْغَافِرُ	غَافِرِ الذَّنْبِ (پ 24 مومن 3)
۸۶	الْفَاطِرُ	فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ 7 انعام وملائكه 14)
۸۷	الْمَلِيكُ	عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ (پ 27 قمر 55)
۸۸	الْحَفِيُّ	إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (پ 16 مریم 47)
۸۹	الْمُحِيطُ	إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (پ 25 حم سجده 54)
۹۰	الْمُسْتَعَانُ	وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ (پ 12 يوسف 18) (پ 17 انبياء 112)
۹۱	الرَّفِيعُ	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ (پ 24 مومن 15)
۹۲	الْكَافِي	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (پ 24 زمر 36)
۹۳	الْغَالِبُ	وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (پ 12 يوسف 21)
۹۴	الْمَنَّانُ	مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (پ 4 آل عمران ع 17 آیت 164)
۹۵	الْجَلِيلُ	ذُو الْجَلَالِ (پ 27 رحمن 78)
۹۶	الْمُحْيِي	إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى (پ 21 روم 51)

۹۷	الْمَمِيتُ	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (پ 9 اعراف 158)
۹۸	الْوَارِثُ	وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (پ 20 قصص 58)
۹۹	الْبَاعِثُ	إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (پ 17 الحج 7)
۱۰۰	الْبَاقِي	وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ (پ 27 رُحْمٰن 27)

نقشه روایات

نمبر شمار	اسم	ترمذی	ابن ماجه	حاکم	امام جعفر صادق	حافظ ابن حجر
1	اللَّهُ	"	"	"	"	"
2	الرَّحْمَنُ	"	"	"	"	"
3	الرَّحِيمُ	"	"	"	"	"
4	الْمَلِكُ	"	"	"	"	"
5	الْقُدُّوسُ	"	—	"	"	"
6	السَّلَامُ	"	"	"	"	"
7	الْمُؤْمِنُ	"	"	"	"	"
8	الْمُهَيِّمُ	"	"	"	"	"
9	الْعَزِيزُ	"	"	"	"	"
10	الْجَبَّارُ	"	"	"	"	"
11	الْمُتَكَبِّرُ	"	"	"	"	"
12	الْخَالِقُ	"	"	"	"	"
13	الْبَارِئُ	"	"	"	"	"
14	الْمُصَوِّرُ	"	"	"	"	"
15	الْغَفَّارُ	"	—	"	"	"

"	-	-	-	"	الْقَهَّارُ	16
"	"	"	-	"	الْوَهَّابُ	17
"	"	"	"	"	الرَّزَّاقُ	18
"	"	-	-	"	الْفَتَّاحُ	19
"	"	-	"	"	الْعَلِيمُ	20
-	"	-	"	"	الْقَابِضُ	21
-	"	-	"	"	الْبَاسِطُ	22
-	-	-	"	"	الْخَافِضُ	23
-	-	-	"	"	الرَّافِعُ	24
-	-	-	"	"	الْمُعِزُّ	25
-	-	-	"	"	الْمُدِلُّ	26
"	"	-	"	"	السَّمِيعُ	27
"	"	-	"	"	الْبَصِيرُ	28
"	"	-	-	"	الْحَكَمُ	29
"	"	-	-	"	الْعَدْلُ	30
"	"	"	"	"	اللَّطِيفُ	31
"	"	"	"	"	الْخَبِيرُ	32
"	"	-	"	"	الْحَلِيمُ	33
"	"	"	"	"	الْعَظِيمُ	34

"	"	"	"	"	الْغَفُورُ	35
"	—	"	"	"	الشَّكُورُ	36
"	"	"	"	"	الْعَلِيُّ	37
"	"	"	—	"	الْكَبِيرُ	38
"	"	"	—	"	الْحَفِيظُ	39
"	"	"	—	"	الْمُقِيتُ	40
"	"	"	—	"	الْحَسِيبُ	41
—	—	—	"	"	الْجَلِيلُ	42
"	"	"	"	"	الْكَرِيمُ	43
"	"	"	"	"	الرَّقِيبُ	44
"	"	—	"	"	الْمُجِيبُ	45
"	"	"	"	"	الْوَاسِعُ	46
"	"	"	"	"	الْحَكِيمُ	47
"	"	"	"	"	الْوَدُودُ	48
"	"	"	"	"	الْمَجِيدُ	49
—	"	"	"	"	الْبَاعِثُ	50
"	"	"	"	"	الشَّهِيدُ	51
"	"	"	"	"	الْحَقُّ	52
"	"	"	"	"	الْوَكِيلُ	53

"	"	—	"	"	الْقَوِيُّ	54
"	"	"	"	"	الْمَتِينُ	55
"	"	"	"	"	الْوَلِيُّ	56
"	"	"	—	"	الْحَمِيدُ	57
—	—	"	—	"	الْمُحْصِي	58
—	"	"	"	"	الْمُبْدِي	59
—	"	"	"	"	الْمُعِيدُ	60
"	"	"	"	"	الْمُحْيِي	61
"	"	"	"	"	الْمُمِيتُ	62
"	"	"	"	"	الْحَيُّ	63
"	"	"	"	"	الْقَيُّومُ	64
—	—	—	"	"	الْوَاحِدُ	65
—	—	—	"	"	الْمَاجِدُ	66
"	"	"	"	"	الْوَاحِدُ	67
"	"	"	"	—	الْأَحَدُ	68
"	"	"	"	"	الصَّمَدُ	69
"	"	"	"	"	الْقَادِرُ	70
"	"	"	—	"	الْمُقْتَدِرُ	71
—	—	"	—	"	الْمُقَدِّمُ	72
—	—	"	—	"	الْمُؤَخَّرُ	73

"	"	"	"	"	الْأَوَّلُ	74
"	"	"	"	"	الْآخِرُ	75
"	"	"	"	"	الظَّاهِرُ	76
"	"	"	"	"	الْبَاطِنُ	77
—	—	—	"	"	الْوَالِي	78
"	"	"	"	"	الْمُتَعَالِي	79
"	"	"	بار	"	الْبَرُّ	80
"	"	"	"	"	التَّوَابُ	81
"	—	"	—	"	الْمُنْتَقِمُ	82
"	"	"	"	"	الْعَفْوُ	83
"	"	"	"	"	الرَّءُوفُ	84
(مالك)	(مالك)	(مالك)	—	"	مَالِكُ الْمَلِكِ	85
—	"	—	—	"	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	86
—	—	—	"	"	الْمُقْسِطُ	87
"	—	—	"	"	الْجَامِعُ	88
"	"	—	"	"	الْغَنِيُّ	89
—	—	"	—	"	الْمُغْنِي	90
—	—	—	"	"	الْمَانِعُ	91
—	—	—	"	"	الضَّارُّ	92
—	—	—	"	"	النَّافِعُ	93

"	"	-	"	"	النُّورُ	94
"	(هاد)	-	"	"	الْهَادِي	95
"	"	-	-	"	الْبَدِيعُ	96
-	"	-	"	"	الْبَاقِي	97
"	"	"	"	"	الْوَارِثُ	98
-	-	-	"	"	الرَّشِيدُ	99
-	-	-	"	"	الصُّبُورُ	100
"	"	"	"	"	رَبُّ	101
-	-	-	"	-	رِزَاقٌ	102
"	"	"	"	-	كَافِي	103
"	"	"	"	-	قَاهِرٌ	104
-	-	-	"	-	نَاطِرٌ	105
-	"	"	"	-	صَادِقٌ	106
-	-	"	"	-	جَمِيلٌ	107
"	"	"	"	-	فَاطِرٌ	108
-	"	"	"	-	بُرْهَانٌ	109
"	"	"	"	-	قَرِيبٌ	110
"	"	"	-	-	شَدِيدٌ	111
"	"	-	"	-	قَائِمٌ	112
-	-	"	"	-	وَاقِيٌ	113
-	-	-	"	-	مُنِيرٌ	114

"	—	"	"	—	حَافِظٌ	115
—	—	—	"	—	قَدِيمٌ	116
—	—	—	"	—	سَامِعٌ	117
—	—	—	"	—	مُعْطَى	118
—	—	—	"	—	تَامٌ	119
—	—	"	"	—	عَالِمٌ	120
—	—	—	"	—	أَبَدٌ	121
—	"	—	"	—	وَتَرٌ	122
	"	"	—	—	حَنَانٌ	123
	—	"	—	—	مُنَانٌ	124
"	—	"	—	"	كَفِيلٌ	125
"	"	"	—	—	مُحِيطٌ	126
"	"	"	—	—	رَفِيعٌ	127
"	"	"	—	—	شَاكِرٌ	128
"	—	"	—	—	أَكْرَمٌ	129
"	"	"	—	—	قَدِيرٌ	130
"	"	"	—	—	خَلَّاقٌ	131
	—	"	—	—	فَاتِحٌ	132
	—	"	—	—	مُتَّيِّبٌ	133
	—	"	—	—	عَلَّامٌ	134
"	"	"	—	—	مَوْلَى	135

"	"	"	-	-	نَصِيرٌ	136
"	"	"	-	-	ذُو الطُّوْلِ	137
"	-	-	-	-	ذُو المَعَارِجِ	138
"	-	-	-	-	ذُو الفُضْلِ	139
"	"	"	-	-	مُبِينٌ	140
"	"	"	-	-	اللهُ	141
"	-	-	-	-	مُدَبِّرٌ	142
"	"	"	-	-	فَرْدٌ	143
"	"	-	-	-	فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ	144
"	"	-	-	-	سَرِيعٌ	145
"	"	-	-	-	مُتَفَضِّلٌ	146
"	"	-	-	-	غَافِرٌ	147
"	"	-	-	-	قَابِلٌ	148
"	"	-	-	-	مَلِكٌ	149
"	"	-	-	-	رَبُّ المَشْرِقِينَ رَبُّ المَغْرِبِينَ	150
"	"	-	-	-	مُعِينٌ	151
"	-	-	-	-	حَاكِمٌ	152
"	-	-	-	-	غَالِبٌ	153

"	-	-	-	-	اَعْلَىٰ	154
"	-	-	-	-	حَفِيٍّ	155
-	"	-	-	-	مُنْعِمٌ	156
"	-	-	-	-	مُسْتَعَانٌ	157

نقشہ اعداد

نمبر شمار	اسم	معنی	تاثیر	تعداد ابجد	لفظی اعداد	مفرد عدد
1	اللَّهُ	معبود برحق	معتدل	66	259	3
2	الرَّحْمَنُ	رحمت والا	جمالی	298	406	1
3	الرَّحِيمُ	رحم کرنے والا	جمالی	258	311	6
4	الْمَلِكُ	بادشاہت والا	جمالی	90	162	9
5	الْقُدُّوسُ	منزہ و پاک	جمالی	170	349	8
6	السَّلَامُ	سلامتی والا	جمالی	131	392	5
7	الْمُؤْمِنُ	امن دینے والا	جمالی	136	296	1
8	الْمُهَيِّمُ	نگہبان	جمالی	145	302	1
9	الْعَزِيزُ	غلبے والا	جلالی	94	157	4
10	الْجَبَّارُ	جبروت والا	جلالی	206	368	8
11	الْمُتَكَبِّرُ	بڑائی والا	جلالی	662	796	5
12	الْخَالِقُ	پیدا کرنے والا	جمالی	731	964	2
13	الْبَارِئُ	وجود میں لانیوالا	جلالی	213	326	6
14	الْمُصَوِّرُ	صورت بنانیوالا	جلالی	336	399	3
15	الْغَفَّارُ	گناہ معاف کرنیوالا	جمالی	1281	1453	9
16	الْقَهَّارُ	زبردست	جلالی	306	499	5

2	133	14	جمالی	بہت کچھ دینے والا	الْوَهَّابُ	17
2	501	308	جمالی	رزق دینے والا	الرَّزَّاقُ	18
3	602	289	جمالی	کھولنے والا	الْفَتَّاحُ	19
6	302	150	جمالی	علم والا	الْعَلِيمُ	20
3	1100	903	جلالی	قبض کرنے والا	الْقَابِضُ	21
9	244	72	جمالی	کشادہ کرنیوالا	الْبَاسِطُ	22
3	1598	1481	جلالی	پست کرنیوالا	الْخَافِضُ	23
9	523	351523	جمالی	درجے بلند کرنیوالا	الرَّافِعُ	24
9	228	117	جمالی	عزت دینے والا	الْمُعِزُّ	25
5	892	770	جلالی	ذلت دینے والا	الْمُذِلُّ	26
9	351	180	جمالی	سننے والا	السَّمِيعُ	27
5	310	302	جمالی	دیکھنے والا	الْبَصِيرُ	28
5	200	68	جمالی	حکم والا	الْحَكَمُ	29
5	236	104	جلالی	انصاف کرنیوالا	الْعَدْلُ	30
3	173	129	جمالی	لطف و کرم کرنیوالا	اللطيفُ	31
2	816	812	جمالی	خبر رکھنے والا	الْخَبِيرُ	32
7	181	88	جمالی	حلم والا	الْحَلِيمُ	33
3	1132	1020	جمالی	عظمت والا	الْعَظِيمُ	34
8	1364	1286	جمالی	بخشنے والا	الْغَفُورُ	35
4	675	526	جلالی	قدر کرنے والا	الشَّكُورُ	36
2	212	110	جلالی	بلند مرتبے والا	الْعَلِيُّ	37

7	316	232	جلالی	بزرگی والا	الْكَبِيرُ	38
8	1002	998	جمالی	حفاظت کرنیوالا	الْحَفِیْظُ	39
1	683	550	جمالی	انسان کو توانائی دینے والا	الْمُقِیْتُ	40
8	43	80	جمالی	حساب لینے والا	الْحَسِیْبُ	41
1	206	73	جلالی	جلال و جمال والا	الْجَلِیْلُ	42
9	403	270	جمالی	بے انتہا عطا کرنیوالا	الْكَرِیْمُ	43
6	396	312	جمالی	نگہبان	الرَّقِیْبُ	44
1	157	55	جمالی	دعا میں قبول کرنیوالا	الْمُجِیْبُ	45
1	174	137	جلالی	وسعت والا	الْوَاسِعُ	46
6	211	78	جمالی	حکمت والا	الْحَكِیْمُ	47
2	96	20	جمالی	محبت کرنے والا	الْوَدُوْدُ	48
3	189	57	جمالی	بزرگی والا	الْمَجِیْدُ	49
1	745	573	جمالی	مبعوث فرمانے والا	الْبَاعِثُ	50
4	412	319	جمالی	گواہ	الشَّهِیْدُ	51
9	190	108	معتدل	سچا اور موجود	الْحَقُّ	52
3	196	66	جمالی	کارساز	الْوَكِیْلُ	53
8	205	116	جلالی	قوت والا	الْقَوِیُّ	54
5	608	500	جلالی	مضبوط	الْمَتِیْنُ	55
1	95	46	جمالی	دوست	الْوَلِیُّ	56
8	145	62	جمالی	حمد والا	الْحَمِیْدُ	57
4	204	148	جلالی	احاطہ کرنے والا	الْمُحْصِیُّ	58

2	139	56	جلالی	اول بار پیدا کرنیوالا	الْمُبْدِيُّ	59
7	266	124	جمالی	دوبارہ پیدا کرنیوالا	الْمُعِيدُ	60
5	131	68	جلالی	زندگی دینے والا	الْمُحْيِي	61
4	592	490	جلالی	مارنے والا	الْمُمِيتُ	62
9	20	18	جلالی	ہمیشہ زندہ	الْحَيُّ	63
3	295	156	جلالی	ہمیشہ قائم	الْقَيُّومُ	64
5	212	14	جلالی	ہر چیز کو پانے والا	الْوَاجِدُ	65
3	289	48	جمالی	بزرگی و عزت والا	الْمَاجِدُ	66
1	168	19	جلالی	اکیلا	الْوَاحِدُ	67
4	155	13	جلالی	یکتا و یگانہ	الْاَحَدُ	68
8	220	134	جمالی	بے نیاز	الْصَّمَدُ	69
8	828	305	جلالی	زبردست قدرت والا	الْقَادِرُ	70
6	1208	744	جلالی	اقدار والا	الْمُقْتَدِرُ	71
4	396	184	جلالی	مقدم	الْمُقَدِّمُ	72
9	905	846	جلالی	پیچھے کرنے والا	الْمُؤَخِّرُ	73
1	195	37	معتدل	سب سے اول	الْاَوَّلُ	74
9	913	801	جلالی	آخرت والا	الْاٰخِرُ	75
8	1118	1106	جلالی	ظاہر	الظَّاهِرُ	76
8	320	62	جمالی	پوشیدہ	الْبَاطِنُ	77
2	206	47	جمالی	کارساز	الْوَالِي	78
2	814	551	جلالی	بلند و برتر	الْمُتَعَالِي	79
4	204	202	جمالی	نیکی والا	الْبِرُّ	80
4	606	409	جمالی	توبہ قبول کرنیوالا	التَّوَابُ	81

9	868	630	جلالی	بدلہ لینے والا	الْمُنْتَقِمُ	82
3	224	156	جمالی	درگزر کرنے والا	الْعَفْوُ	83
7	295	286	جمالی	شفقت کرنے والا	الرَّءُوفُ	84
5	716	212	جلالی	ملکوں کے مالک	مَالِكُ الْمَلِكِ	85
3	2141	1100	جلالی	جلال اور عزت والا	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	86
3	401	209	جلالی	انصاف کرنے والا	الْمُقْسِطُ	87
6	384	114	جلالی	جمع کرنے والا	الْجَامِعُ	88
7	1177	1060	جلالی	بے نیاز	الْغَنِيُّ	89
2	1267	1100	جمالی	بے نیاز کرنیوالا	الْمُغْنِي	90
3	437	201	جلالی	منع کرنے والا	الْمَانِعُ	91
2	1117	1001	جلالی	ضرر پہنچانے والا	الضَّارُّ	92
3	437	201	جمالی	نفع پہنچانے والا	النَّافِعُ	93
4	320	256	جلالی	نور	النُّورُ	94
2	163	20	جلالی	ہدایت دینے والا	الْهَادِي	95
5	179	86	معتدل	عجب چیز پیدا کرنیوالا	الْبَدِيعُ	96
5	306	113	جلالی	ہمیشہ باقی رہنے والا	الْبَاقِي	97
5	826	707	جمالی	وارث	الْوَارِثُ	98
1	607	514	جمالی	سیدھی راہ دکھانے والا	الرَّشِيدُ	99
1	312	298	جلالی	برداشت کرنے والا	الضُّبُورُ	100
6	396	312	جمالی	نزدیک	الْقَرِيبُ	101
4	204	202	جمالی	پروردگار	رَبُّ	102
3	210	102	جمالی	ظاہر	الْمُبِينُ	103

8	428	314	جلالی	قدرت والا	الْقَدِيرُ	104
8	1102	989	جمالی	حفاظت کرنے والا	الْحَافِظُ	105
5	264	140	جمالی	کفایت کرنے والا	الْكَفِيلُ	106
8	773	521	جمالی	قدر دان	الشَّاكِرُ	107
9	513	261	جمالی	بہت کرم کرنیوالا	الْأَكْرَمُ	108
7	322	151	جلالی	سب سے برتر	الْأَعْلَى	109
5	296	86	جمالی	کار ساز	الْمَوْلَى	110
4	413	350	جمالی	مدد کرنے والا	النَّصِيرُ	111
9	188	36	معتدل	معبود	الِإِلَهِ	112
2	884	731	جلالی	پیدا کرنے والا	الْخَلَّاقُ	113
9	499	306	جلالی	غالب	الْقَاهِرُ	114
3	1353	1281	جمالی	بخشنے والا	الْغَافِرُ	115
2	403	290	جمالی	خالق فطرت	الْفَاطِرُ	116
1	273	100	جمالی	بادشاہ	الْمَلِكُ	117
8	101	98	جمالی	بے حد مہربان	الْحَفِيظُ	118
4	120	67	معتدل	احاطہ کرنے والا	الْمُحِيطُ	119
9	958	621	جمالی	استعانت کرنیوالا	الْمُسْتَعَانُ	120
9	423	307	جمالی	رفعت والا	الرَّفِيعُ	121
3	304	111	جمالی	کفایت کرنیوالا	الْكَافِي	122
7	1245	1033	جلالی	غلبے والا	الْغَالِبُ	123
6	413	141	جمالی	احسان کرنے والا	الْمَنَّانُ	124
6	427	258	جمالی	روشن اور واضح	الْبُرْهَانُ	125
7	462	340	جمالی	جلدی کرنے والا	السَّرِيعُ	126

2	416	200	جمالی	نعمتیں دینے والا	الْمُنْعِمُ	127
1	563	391	جمالی	شفاء دینے والا	الشَّافِي	128
6	402	141	جمالی	علم والا	الْعَالِمُ	129
3	441	318	جلالی	شدت والا	الشَّدِيدُ	130
1	332	109	جمالی	مہربانی کرنے والا	الْحَنَّانُ	131
3	241	129	جمالی	عطا کرنے والا	الْمُعْطِي	132
2	225	83	جمالی	حسن والا	الْجَمِيلُ	133
6	317	384	جلالی	یکتا و یگانہ	الْفَرْدُ	134
3	615	606	جلالی	یگانہ	الْوَتْرُ	135

فہرست مطابق حروف تہجی


		(الف)	
۳۹۰	الْبَاقِي		
۴۷۸	الْبُرْهَانُ	۷	اللَّهُ
	(ت)	۲۸۱	الْأَحَدُ
۳۲۱	التَّوَابُ	۲۹۶	الْأَوَّلُ
	(ج)	۲۹۹	الْآخِرُ
۴۴	الْجَبَّارُ	۴۲۵	الْأَكْرَمُ
۱۸۴	الْجَلِيلُ	۴۲۷	الْأَعْلَى
۳۵۴	الْجَامِعُ	۴۳۶	الْإِلَهُ
۵۰۱	الْجَمِيلُ		(ب)
	(ح)	۵۴	الْبَارِي
۱۴۱	الْحَكْمُ	۹۵	الْبَاسِطُ
۱۴۲	الْحَلِيمُ	۱۱۶	الْبَصِيرُ
۱۷۱	الْحَفِيفُ	۲۱۵	الْبَاعِثُ
۱۷۹	الْحَسِيبُ	۳۰۴	الْبَاطِنُ
۲۰۲	الْحَكِيمُ	۳۱۴	الْبُرُّ
۲۲۴	الْحَقُّ	۳۸۸	الْبَدِيعُ

		۲۲۲	الْحَمِيدُ
(س)		۲۶۳	الْحَيُّ
۳۳	السَّلَامُ		
		۲۱۹	الْحَافِظُ
۱۱۳	السَّمِيعُ		
		۲۵۲	الْحَفِيُّ
۲۸۱	السَّرِيعُ		
		۲۹۸	الْحَنَّانُ
(ش)				
۱۵۶	الشُّكُورُ		(خ)
		۲۹	الْخَالِقُ
۲۱۸	الشَّهِيدُ		
		۹۸	الْخَافِضُ
۲۲۳	الشَّاكِرُ		
		۱۳۶	الْخَبِيرُ
۲۸۷	الشَّافِي		
		۲۲۳	الْخَلَّاقُ
۲۹۵	الشَّدِيدُ		
				(ذ)
(ص)		۳۲۵	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
۲۸۳	الصَّمَدُ		
				(ر)
۲۰۰	الصَّبُورُ		
		۱۶	الرَّحْمَنُ
(ض)		۲۱	الرَّحِيمُ
۳۷۰	الضَّارُّ		
		۷۹	الرَّزَاقُ
(ظ)		۱۰۳	الرَّافِعُ
۳۰۱	الظَّاهِرُ		
		۱۹۲	الرَّقِيبُ
(ع)		۳۳۵	الرَّءُوفُ
۲۰	الْعَزِيزُ		
		۳۹۷	الرَّشِيدُ
۸۵	الْعَلِيمُ		
		۲۰۸	رَبُّ
۱۲۳	الْعَدْلُ		
		۲۶۲	الرَّفِيعُ
۱۲۵	الْعَظِيمُ		

۴۴۶ الْقَاهِرُ	۱۶۰ الْعَلِيُّ
	(ك)	۳۳۰ الْعَفْوُ
۱۶۸ الْكَبِيرُ	۴۹۰ الْعَالِمُ
۱۸۸ الْكَرِيمُ	(غ)	
۴۲۲ الْكَفِيلُ	۵ الْغَفَّارُ
۴۶۳ الْكَافِيُ	۱۵۰ الْغَفُورُ
	(ل)	۳۸۸ الْغَنِيُّ
۱۳۰ اللَّطِيفُ	۴۴۷ الْغَافِرُ
	(م)	۴۶۹ الْغَالِبُ
۲۵ الْمَلِكُ	(ف)	
۳۵ الْمُؤْمِنُ	۸۳ الْفَتَّاحُ
۳۸ الْمُهَيَّمِنُ	۴۵۱ الْفَاطِرُ
۴۷ الْمُتَكَبِّرُ	۵۰۲ الْفَرْدُ
۵۹ الْمُصَوِّرُ	(ق)	
۱۰۷ الْمُعِزُّ	۳۰ الْقُدُّوسُ
۱۱۱ الْمُدِلُّ	۶۹ الْقَهَّارُ
۱۷۷ الْمُقِيتُ	۹۱ الْقَابِضُ
۱۹۶ الْمُجِيبُ	۲۳۴ الْقَوِيُّ
۲۱۳ الْمَجِيدُ	۲۶۷ الْقَيُّومُ
۲۳۷ الْمُتَيْنُ	۲۸۶ الْقَادِرُ
۲۴۹ الْمُحْصِيُ	۴۰۴ الْقَرِيبُ
۲۵۲ الْمُبْدِيُ	۴۱۶ الْقَدِيرُ

	(ن)	۲۵۵	الْمُعِيدُ	
۳۷۴	الَّنَّافِعُ	۲۵۸	الْمُحْيِي
۳۷۸	النُّورُ	۲۶۰	الْمُمِيتُ
۴۳۱	النَّصِيرُ	۲۷۵	الْمَاجِدُ
۷۲	الْوَهَّابُ	۲۸۹	الْمُقْتَدِرُ
۲۰۰	الْوَاسِعُ	۲۹۱	الْمُقَدِّمُ
۲۰۸	الْوَدُودُ	۲۹۳	الْمُؤَخِّرُ
۲۳۰	الْوَكِيلُ	۳۱۱	الْمُتَعَالِي
۲۳۹	الْوَلِيُّ	۳۲۷	الْمُنْتَقِمُ
۲۷۲	الْوَاحِدُ	۳۳۹	مَالِكُ الْمَلِكِ
۲۷۶	الْوَاحِدُ	۳۴۸	الْمُقْسِطُ
۳۰۸	الْوَالِي	۳۶۱	الْمُغْنِي
۳۹۴	الْوَارِثُ	۳۶۴	الْمَانِعُ
۵۰۳	الْوَتْرُ	۳۱۴	الْمُبِينُ
	(ه)		۴۲۹	الْمَوْلِي
۳۸۳	الْهَادِي	۴۵۳	الْمَلِيكُ
			۴۵۶	الْمُحِيطُ
			۴۵۹	الْمُسْتَعَانُ
			۴۷۳	الْمَنَّانُ
			۴۸۲	الْمُنْعِمُ
			۴۹۹	الْمُعْطِي

عالم فقہی کی گرانقہ تصنیف




طالبین خیر و برکت
کے لیے

انمول پارہ

ہر اسمِ حسنہ کے معنی
تشریح، فضائل، خواص
اولیائے عظام کے پڑھنے کا طریقہ کار، نقوش
اور مجرب وظائف کا منفرد مجموعہ



اسمِ اعظم ہی وہ واحد
راز ہے، جس سے
بندے پر روحانیت
کے دروازے کھول
دیئے جاتے ہیں اور وہ
معرفت کے راستے میں
داخل ہو جاتا ہے۔



عالم فقہی صاحب نے
اسمِ اعظم کے فضائل و وظائف اور ان کی تاثیر کو
نہایت مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔



40 اردو بازار
لاہور پاکستان

دارالہدیٰ پبلیشرز

نظامی، عبدالرشید قزلباشی، کراچی، ایمان، نظامی، لاہور، 44-45، 46-47، 48-49، 50-51، 52-53، 54-55، 56-57، 58-59، 60-61، 62-63، 64-65، 66-67، 68-69، 70-71، 72-73، 74-75، 76-77، 78-79، 80-81، 82-83، 84-85، 86-87، 88-89، 90-91، 92-93، 94-95، 96-97، 98-99، 100-101، 102-103، 104-105، 106-107، 108-109، 110-111، 112-113، 114-115، 116-117، 118-119، 120-121، 122-123، 124-125، 126-127، 128-129، 130-131، 132-133، 134-135، 136-137، 138-139، 140-141، 142-143، 144-145، 146-147، 148-149، 150-151، 152-153، 154-155، 156-157، 158-159، 160-161، 162-163، 164-165، 166-167، 168-169، 170-171، 172-173، 174-175، 176-177، 178-179، 180-181، 182-183، 184-185، 186-187، 188-189، 190-191، 192-193، 194-195، 196-197، 198-199، 200-201، 202-203، 204-205، 206-207، 208-209، 210-211، 212-213، 214-215، 216-217، 218-219، 220-221، 222-223، 224-225، 226-227، 228-229، 230-231، 232-233، 234-235، 236-237، 238-239، 240-241، 242-243، 244-245، 246-247، 248-249، 250-251، 252-253، 254-255، 256-257، 258-259، 260-261، 262-263، 264-265، 266-267، 268-269، 270-271، 272-273، 274-275، 276-277، 278-279، 280-281، 282-283، 284-285، 286-287، 288-289، 290-291، 292-293، 294-295، 296-297، 298-299، 300-301، 302-303، 304-305، 306-307، 308-309، 310-311، 312-313، 314-315، 316-317، 318-319، 320-321، 322-323، 324-325، 326-327، 328-329، 330-331، 332-333، 334-335، 336-337، 338-339، 340-341، 342-343، 344-345، 346-347، 348-349، 350-351، 352-353، 354-355، 356-357، 358-359، 360-361، 362-363، 364-365، 366-367، 368-369، 370-371، 372-373، 374-375، 376-377، 378-379، 380-381، 382-383، 384-385، 386-387، 388-389، 390-391، 392-393، 394-395، 396-397، 398-399، 400-401، 402-403، 404-405، 406-407، 408-409، 410-411، 412-413، 414-415، 416-417، 418-419، 420-421، 422-423، 424-425، 426-427، 428-429، 430-431، 432-433، 434-435، 436-437، 438-439، 440-441، 442-443، 444-445، 446-447، 448-449، 450-451، 452-453، 454-455، 456-457، 458-459، 460-461، 462-463، 464-465، 466-467، 468-469، 470-471، 472-473، 474-475، 476-477، 478-479، 480-481، 482-483، 484-485، 486-487، 488-489، 490-491، 492-493، 494-495، 496-497، 498-499، 500-501، 502-503، 504-505، 506-507، 508-509، 510-511، 512-513، 514-515، 516-517، 518-519، 520-521، 522-523، 524-525، 526-527، 528-529، 530-531، 532-533، 534-535، 536-537، 538-539، 540-541، 542-543، 544-545، 546-547، 548-549، 550-551، 552-553، 554-555، 556-557، 558-559، 560-561، 562-563، 564-565، 566-567، 568-569، 570-571، 572-573، 574-575، 576-577، 578-579، 580-581، 582-583، 584-585، 586-587، 588-589، 590-591، 592-593، 594-595، 596-597، 598-599، 600-601، 602-603، 604-605، 606-607، 608-609، 610-611، 612-613، 614-615، 616-617، 618-619، 620-621، 622-623، 624-625، 626-627، 628-629، 630-631، 632-633، 634-635، 636-637، 638-639، 640-641، 642-643، 644-645، 646-647، 648-649، 650-651، 652-653، 654-655، 656-657، 658-659، 660-661، 662-663، 664-665، 666-667، 668-669، 670-671، 672-673، 674-675، 676-677، 678-679، 680-681، 682-683، 684-685، 686-687، 688-689، 690-691، 692-693، 694-695، 696-697، 698-699، 700-701، 702-703، 704-705، 706-707، 708-709، 710-711، 712-713، 714-715، 716-717، 718-719، 720-721، 722-723، 724-725، 726-727، 728-729، 730-731، 732-733، 734-735، 736-737، 738-739، 740-741، 742-743، 744-745، 746-747، 748-749، 750-751، 752-753، 754-755، 756-757، 758-759، 760-761، 762-763، 764-765، 766-767، 768-769، 770-771، 772-773، 774-775، 776-777، 778-779، 780-781، 782-783، 784-785، 786-787، 788-789، 790-791، 792-793، 794-795، 796-797، 798-799، 800-801، 802-803، 804-805، 806-807، 808-809، 810-811، 812-813، 814-815، 816-817، 818-819، 820-821، 822-823، 824-825، 826-827، 828-829، 830-831، 832-833، 834-835، 836-837، 838-839، 840-841، 842-843، 844-845، 846-847، 848-849، 850-851، 852-853، 854-855، 856-857، 858-859، 860-861، 862-863، 864-865، 866-867، 868-869، 870-871، 872-873، 874-875، 876-877، 878-879، 880-881، 882-883، 884-885، 886-887، 888-889، 890-891، 892-893، 894-895، 896-897، 898-899، 900-901، 902-903، 904-905، 906-907، 908-909، 910-911، 912-913، 914-915، 916-917، 918-919، 920-921، 922-923، 924-925، 926-927، 928-929، 930-931، 932-933، 934-935، 936-937، 938-939، 940-941، 942-943، 944-945، 946-947، 948-949، 950-951، 952-953، 954-955، 956-957، 958-959، 960-961، 962-963، 964-965، 966-967، 968-969، 970-971، 972-973، 974-975، 976-977، 978-979، 980-981، 982-983، 984-985، 986-987، 988-989، 990-991، 992-993، 994-995، 996-997، 998-999، 1000-1001